

أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ (ابن جرير)

مَعَارِفُ الْبَيِّنَاتِ

فِي

أَعْرَابِ الْقُرْآنِ

جلد ثالث (سورة مريم تا سورة الصف)

تأليف

استاذ العلماء شيخ الحديث حضرت مولانا

الاسم: **عبد الرحمن بن اودھرووی** حفظہ اللہ

فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان

مدير: جامعہ نور القرآن والسنة پل شاہ نال لودھراں

واتاذا احديث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ املدین

061-4544965
0300-7828402 ملتان، پاکستان



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ (الحديث)

مَعَارِفُ الْبَيَانِ

فِي

إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

جلدِ ثالث

سُورَةُ مَرْيَمَ تَا سُورَةُ الصَّافَّاتِ

تأليف

أستاذ العلماء شيخ الحديث حضرت مولانا

ابو اسامه عبد الرحمن صاحب لودھروی حفظہ اللہ

فاضل: جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنتہ پبل شاہ نال لودھراں

واستاد الحدیث: جامعہ سرانج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان

کتاب کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب **مَعَارِفُ الْبَيَانِ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ** جلد ثالث

سُورَةُ مَرْيَمَ تَا سُورَةُ الصَّفَاتِ

تالیف : ابواسامہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب لودھروی

مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ لاہور

فون نمبر ۰۲۸۲۸۲۰۲-۷۸۲۸۲۰۲-۰۳۰۰-۰۳۵۳۹۶۶۵/۰۳۱-۰۶۱

ملنے کے پتے

۹۹... جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان ☆ ادارہ اشاعت الخیر ملتان ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان

☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۷۲۲۱۳۹۵/۳۷۲۲۱۳۹۵

☆ مکتبہ خلیل لاہور

☆ مکتبہ العلم اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۷۲۳۱۷۸۸/۳۷۲۱۱۷۸۸

☆ قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی فون ۰۲۱-۳۲۲۱۲۲۲۱/۳۲۲۱۲۲۲۰

☆ مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی

۰۲۱-۳۲۲۱۳۰۵۸

☆ کتب خانہ اشرفیہ کراچی فون نمبر

۰۲۱-۳۲۲۱۳۷۶۸


☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون نمبر

محمد سزہ صدیق تریشی صاحب

بنععاون

اس کتاب کی صحیح کئی حوالہ کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود کبھی کوئی غلطی نظر آئے تو تامل فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی صحیح کیا جاسکے۔ جزا خیر و جسد مبارک (اور وہ)

ضروری گزارش



سُورَةُ مَرْيَمَ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۹	ترکیب رکوع نمبر ۳	۷	ترکیب رکوع نمبر ۱
۲۳	ترکیب رکوع نمبر ۵	۱۰	ترکیب رکوع نمبر ۲
۲۷	ترکیب رکوع نمبر ۶	۱۷	ترکیب رکوع نمبر ۳

سُورَةُ طه

۵۱	ترکیب رکوع نمبر ۵	۳۰	ترکیب رکوع نمبر ۱
۵۵	ترکیب رکوع نمبر ۶	۳۵	ترکیب رکوع نمبر ۲
۵۷	ترکیب رکوع نمبر ۷	۴۱	ترکیب رکوع نمبر ۳
۶۱	ترکیب رکوع نمبر ۸	۴۷	ترکیب رکوع نمبر ۴

سُورَةُ الانبياء

۷۷	ترکیب رکوع نمبر ۵	۶۳	ترکیب رکوع نمبر ۱
۸۲	ترکیب رکوع نمبر ۶	۶۶	ترکیب رکوع نمبر ۲
۸۸	ترکیب رکوع نمبر ۷	۷۱	ترکیب رکوع نمبر ۳
		۷۴	ترکیب رکوع نمبر ۴

سُورَةُ الْحَجَّ

۱۰۷	ترکیب رکوع نمبر ۶	۹۳	ترکیب رکوع نمبر ۱
۱۱۰	ترکیب رکوع نمبر ۷	۹۷	ترکیب رکوع نمبر ۲
۱۱۳	ترکیب رکوع نمبر ۸	۱۰۰	ترکیب رکوع نمبر ۳
۱۱۵	ترکیب رکوع نمبر ۹	۱۰۲	ترکیب رکوع نمبر ۴
۱۱۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۰	۱۰۵	ترکیب رکوع نمبر ۵

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

۱۲۳	ترکیب رکوع نمبر ۲	۱۲۱	ترکیب رکوع نمبر ۱
-----	-------------------	-----	-------------------

۱۳۸	ترکیب رکوع نمبر ۵۔۔۔	۱۲۸	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔
۱۴۱	ترکیب رکوع نمبر ۶۔۔۔	۱۳۲	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔

سُورَةُ النُّورِ

۱۶۵	ترکیب رکوع نمبر ۶۔۔۔	۱۴۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۔۔۔
۱۶۹	ترکیب رکوع نمبر ۷۔۔۔	۱۵۱	ترکیب رکوع نمبر ۲۔۔۔
۱۷۲	ترکیب رکوع نمبر ۸۔۔۔	۱۵۳	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔
۱۷۵	ترکیب رکوع نمبر ۹۔۔۔	۱۵۷	ترکیب رکوع نمبر ۴۔۔۔
		۱۶۲	ترکیب رکوع نمبر ۵۔۔۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

۱۸۸	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔	۱۷۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۔۔۔
۱۹۱	ترکیب رکوع نمبر ۵۔۔۔	۱۸۰	ترکیب رکوع نمبر ۲۔۔۔
۱۹۵	ترکیب رکوع نمبر ۶۔۔۔	۱۸۳	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

۲۱۹	ترکیب رکوع نمبر ۷۔۔۔	۲۰۰	ترکیب رکوع نمبر ۱۔۔۔
۲۲۱	ترکیب رکوع نمبر ۸۔۔۔	۲۰۱	ترکیب رکوع نمبر ۲۔۔۔
۲۲۳	ترکیب رکوع نمبر ۹۔۔۔	۱۰۳	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔
۲۲۵	ترکیب رکوع نمبر ۱۰۔۔۔	۲۰۹	ترکیب رکوع نمبر ۴۔۔۔
۲۲۷	ترکیب رکوع نمبر ۱۱۔۔۔	۲۱۲	ترکیب رکوع نمبر ۵۔۔۔
		۲۱۶	ترکیب رکوع نمبر ۶۔۔۔

سُورَةُ النَّملِ

۲۵۱	ترکیب رکوع نمبر ۵۔۔۔	۲۳۳	ترکیب رکوع نمبر ۱۔۔۔
۲۵۳	ترکیب رکوع نمبر ۶۔۔۔	۲۳۷	ترکیب رکوع نمبر ۲۔۔۔
۲۵۷	ترکیب رکوع نمبر ۷۔۔۔	۲۴۲	ترکیب رکوع نمبر ۳۔۔۔
		۲۴۷	ترکیب رکوع نمبر ۴۔۔۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

۲۷۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۲۶۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۲۸۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۲۶۴	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۲۸۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸	۲۶۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
۲۸۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹	۲۷۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴
		۲۷۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

۳۰۴	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۲۹۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۰۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۲۹۴	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۱۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۲۹۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
		۳۰۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴

سُورَةُ الزُّمَرِ

۳۱۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۳۱۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۲۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۳۱۴	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۲۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۳۱۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

سُورَةُ الْقَمَنِ

۳۳۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳	۳۳۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۳۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۳۳۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲

سُورَةُ السَّجْدَةِ

۳۴۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳	۳۴۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
		۳۴۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

۳۵۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳	۳۴۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۵۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۳۵۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲

۳۷۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸	۳۶۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵
۳۷۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹	۳۶۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶
		۳۶۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷

سُورَةُ سَبَا

۳۸۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۳۷۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۸۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۳۷۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۹۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۳۸۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

سُورَةُ فَاطِرٍ

۴۰۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۳۹۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۴۰۴	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۳۹۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
		۳۹۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

سُورَةُ اٰیِس

۴۱۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۴۰۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۴۲۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۴۱۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
		۴۱۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

سُورَةُ الصَّفَاتِ

۴۴۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴	۴۲۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۴۴۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۴۲۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
		۴۳۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترکیب سُورَةُ مَرْيَمَ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ كَهَيِّصَ ۙ

آیت نمبر ۱: كَهَيِّصَ کی ترکیب سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرِيَّا ۙ

آیت نمبر ۲: ذِكْرُ مصدر مضاف، رَحْمَتِ مصدر مضاف رَبِّكَ مرکب اضافی مضاف الیہ عَبْدًا مرکب اضافی مبدل منہ زَكِرِيَّا بدل، مبدل منہ بادل رَحْمَتِ کا مفعول بہ، رَحْمَتِ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل اور مفعول بہ سے مل کر ذِكْرُ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ہو کر خبر ہے مبتدا مخدوف ہو کی یا هَذَا کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدًا خَفِيًّا ۙ

آیت نمبر ۳: اِذْ ظرف زمان مضاف نَادَى فعل ہو مستتر فاعل رَبَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ نِدًا خَفِيًّا مرکب تو صیغی مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی رَحْمَتِ مصدر کا مفعول فیہ ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۙ

آیت نمبر ۴: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے، یَاء حرف ندا اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل اَنَا ضمیر فاعل رَبِّیْ منادائی مضاف منصوب تقدیم مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر ندا، اِنَّ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم وَهَنَ فعل الْعَظْمُ ذوالحال، مِنْ نرف جار نون برائے وقایہ، یَاء ضمیر مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال وَهَنَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اسْتَعَلَ فعل الرَّاسُ فاعل شَيْبًا تیز، فعل بافاعل و تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

واو عاطفہ لَمْ اَكُنْ فعل ناقص اَنَا ضمیر مستتر اس کا اسم بآء حرف جاد دُعَاۤیِكَ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے شَقِيًّا کے، شَقِيًّا صیغہ صفت اَنَا ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنِّیْ وَهَنَ بہ معطوف ہے۔ رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے، یَاء حرف ندا اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل، رَبِّیْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معترضہ ہوں۔

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَ كَانَتْ اٰمْرًاۤیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَّلِیًّا ۙ

يَرْتَبِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ مِنْهُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ①

آیت نمبر ۶: واو عاطفان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم خِفْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل التَّوَالِي ذوالحال، مِنْ حرف جار وِزْ آوئی مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنِّی وَهَنْ بِہ معطوف ہے۔ واو حالیہ اور اس کے بعد قَدْ مقدّر ہے، کَانَتْ فعل ناقص اِمْرَاۃً اِنِّی مرکب اضافی اس کا اسم ہے، عَاقِرًا اسم فاعل ہی مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ التَّوَالِي سے حال ہے، فَاء جزائیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ هَذَا حَالًا، هَبَّ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل بی جار با مجرور متعلق اول ہوئے، مِنْ حرف جار لَدُنْكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے وَلِيًّا موصوف، يَرِثُ فعل ہو مستتر فاعل لَوْنِ برائے وقایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَرِثُ فعل ہو مستتر فاعل، مِنْ حرف جار اِلِ يَعْقُوبَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف وَلِيًّا کی صفت، موصوف با صفت هَبَّ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اجْعَلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل تَا ضمیر منصوب مفعول بہ اول، رَضِيًّا مفعول بہ ثانی، اور رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ جملہ انشائیہ معترضہ ہے، اجْعَلْ فعل امر اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ②

آیت نمبر ۷: یاء حرف نداء اَدْعُو کے قائم مقام، اَدْعُو فعل اَنَا مستتر فاعل زَكَرِيَّا عَلَّمًا منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، اِنْ حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم نُبَشِّرُكَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، یاء حرف جار غُلْمٍ موصوف اِسْمُهُ مرکب اضافی مبتداء، يَحْيٰى مرفوع تقدیر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ غُلْمٍ کی صفت اولی، لَمْ نَجْعَلْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَهُ جار با مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، مِنْ قَبْلُ جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے سَمِيًّا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور، جار با مجرور ظرف لغو نُبَشِّرُكَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداءنیہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ اَنۡىٰ يَكُوۡنُ لِىۡ غُلَمٌ وَّ كَاۡنَتِ اِمْرَاۡتِىۡ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ③

آیت نمبر ۸: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے، اَنِّی اسم استفہام کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر غُلْمٌ کا حال مقدم ہے، غُلْمٌ ذوالحال، ذوالحال باحال يَكُوۡنُ کا اسم مؤخر ہے، لِىۡ جار با مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ نداء کا جواب ہے، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو حالیہ کَانَتْ فعل ناقص اِمْرَاۡتِىۡ مرکب اضافی اس کا اسم عَاقِرًا صیغہ صفت ہی ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَدْ علامت فعل، بَلَغْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل مِنَ الْكِبَرِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق

ہوئے عیناً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف غلہ کا حال ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ وَ قَدْ خَلَقْتِكُمْ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا ۝۹

آیت نمبر ۹: قَالَ فَعَلٌ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، كَذَلِكَ جار باجور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر مبتدا مخدوف الامر کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوا۔ قَالَ فعل ربُّكَ مرکب انسانی فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هُوَ ضمیر مبتدا، عَلَىٰ جار باجور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے هَيْبٍ صیغہ صفت مشبہ هُوَ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَاَوْحَاۤءٍ حَالِيہ قَدْ علامت فعل خَلَقْتِكُمْ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْحَاۤءٍ لَمْ تَكُ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اس کا اسم شَيْئًا خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف هَيْبٍ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۙ قَالَ اَيُّكَ اَلَّا تَكْلِمَ النَّاسَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِيۤ اٰیَةً سَوِيًّا ۝۱۰

آیت نمبر ۱۰: قَالَ فَعَلٌ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یا آتی ہے اور یہ نداء ہے، اجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِي جار باجور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہے آيَةً مفعول بہ اول مؤخر ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ ہے، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اَيُّكَ مرکب اضافی مبتدا، اَنْ حرف مصدری و نصب لا تَكْلِمَ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل النَّاسَ مفعول بہ ثلث لِيۤ لَمْ يَكُنْ لِيۤ مرکب اضافی یا میز با تمیز مفعول فیہ، سَوِيًّا "تکلمہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا ثلث لِيۤ لَمْ يَكُنْ لِيۤ کی صفت ہے، لا تَكْلِمَ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۱

آیت نمبر ۱۱: فَأَاءَ عَاطِفٌ خَرَجَ فَعَلٌ هُوَ مستتر فاعل عَلَىٰ قَوْمِهِ جار باجور طرف لغو متعلق اول ہوئے مِنَ الْمِحْرَابِ جار باجور طرف متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَأَاءَ عَاطِفٌ اَوْحَىٰ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل إِلَيْهِمْ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اَنْ حرف تفسیر سَبِّحُوا فعل امر وَاَوْحَىٰ ضمیر فاعل بُكْرَةً وَعَشِيًّا معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ مفسر، مفسر با مفسر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ اَيُّكَ پر معطوف ہے۔

لِيُخَيِّبَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۙ وَ اَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝۱۲

آیت نمبر ۱۲: يَاۤءَ حَرْف نداء اَدْعُوۤا کے قائم مقام، اَدْعُوۤا فعل اَنَا ضمیر فاعل لِيُخَيِّبَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، خُذِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل الْكِتَابَ مفعول بہ بِقُوَّةٍ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خُذِ کے فاعل کا حال ہے۔ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہو کر قَالَ اللّٰهُ مخدوف کا مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ

ہوں، واوستینا فیہ اکتینا فعل ناقص ضمیر فاعل کا ضمیر ذوالحال صبیحا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ اول الحکمہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكُوٰةً ط وَ كَانَ تَقِيًّا ۝ وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

آیت نمبر ۱۳، ۱۴: واو عاطفہ حنانا موصوف من حرف جار لدا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ زکوٰۃ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف الحکمہ معطوف ہے۔ واو عاطفہ یا استینافیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم تقیًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ بڑا صفت مشبہ ہو مستتر فاعل، بناء حرف جار والدیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَکُنْ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم جبارا عَصِيًّا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متانفہ ہوں یا اکتینا پھر معطوف ہے۔

وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

آیت نمبر ۱۵: واو عاطفہ سلمہ مبتدا (چونکہ یہ مدح والے معنی کے عموم پر دل ہے، اس طرح اس کا مبتدا بننا صحیح ہے) علیہ جہ جار مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم فاعل ہو ضمیر فاعل یومہ مضاف و ولد فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ یومہ مضاف یوموت فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ یومہ مضاف یبعث فعل مجہول ہو ضمیر ذوالحال حیًا حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائین کا مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ یَکُنْ جَبَّارًا پھر معطوف ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ مَرْيَمَ رَاذًا تَبَدَّدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

آیت نمبر ۱۶: واوستینا فیہ اذکر فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل فی الکتاب جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مریمہ مبدل منہ اذ طرف زمان مضاف انت تبددت فعل ہی ضمیر مستتر فاعل من حرف جار اهلها مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مکانا شرقیًا مرکب توصیفی مفعول بہ ہے یا مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مریمہ سے بدل ہے، مبدل منہ با بدل اذکر کا مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں۔

فَاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

آیت نمبر ۱۷: فاء عاطفہ اتخذت فعل ہی مستتر فاعل من حرف جار دونہم مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم حجابا مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ارسلنا فعل

ناضمیر فاعل الیہا جار مجرور متعلق ہوئے رُوْحًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْتَبَذْتَ پر معطوف ہے۔ فاء عاطفہ کَمَثَلِ فعل ہو مستتر فاعل لہا جار مجرور متعلق ہوئے بَشَرًا اسوِیًا مرکب توصیفی کَمَثَلِ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَزَسَلْنَا پر معطوف ہے۔

قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا ۱۸

آیت نمبر ۱۸: قَالَتْ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَعُوذُ فعل انا مستتر فاعل بِالرَّحْمٰنِ جار مجرور متعلق اول ہوئے، مِنْكَ جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف شرط کُنْتُ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم تَقِيًّا صیغہ صفت اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے فَاَنْتَ کُنْتُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوا

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ مِنْ رَّبِّكَ سَلِّ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا ۱۹

آیت نمبر ۱۹: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اِنَّ حرف مشبہ بالفعل کھوف، مَا كَاذ انا ضمیر مبتداء، رَسُوْلٌ مضاف رَّبِّكَ مرکب اضافی مضاف الیہ لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنَّ مقدر ہے اَهَبَ فعل انا ضمیر مستتر فاعل لَكَ جار مجرور متعلق ہوئے غُلَمًا زَكِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور رَسُوْلٌ کے متعلق ہوئے، رَسُوْلٌ مضاف با مضاف الیہ و متعلق خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالَتْ اَنِّي يَكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشْرٌ وَّلَمْ اَكْ بَغِيًّا ۲۰

آیت نمبر ۲۰: قَالَتْ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اَنِّي طرف مکان كَانَتْ لِيْ کا مفعول فیہ ہو کر غُلْمٌ کا حال مقدم ہذا الحال باحال يَكُوْنُ کا اسم مؤخر فی جار مجرور طرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ اسمیہ انك تہیہ مقولہ، قول بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ لَمْ يَمْسَسْنِيْ فعل نون و تاء یاء ضمیر مفعول بہ بَشْرٌ فاعل فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ اَكْ فعل ناقص انا ضمیر اسم بَغِيًّا صیغہ صفت انا ضمیر فاعل، صیغہ صفت بافاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف غُلْمٌ کا حال ہے،

قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓئِنِّ ؕ وَّلِنَجْعَلَنَّ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَّرَحْمَةً مِّنَّا ؕ وَّكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًا ۲۱

آیت نمبر ۲۱: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كَذٰلِكَ جار مجرور طرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر مبتداء محذوف اَلَا مَرُءٌ کی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قَالَ فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہو ضمیر مبتداء عَلٰی جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، هٰٓئِنِّ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل، متعلق مقدم سے

مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قولہ بمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ لامر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے نَجْعَلْ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، اَيَّةٌ مَوْصُوفٌ لِلنَّاسِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مَتَّعٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِنَّ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاُوْءِ عَاطِفَةٌ رَحْمَةٌ مَوْصُوفٌ مِنْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مَتَّعٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِنَّ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٍ بِدَوْنِ مَلِكٍ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ خَلَقْنَا كَيْ مَتَّعٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَتَّعٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ بِمَعْطُوفٍ هِيَ۔ وَاُوْءِ اسْتِثْنَاءٌ كَانِ فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرَسٌّ كَا سَمِ اَمْرًا مَقْضِيًّا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَنْفَذَةٌ

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: فَاءَ عَاطِفَةٌ حَمَلَتْ فَعْلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنِوْنِ مَلِكٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاءَ حَرْفٌ عَطْفٌ اِنْتَبَذَتْ فَعْلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِهٖ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ حَامِلَةٌ كَيْ مَتَّعٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِنَّ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاُوْءِ اسْتِثْنَاءٌ كَانِ فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرَسٌّ كَا سَمِ اَمْرًا مَقْضِيًّا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَنْفَذَةٌ

فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ لِيَلْتَمِيْنِيْ مِنْ قَبْلِ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: فَاءَ عَاطِفَةٌ اَجَاءَ فَعْلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ الْمَخَاضُ فَاعِلٌ اِلَى حَرْفٌ جَارٌ جِذْعِ النَّخْلَةِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَوْ مَتَّعٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَّعٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَنْفَذَةٌ بِمَعْطُوفٍ هِيَ۔ قَالَتْ فَعْلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِدَوْنِ مَلِكٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ هِيَ يَا حَرْفٌ تَعْبِيَةٌ، كَيْتِ حَرْفٌ تَمْسِيٌّ نَوْنٌ بَرَاءٌ وَقَايَةُ يَاءٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا سَمِ مِتُّ فَعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا سَمِ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْهِ، دَوْنِ مَلِكٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوْءِ عَاطِفَةٌ كُنْتُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا سَمِ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ مَعْطُوفٌ هِيَ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٌ، حَرْفٌ تَمْسِيٌّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِضْطِنَافِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

فَتَادِبْهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: فَاءَ عَاطِفَةٌ تَادَى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ حَرْفٌ جَارٌ تَحْتِهَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَوْ مَتَّعٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَّعٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَالَتْ بِمَعْطُوفٍ هِيَ۔ اَنْ حَرْفٌ تَفْسِيْرٌ لَا تَحْزَنِيْ فَعْلٌ يَاءٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، دَوْنِ مَلِكٍ مَقْسَّرٌ هِيَ يَا اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ هِيَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ بِوَسْطَةِ حَرْفِ جَرِّ كَيْ تَادَى كَيْ مَتَّعٌ هُوَ۔ قَدْ عَلَامَةٌ فَعْلٌ، جَعَلَ فَعْلٌ رَبُّكِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ فَاعِلٌ تَحْتَكِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مَتَّعٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي مُقَدَّمٌ، سَرِيًّا مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ مَوْخَرٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُنْطَلِقَةٌ هِيَ بِمُسْتَنْفَذَةٍ

وَهُزِّيْ اِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واؤ عاطفہ ہُزئی فعل امریاء ضمیر مرفوع متصل فاعل الیک جہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے باء جادہ زائدہ جَدِ النَّحْلَةِ مرکب اضافی لفظا جبرور ملاً منصوب مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ انشائیہ لَا تُحْزِنِي پر معطوف ہے۔ تَسَاوِطُ فعل ہیجی مستتر فاعل عَلَیْكَ جہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے وَطْبًا جَدِیْتًا مرکب توصیفی مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط محذوف اِنْ تَهْزِي الْيَكِ الحکی جزاء ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَكُنِي وَ اَشْرَبِي وَ قَرِي عَيْنًا ۚ فَاِمَا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقَوْلِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًا ۝

آیت نمبر ۲۶: فاء عاطفہ کئی فعل امریاء ضمیر مرفوع فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَشْرَبِيْ فعل امریاء ضمیر مرفوع فاعل، دونوں مل کر معطوف اول ہے، واؤ عاطفہ قَرِيْ فعل امریاء ضمیر مرفوع فاعل عَيْنًا تمييز محول عن الفاعل۔ تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ با معطوفین ہُزئی پر معطوف ہے۔ فاء استینافیہ اِنْ حرف شرط مازائدہ تَرِيْنَ فعل یائے محذوف لا لتمام السکنین فاعل مِنَ الْبَشَرِ طرف لغو متعلق ہوئے اَحَدًا مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قَوْلِيْ فعل امریاء ضمیر متصل فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، اِنْ حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم نَذَرْتُ فعل تاء منہ، ضمیر فاعل لِلرَّحْمٰنِ جہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے صَوْمًا مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ لَنْ اَكْلِمَ فعل انا مستتر فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ، اِنْسِيًا مفعول بہ، چادوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِيْلُهُ ۙ قَالُوْا اَيْمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

آیت نمبر ۲۷: فاء استینافیہ اَتْت فعل ہیجی مستتر ذوالحال پہ جہ باجرور طرف مستقر مُتَّبِعًا هَيْتَةً کے متعلق ہو کر فاعل قَوْمَهَا مرکب اضافی مفعول بہ تَحْمِيْلُ فعل ہیجی مستتر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر اَتْت کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں قَالُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل انا مستتر فاعل مَرْيَمُ ملاً منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، لام موطئہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، جِئْتِ فعل تائے مسورہ فاعل شَيْئًا فَرِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ ہے کیونکہ جِئْتِ فَعَلْتِ کے معنی کو متضمن ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَاۤأَخْتِ هُرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكَ اِمْرًا سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ۝

آیت نمبر ۲۸: یاء حرف نداء اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل انا مستتر فاعل اُخْتِ هُرُوْنَ منادای مضاف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، مَا نَا فِیْہِ كَانَ فعل ناقص اَبُوْكَ مرکب اضافی اس کا اسم اِمْرًا سَوْءٍ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا نَا فِیْہِ كَانَتْ فعل ناقص اُمُّكَ مرکب اضافی اس کا اسم بَغِيًّا صیغہ صفت ہیجی مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ نداء ہے ہوں۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

آیت نمبر ۲۹: فقَاء استثنائیہ اشارت فعل ہی مستتر فاعل إِلَيْهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول کَيْفَ ظرف مکان کَائِنِينَ کا مفعول فیہ ہو کر نُكَلِّمُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے نُكَلِّمُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول کان تامہ ہو مستتر فاعل فِي الْمَهْدِ جار مجرور متعلق ہوئے صَبِيًّا کان کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ نُكَلِّمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ مَوْ أَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

آیت نمبر ۳۱، ۳۰: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم عَبْدُ اللَّهِ مرکب اضافی خبر، اِنّ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنّی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ الْكِتَابِ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ نَبِيًّا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ مُبْرَكًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَوْصِيَنِي فعل ہو مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ، بَاء حرف جار الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ قول کے مقولہ میں داخل ہے آيِنَ مَآ شَرَطِيَه كَا كُنْتُ كَا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم كُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے فَقَدْ جَعَلَنِي نَبِيًّا مُبْرَكًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جملہ معترضہ ہے، مَا حرف مصدری دُمْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم حَيًّا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر و قَت مضاف محذوف کا مضاف الیہ ہو کر اَوْصِيَنِي کا مفعول فیہ ہے۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

آیت نمبر ۳۲: واو عاطفہ بَرًّا صیغہ صفت مشبہ اَنَا مستتر فاعل بَاء جارہ وَالِدَيْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر بواسطہ عطف جَعَلَنِي کا مفعول بہ ثانی ہے، واو عاطفہ لَمْ يَجْعَلْنِي فعل ہو مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ جَبَّارًا شَقِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلَ پر معطوف ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی يَوْمٍ وَّلِدْتُ وَايَوْمٍ مَرَّ امُوتُ وَايَوْمٍ اُبْعَثُ حَيًّا ۝

آیت نمبر ۳۳: واو عاطفہ السَّلَامُ مبتدأ، عَلٰی جار مجرور ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہوئے، کَائِنِ اسم فاعل ہو مستتر فاعل

یَوْمَ مَضَىٰ وَوَلَدَتْ نَعْلٌ مَجْهُولٌ تَاءٌ مضمومہ نائب فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَوْمَ مَضَىٰ مضاف اَمْوَاتٌ نَعْلٌ تَاءٌ مضمومہ فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ یَوْمَ مَضَىٰ مضاف اُبْعَثْ نَعْلٌ مَجْهُولٌ اَنَا ضمیر مستتر ذوالحال حیثاً حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، نَعْلٌ مَجْهُولٌ بانائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائین کا مفعول فیہ ہے، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ یَجْعَلُوْهُ مَعطوف ہے۔

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: ذٰلِكَ اسم اشرہ مبتدا، عِيسَى موصوف یا بدل منہ یا مین، ابْنُ مَرْيَمَ مرکب اضافی صفت یا بدل یا عطف بیان پھر مرکب توصیفی وغیرہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قَوْلَ الْحَقِّ مضاف الیہ پھر مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول فیہ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم یَمْتَرُونَ نَعْلٌ واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ صفت، موصوف ہ صفت نَعْلٌ محذوف اَقْوَلُ کا مفعول مطلق ہے، یا نَعْلٌ محذوف اَعْنِي کا مفعول بہ ہے۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَہٗ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: مَا حرف نفی کَانَ نَعْلٌ ناقص لِلّٰہِ جار مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَنْ حرف مصدری و نصب یَّتَّخِذَ نَعْلٌ ہُوَ مستتر فاعل، مفعول بہ اول اَحَدًا محذوف ہے مِنْ حرف جار زائد و لَدِ اِقْطَاعِ مجرور عملاً منصوب مفعول بہ ثانی، نَعْلٌ بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اسم مؤخر، نَعْلٌ ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ سُبْحٰنَہٗ مرکب اضافی نَعْلٌ محذوف سَبَّحْنَا کا مفعول مطلق ہے پھر جملہ معترضہ ہے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قَضٰی نَعْلٌ ہُوَ مستتر فاعل اَمْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ اِنَّ حرف تحقیق کھوف، مَا کافہ ہے یَقُوْلُ نَعْلٌ ہُوَ مستتر فاعل لَہٗ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، کُنْ نَعْلٌ ہم اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر مقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ یَکُوْنُ نَعْلٌ ہم ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف ہُوَ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو استینا فی اِنَّ حرف تحقیق اللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم ربی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ فَاء جزائیہ اور شرط محذوف ہے اِنْ کُنْتُمْ مُّقْرِنِيْنَ بِرُبُّوْیْتِيْہِ، اَعْبُدُوْا نَعْلٌ امر واو ضمیر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ هٰذَا اسم اشرہ مبتدا، صِرَاطٌ موصوف مُسْتَقِيْمٌ اسم ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوف ہ صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: فَكَأَيُّ اسْتِغْنَاءٍ فِي اِخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ لِمَنْ اِخْتَلَفَ لُغَاتِهِمْ مِنَ حَرْفٍ جَارٍ بَيْنَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالْثَنَاءِ كَيْفَ تَعْلَقُ هُوَ كَرِهَالٍ، وَذُو الْحَالِ بِحَالٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ جُمْلَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِوَسْفَاءٍ عَاطِفَةٍ وَتِلْكَ مُبْتَدَأٌ (اور اس کا نکرہ ہونے کے باوجود مبتدیانہ اس لئے درست ہے کہ اس میں برائی کے معنی کا عموم پایا جاتا ہے، یا یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ جہنم کی ایک ولایت کا نام ہونے کی وجہ سے معرف ہے) لام حرف جار الذین کفروا موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائون کے متعلق ہوئے، ومن حرف جار مشہد مضاف یوم عظیمہ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو کائون کے متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ فاختلفتہ بمعطوف ہے۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ لَا يَوْمَ يَأْتُوكُمْ فَتَأْتُوا السَّخِرَ لَكِنِ الظُّلُمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤

آیت نمبر ۳۸: أَسْمِعْ فَعْلٌ تَجِبُ بَاءٌ حَرْفٌ جَارٌ زَلَمَةٌ هُمْ ضَمِيرٌ لِقَطَا مَجْرُورٌ مَعْلَمٌ فَوْعٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ جُمْلَةٌ اِشْتِغَاءِيَّةٌ هُوَ كَرِهَالٍ مَعطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ أَبْصِرْ فَعْلٌ تَجِبُ بِمَعْنَى فَعْلٍ مَاضِيٍّ بِهِمْ مَحذُوفٌ هِيَ بَاءٌ حَرْفٌ جَارٌ زَلَمَةٌ هُمْ ضَمِيرٌ لِقَطَا مَجْرُورٌ مَعْلَمٌ فَوْعٌ فَاعِلٌ، وَدُونِ مَلٍ كَرِهَالٍ اِشْتِغَاءِيَّةٌ مَعطوف ہے، یَوْمَ مَضَى مضاف یأتون فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنُونَ مَلٍ كَرِهَالٍ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی أَسْمِعْ وَأَبْصِرْ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ، لَكِنِ حَرْفٌ اسْتِدْرَاكٌ مَهْمَلٌ الظُّلُمُونَ مُبْتَدَأٌ الْيَوْمَ خَبَرٌ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ فِي حَرْفٍ جَارٍ ضَلَالٍ مُّبِينٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالْيَوْمِ كَيْفَ تَعْلَقُ هُوَ كَرِهَالٍ، وَذُو الْحَالِ بِحَالٍ فَاعِلٌ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

آیت نمبر ۳۹: وَاوَّ عَاطِفَةٌ أَنْذِرْ فَعْلٌ اِمْرَأَتٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِيَ يَوْمَ مَضَى مضاف الْحَسْرَةُ مصدر اذ ظرف زمان مضاف قُضِيَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ اَلْأَمْرُ نَائِبٌ فَاعِلٌ وَدُونِ مَلٍ كَرِهَالٍ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی الْحَسْرَةُ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ، الْحَسْرَةُ مَفْعُولٌ فِيهِ سِے مَلٍ كَرِهَالٍ مضاف الیہ، مرکب اضافی أَنْذِرْ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ مَفْعُولِينَ جُمْلَةٌ اِشْتِغَاءِيَّةٌ اَسْمِعْ پَر مَعطوف ہے وَاوَّ حَالِيَّةٌ هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ فِي غَفْلَةٍ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالْيَوْمِ كَيْفَ تَعْلَقُ هُوَ كَرِهَالٍ، وَذُو الْحَالِ بِحَالٍ فَاعِلٌ، مَعطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوف، مَعطوف علیہ بِمَعطوفٍ أَنْذِرْ هُمْ كِي ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سِے حَالٌ ہے

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ⑦

آیت نمبر ۴۰: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ نَا ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَالِاسْمِ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ نَرِثُ فَعْلٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ الْأَرْضُ مَعطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ مَنْ اِسْمٌ مَوْصُولٌ عَلَيْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ فَعْلٌ مَحذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَيْفَ تَعْلَقُ هُوَ كَرِهَالٍ، مَوْصُولٌ بِأَصْلِهِ مَعطوف، مَعطوف علیہ بِمَعطوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَرِهَالٍ، اِنَّ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ اِنَّا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِنَوْ مُتعلقٍ مُقَدَّمٍ هُوَ، يُرْجَعُونَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ وَتَعْلَقُ مُقَدَّمٌ سِے مَلٍ كَرِهَالٍ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوف، مَعطوف علیہ بِمَعطوفٍ جُمْلَةٌ مُتَّصِفَةٌ هُوَ

﴿ ۳۱ ﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿ ۳۲ ﴾

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰهٖمَ ؕ اِنَّهٗ کَانَ صِدٖقًا نَبِیًّا ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واذا استینافہ اذکُرْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل فی الکتب جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے اِبْرٰهٖمَ مفعول بہ چاروں مل کر جملہ انشائیہ متانفہ ہولیان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم صِدٖقًا نَبِیًّا مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیان باسم و خبر اِبْرٰهٖمَ سے حال ہے یا جملہ معترضہ ہے۔

اِذْ قَالَ لِاٰبِیْهِ یٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَا لَا یُبْصِرُ وَا لَا یُغْنِیْ عَنْکَ شَیْئًا ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: اذْ ظرف زمان مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لام حرف جار اِبْرٰهٖمَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یٰاَبَتِ یہ اصل میں یٰاَبٰی ہے یاے مخذوفہ کے عوض تملالی گئی ہے، اور یہ ندا ہے لِمَ یہ اصل میں لِمَا ہے یہ جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَعْبُدُ فعل آت ضمیر مستتر فاعل مَا اسم موصول لَا یَسْمَعُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا یُبْصِرُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا یُغْنِیْ فعل ہو مستتر فاعل عَنْکَ جار مجرور متعلق ہوئے، شَیْئًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو کر صلہ، موصول باصلہ تَعْبُدُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر جواب ندا، ندا، باجواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اِبْرٰهٖمَ سے بدل ہے۔

یٰاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِآءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِکَ فَاتَّبِعْنِیْ اَھْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: یٰاَبَتِ یہ اصل میں یٰاَبٰی ہے اور یہ ندا ہے، اِنِّیْ حرف تحقیق یٰاَبٰی ضمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل نون و قایہ یٰاَبٰی ضمیر مفعول بہ مِنَ الْعِلْمِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مَا اسم موصول لَمْ یَاْتِکَ فعل ہو مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ جِآءَ کا فاعل ہے، جِآءَ فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ خبر ہے، اِنِّیْ باسم و خبر جواب ندا ہے، ندا، باجواب جملہ انشائیہ ندا ہے ہوا۔ قَدْ فصیحہ اور اس کی شرط مخذوف ہے اِنِّیْ اَزْدَتْ الْھِدٰیۃَ، اَتَّبِعْ فعل امر آت مستتر فاعل نون برائے و قایہ یٰاَبٰی ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جزاء، شرط مخذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا اَھْدِکَ فعل مضارع یہ اصل میں اَھْدِیْ ہے اِنَّا مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول صِرَاطًا سَوِیًّا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط مخذوف اِنِّیْ تَتَّبِعْنِیْ کی جزاء ہے اس لئے کہ یہ جواب امر ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

یٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِیًّا ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: یٰاَبَتِ یہ اصل میں یٰاَبٰی ہے اور یہ ندا ہے، لَا تَعْبُدُ فعل نہی آت مستتر فاعل الشَّیْطٰنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جواب ندا ہے، ندا، باجواب جملہ انشائیہ ندا ہے ہولیان حرف تحقیق الشَّیْطٰنَ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم لِلرَّحْمٰنِ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے عَصِیًّا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیان باسم و خبر تملہ

اسمیه خبریہ مطلقہ ہوں

يَا بَتِ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَاِيًّا ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: يَا بَتِ یہ اصل میں يَا اَبِي ہے اور یہ دعاء ہے، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَخَافُ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَمْسَسُ فعل کاف ضمیر مفعول بہ عَذَابٌ فاعل مِّنَ الرَّحْمٰنِ کائین کے متعلق ہو کر عَذَابٌ کی صفت ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تَكُوْنَ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم لِلشَّيْطٰنِ جار با مجرور متعلق مقدم وَاِيًّا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَخَافُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ اِن کی خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب دعاء ہے، دعاء با جواب جملہ انشائیہ دعائیہ ہے۔

قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَا بُرْهَيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ اِلَّا رَجُمْتُكَ وَ اَهْجُرُنِي مَلِيًّا ۝۳۶

آیت نمبر ۳۶: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزة حرف استفہام اَرَاغِبُ صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی، عَنِ حرف جار الْهَيْتِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور و اَرَاغِبُ کے متعلق ہوئے اَنْتَ ملامر فاعل اسم فاعل کا فاعل قائم مقام خبر ہے، مبتدا کی قسم ثانی اپنی خبر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ يَا بُرْهَيْمُ جملہ دعائیہ معترضہ ہے۔ لَّا حرف موطئہ القسم اور قسم مخدوف ہے اِن حرف شرط لَمْ تَنْتَهَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَّا حرف جوابیہ اَرَاغِبُ فعل اَنَا مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء مخدوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ وَاو عاطفہ اَهْجُرُنِي فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل نون برائے و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ مَلِيًّا مفعول فیہ ہے، یا بواسطہ موصوف مخدوف هَجُرًا کے مفعول مطلق ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ مخدوف ہے اور وہ فَاخْذُرْنِي ہے۔

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ جَسَّاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ط اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝۳۷

آیت نمبر ۳۷: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، سَلٰمٌ مبتدا، اور نکرہ ہونے کے باوجود اس کا مبتدا بننا اس لئے صحیح ہے کہ اس میں دعاء کا معنی ہے، عَلَيْكَ جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ سیدین علامت فعل، اَسْتَغْفِرُ فعل اَنَا مستتر فاعل لَكَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے رَبِّيْ مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم كَانَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بِيْ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے حَفِيًّا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر ہے، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَ اَعْتَزِلْكُمْ وَا مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَا دْعُوا رَبِّيْ صَلِّ عَلٰى اَبِيْكَ وَا اَكُوْنَ بِدُعَا رَبِّيْ شَقِيًّا ۝۳۸

آیت نمبر ۳۸: وَاو عاطفہ اَعْتَزِلْ فعل اَنَا مستتر فاعل كُمْ ضمیر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ مَا موصولہ تَدْعُوْنَ فعل وَاو ضمیر فاعل

ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال مِنْ دُونَ اللّٰهِ جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَعْتَزَلْ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَدْعُوا فعل انا مستتر فاعل رتی مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَسْتَغْفِرُ مَعْتَفٍ مفعول بہ، معطوف ہے۔ عَسَى فعل تام اَنْ حرف مصدری و نصب لَا اَكُوْنَ فعل ناقص انا مستتر اس کا اسم بآء حرف جار دَعَا رتی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، شَقِيًّا صیغہ صفت انا مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر عَسَى کا فاعل ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝۳۹

آیت نمبر ۳۹: فاء استینا فیہ لَمَّا ظرفیہ مستغنی عنی شرط ہے مفعول فیہ مقدم اَعْتَزَلْ فعل ہو مستتر فاعل ہُمْ ضمیر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللّٰهِ اس کی ترکیب مَائِدًا عُونَ مِنْ دُونَ اللّٰهِ کی مثل ہے، موصول باصلہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَعْتَزَلْ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے وَهَبْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اسْحَقَ وَيَعْقُوبَ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال، واؤ حال یہ کُلًّا مفعول بہ اول مقدم جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لَبِيًّا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے ذوالحال باحال وَهَبْنَا کا مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۵۰

آیت نمبر ۵۰: واؤ عاطفہ وَهَبْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے مِنْ رَحْمَتِنَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم لِسَانَ صِدْقٍ مرکب اضافی موصوف عَلِيًّا صفت، موصوف با صفت مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف وَهَبْنَا لہ پر معطوف ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۴ ﴾

وَ اذْ كُرْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا وَّ كَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا ۝۵۱

آیت نمبر ۵۱: واؤ کُرْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ کی ترکیب و اذْ كُرْنَا فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ کی طرح ہے اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم مُخْلِصًا اسم مفعول ہو ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول ہا نائب فاعل کان کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم رَسُوْلًا نَبِيًّا مرکب تو صیغی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

وَ تَادِيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَّقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَحْمَتِنَا اٰخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳

آیت نمبر ۵۲، ۵۳: وَ اُوَاعِظُهُ نَادِيْنَا فَعَلْنَا ضَمِيرُ فَاعِلُهُ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ، مِنْ حَرْفِ جَدِّ جَانِبِ الظُّوْرِ حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ
الْاِيْمَنِ مَفْعُولٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفْتِ جَمْرٍ، جَدِّ بِمَجْرُورٍ نَادِيْنَا كَمَا مَتَعَلِقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ،
وَ اُوَاعِظُهُ قَرِيْبًا فَعَلْنَا ضَمِيرُ فَاعِلُهُ ضَمِيرُ زَوْالِ حَالٍ تَجِيْئًا صِيغَةُ مَفْعُولٍ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سَلَّمَ كَرَحَالٍ، زَوْالِ حَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنُوْنَ ثَلَاثَةٌ كَرَجَمَةٍ
فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَ اُوَاعِظُهُ وَ هَبْنَا فَعَلْنَا ضَمِيرُ فَاعِلُهُ جَدِّ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِقٌ اَوَّلٌ هُوَ، مِنْ حَرْفِ جَمْرٍ حَسْبِنَا حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ جَدِّ
بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِقٌ ثَانِيٌّ هُوَ اَخَاكُهُ وَ اِحَالٌ تَجِيْئًا حَالٌ زَوْالِ حَالٍ بِاِحَالٍ مُبَدَلٌ مِنْهُ هَرُوْنَ بِدَلٍّ، وَ دَلُّونَ ثَلَاثَةٌ كَرَوْ هَبْنَا كَمَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَعَلِقَيْنِ
وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفِيْنَ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا لَهُ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۳: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيْلَ كِي تَرْكِيْبِ اَيْتِ نِمْبَرِ ۴۱ مِيْنِ كُرْ بِحَالٍ هِيْ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ ضَمِيْرِ اسْمِ الْاِسْمِ كَمَا
نَاقِصَةٌ هُوَ مُسْتَرَسِّ اسْمِ الْوَعْدِ حَرْبِ اِضْطِمَالِ خَبَرٍ، فَعَلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اُوَاعِظُهُ كَمَا فَعَلٌ نَاقِصٌ هُوَ
مُسْتَرَسِّ اسْمِ رَسُولًا نَبِيًّا حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ خَبَرٍ، فَعَلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ اِنْ كِي خَبَرٍ اِنْ بِاِسْمِ
وَ خَبَرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَتَافِرَةٌ هِيَ۔

وَ كَانَ يَأْمُرُ اٰهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۵: وَ اُوَاعِظُهُ كَمَا فَعَلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرَسِّ اسْمِ يَأْمُرُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ اَهْلَهُ حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ بِهِ بِنَاءِ حَرْفِ جَمْرٍ
الصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ جَمْرٍ، جَدِّ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِنَوِيْ اَمْرٍ كَمَا مَتَعَلِقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
خَبَرِيَّةٌ خَبَرٌ، فَعَلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اُوَاعِظُهُ كَمَا فَعَلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرَسِّ اسْمِ عِنْدَ رَبِّهِ حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ فِيهِ
مُقَدَّمٌ مَرْضِيًّا اسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ مُقَدَّمٌ سَلَّمَ كَرَجَمَةٍ، فَعَلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ كَرَجَمَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ
عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ الْوَعْدِ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۶: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا اس كِي تَرْكِيْبِ اِسْ سُوْرَةِ كِي اَيْتِ نِمْبَرِ ۴۱ مِيْنِ دِيْكَيْسِيْنَ۔

وَ رَفَعْنٰهٗ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۷: وَ اُوَاعِظُهُ رَفَعْنَا فَعَلْنَا ضَمِيرُ فَاعِلُهُ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ اَوَّلٌ مَكَانًا عَلِيًّا حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ فِيهِ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ
وَمَفْعُولَيْنِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ كَرَجَمَةٍ، وَ اُوَاعِظُهُ كَمَا فَعَلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرَسِّ اسْمِ اَعْلِيًّا حَرْبِ اِضْطِمَالِ مَوْصُوفِ بِهِ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوْحًا وَ مِنَ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرٰءِيْلَ وَ مِمَّنْ هَدٰىنَا وَ اجْتَبٰىنَا اِذَا تَتَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتِ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سَجْدًا وَ بٰكِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۸: اُولَئِكَ اسما اشارہ مبتدا، الَّذِينَ اسم موصول اَنَعَمَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل علی حرف جارِ هُمْ ضمیر ذوالحال من النَّبِيِّينَ جارِ باجرور مبدل منہ، من حرف جارِ ذُرِّيَّةِ اَدَمَ مرکب اضافی مجرور، جارِ باجرور بال، مبدل منہ بادل ظرف مستقر كَانِيْنِينَ کے متعلق ہوئے، كَانِيْنِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق هُمْ ضمیر کا حال بذوالحال باحال مجرور، جارِ باجرور اَنَعَمَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

واو عاطفہ من حرف جارِ من اسم موصول حَمَلْنَا فعل مَع نُوْحٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جارِ باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ من حرف جارِ ذُرِّيَّةِ مضاف اِلَيْهِمْ وَاِسْرَآءِ نِوْحٍ مَعطوف علیہ با معطوف مجرور، جارِ باجرور معطوف اول، واو عاطفہ من حرف جارِ من اسم موصول هَدَيْنَا فعل نَا ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَجْتَبَيْنَا فعل نَا ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جارِ باجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین كَانِيْنِينَ کے متعلق ہوئے جس کے متعلق من النَّبِيِّينَ تھا اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ثانی فعل مجہول عَلَيْهِمْ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَيْتِ الرَّحْمٰنِ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، خَرُوْا وَاَفْعَلْ وَاَوْضَعِ ذُو الْحَالِ سَجْدًا وَاَبْكِيْنَا معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا، اور سَجْدًا "ساجد اور بکینا" باکی کی جمع ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۝۵۹

آیت نمبر ۵۹: فَا استینا فیہ خَلَفَ فعل مِنْ بَعْدِهِمْ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے خَلْفٌ موصوف أَضَاعُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتَّبَعُوا فعل واو ضمیر فاعل الشَّهْوَاتِ منصوب بالکسر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خَلَفَ کی صفت، موصوف باصفت فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔ فَاہ فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے صَقِي يُعْرَضُوْنَ عَلَى الْحِسَابِ سَوْفَ علامت فعل يَلْقَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل غِيَاً مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَيْئًا ۝۶۰

آیت نمبر ۶۰: إِلَّا حرف استثناء بمعنی لَكِنْ "مَنْ" اسم موصول تَابَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آمَنَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، واو عاطفہ عَمِلَ فعل صَالِحًا مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاصلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فَاہ جزائیہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدا، يَدْخُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْجَنَّةَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يظْلَمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل شَيْئًا مفعول بہ ہے یا بواسطہ موصوف محذوف ظَلَمْنَا کے مفعول مطلق ہے، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و مفعول جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ من کی خبر، مبتدا باخبر خَلْفٌ کا مستثنیٰ منقطع ہے۔

جَنَّتِ عَدْنِ الْتَقَى وَعَدَّ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۱۱

آیت نمبر ۶۱: جَنَّتٍ عَدْنٍ مَرْكَبِ اضْأَانِ مَوْصُوفِ اَلْقِيَّ اِسْمِ مَوْصُولٍ وَعَدَدٌ فَعْلُ الرَّحْمٰنِ فَاَعْلُ عِبَادَةٌ مَرْكَبِ اضْأَانِ ذُو اَلْحَالِ بِاَلْغَيْبِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ مَوْمِنِيْنَ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَّحَالٍ ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ وَعَدَدٌ كَا مَفْعُولٍ بِهِ، فَعْلُ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاِ صَلَةٌ صَفْتٍ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتِ الْجَنَّةِ سِے بَدَلُ هِے سِيَانٌ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ كَا ضَمِيْرٍ اِسْمِ كَا اِسْمٌ كَاَنَّ فَعْلُ نَاقِصٌ وَعَدَدٌ مَرْكَبِ اضْأَانِ اِسْمِ كَا اِسْمٌ مَاتِيًّا اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ مَسْتَرْتَابٌ فَاَعْلُ سِے اَل كَرَّخِرٍ، فَعْلُ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ اِسْمِ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ۝۶۱

آیت نمبر ۶۲: لَا يَسْمَعُونَ فَعْلُ وَاوُضْمِيْرٍ فَاَعْلُ فِيْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعُوٍ مَتَّلَقٌ هُوَ لَعُوٌ مَسْتَشِيٌّ مَسْرًا اَلْحَرْفِ اسْتِثْنَاءٌ سَلٰمًا مَسْتَشِيٌّ مَنْقَطِعٌ هِے، وَاوُضْمِيْرٍ اِسْمٌ فَاَعْلُ مَتَّلَقٌ هُوَ مَسْتَرْتَابٌ فَاَعْلُ فِيْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعُوٍ كَا اِسْمٌ كَاَنَّ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ كَا اِسْمٌ فَاَعْلُ مَتَّلَقٌ هُوَ، اِسْمٌ فَاَعْلُ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَّلَقِيْنَ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ خَبْرٌ مَقْدَمٌ رِزْقُهُمْ مَرْكَبِ اضْأَانِ مَبْتَدَاٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَعْطُوفٍ هِے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۲

آیت نمبر ۶۳: تِلْكَ مَبْتَدَاٌ الْجَنَّةُ مَوْصُوفِ اَلْقِيَّ اِسْمِ مَوْصُولٍ نُورِثُ فَعْلُ نَحْنُ مَسْتَرْتَابٌ مِنْ حَرْفِ جَارٍ عِبَادِنَا مَرْكَبِ اضْأَانِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَا اِسْمٌ كَاَنَّ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَّحَالٍ مَقْدَمٌ مِنْ اِسْمِ مَوْصُولٍ كَاَنَّ فَعْلُ نَاقِصٌ هُوَ ضَمِيْرٍ اِسْمِ كَا اِسْمٌ تَقِيًّا خَبْرٌ، فَعْلُ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ ذُو اَلْحَالِ مَوْخِرٌ ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ نُورِثُ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلُ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ صَفْتٍ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتِ خَبْرٍ، مَبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

وَمَا نُنَزِّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ؕ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۶۳

آیت نمبر ۶۴: وَاوُضْمِيْرٍ فِيْهِ مَا نَا فِيْهِ نُنَزِّلُ فَعْلُ نَحْنُ ضَمِيْرٌ مَسْتَرْتَابٌ، اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ بَاءٌ حَرْفِ جَارٍ اَمْرِ مَضَافٍ رَبِّكَ مَرْكَبِ اضْأَانِ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَسْتَشِيٌّ مَفْرُغٌ هُوَ كَرَّ نُنَزِّلُ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، فَعْلُ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَّلَقٌ جَمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَقَرُّ هُوَ اَلْجَارُ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَا اِسْمٌ كَاَنَّ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَّخَبْرٌ مَقْدَمٌ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ بَيْنَ اَيْدِيْنَا مَرْكَبِ اضْأَانِ فَعْلُ مَحْذُوفٌ تَبِيَّتٌ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُضْمِيْرٍ اِسْمٌ فَاَعْلُ مَقْدَمٌ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ خَلْفَنَا مَرْكَبِ اضْأَانِ فَعْلُ مَحْذُوفٌ تَبِيَّتٌ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوُضْمِيْرٍ اِسْمٌ فَاَعْلُ مَقْدَمٌ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ بَيْنَ ذٰلِكَ مَرْكَبِ اضْأَانِ فَعْلُ مَحْذُوفٌ تَبِيَّتٌ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ مَبْتَدَاٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ اَوُضْمِيْرٍ اِسْمٌ فَاَعْلُ مَقْدَمٌ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ بَيْنَ ذٰلِكَ مَرْكَبِ اضْأَانِ فَعْلُ نَاقِصٌ رَبُّكَ مَرْكَبِ اضْأَانِ اِسْمِ كَا اِسْمٌ نَسِيًّا صِفَةٌ هُوَ مَسْتَرْتَابٌ اَعْلُ صِفَةٍ بِاِقَاعِلٍ صِفَةٍ بِاِقَاعِلٍ خَبْرٌ، فَعْلُ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَّ مَا نُنَزِّلُ بِمَعْطُوفٍ هِے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۴

آیت نمبر ۶۵: رَبُّ مضاف السَّمَوَاتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الأَرْضِ معطوف اذّل، واو عاطفہ مَا موصولہ یَبْنِيَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین رَبُّ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی رَبُّكَ سے بدل ہے، فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ عَرَفْتِ رَبُّوَيَبْنِيَهُ، اَعْبُدْ فعل امر اَنْتِ ضمیر مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اصْطَبِرْ فعل امر اَنْتِ مستتر فاعل لام حرف جار عِبَادَتِهِ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ هَلْ حرف استفہام تَعَلَّمْ فعل اَنْتِ مستتر فاعل لہ جار با مجرد طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم سَبِيحًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

﴿ ر کوع نمبر ۵ ﴾

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

آیت نمبر ۶۶: واو استینافیر يَقُولُ الْإِنْسَانُ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزة حرف استفہام إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، مَا زائدہ مِتَّ فعل ثناء مضمومہ ضمیر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام زائدہ (جلالین) كَسَوْفَ علامت فعل، اُخْرَجُ فعل مجہول انا مستتر ذوالحال حَيًّا حال بذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں

أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

آیت نمبر ۶۷: ہمزة حرف استفہام واو عاطفہ لَا يَذْكُرُ فعل الْإِنْسَانُ فاعل اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر ذوالحال، واو حالیہ لَمْ يَكُ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم شَيْئًا خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال بذوالحال باحال خَلَقْنَا کا مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جار با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَذْكُرُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

آیت نمبر ۶۸: فاء استینافیر واو قسمیہ جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف مستقر فعل محذوف اُقْسِمُ کے متعلق ہوئے، اُقْسِمُ فعل انا مستتر فاعل فعل با فاعل جملہ انشائیہ ہو کر قسم، لام جوابیہ لَنَحْشُرَنَّ فعل لَنَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب معطوف علیہ، واو عاطفہ الشَّيَاطِينَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف لام جوابیہ لَنُحْضِرَنَّ فعل لَنَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال جِثِيًّا حال بذوالحال باحال مفعول بہ، حَوْلَ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب ہے، قسم با جواب جملہ قسمیہ مستانفہ ہوں

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

آیت نمبر ۶۹: ثُمَّ عَاطَفَهُ لَامٌ جَوَابِيَّةٌ نَذْرٌ عَن فِعْلِ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ مِنْ حَرْفِ جَارِكِنٍ شَيْعَةٍ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اَيْتُهُمْ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اَشَدُّ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ عَلَيَّ الرَّحْمَنِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ عَيْتِيًّا تَمِيْزٌ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ تَمِيْزٌ مَبْتَدَاً مَحْذُوفٌ هُوَ كِي خَبْرٌ هُوَ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٍ مَعْلَاً مُنْصَوْبٌ نَذْرٌ عَن كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطَفَهُ لَامٌ جَوَابِيَّةٌ نَحْنُ ضَمِيْرٌ مَبْتَدَاً، اَعْلَمُ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِاِيَّاءِ حَرْفِ جَارِ الدِّيْنِ اِسْمٌ مُوَصُولٌ هُمُ ضَمِيْرٌ مَبْتَدَاً، اَوَّلِيٌّ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُمُ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ صَيْدِيًّا تَمِيْزٌ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ تَمِيْزٌ شَبِيْهٌ جُمْلَةٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ اَعْلَمُ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ اِيَّانِ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ سَعَلٌ كَرِخْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مُخْضَرٌ بِرِ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرِدْهَا كَانَ عَلَي رَّبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

آیت نمبر ۷۰: وَاِذَا اسْتِنَا فَيُرَانُ نَا فِيهِ مِنْكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعِلٌ كَا اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَقْدَمٌ اِلَّا حَرْفٌ اسْتِنَا وَ اِرِدْهَا مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلُ كَانَ فِعْلٌ نَا قَسٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ كَا اِسْمٌ عَلَي رَّبِّكَ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ هُوَ مَقْضِيًّا كَيْ، حَتْمًا مَوْصُوفٌ مَقْضِيًّا اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ فَاعِلٌ، اِسْمٌ مَفْعُولٌ بِاِيَّانِ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ خَبْرٍ، فِعْلٌ نَا قَسٌ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلُ۔

ثُمَّ نُنَجِّي الدِّينَ اتَّقُوا وَ نَذِرُ الظَّالِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

آیت نمبر ۷۲: ثُمَّ عَاطَفَهُ نُنَجِّي فِعْلٌ نَحْنُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الدِّينِ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اتَّقُوا فِعْلٌ وَاوُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ عَاطَفَهُ نَذِرُ فِعْلٌ نَحْنُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الظَّالِمِيْنَ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، فِيهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ هُوَ جِثِيًّا صِيغَةٌ صِفَتٌ هُمُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، صِيغَةٌ صِفَتٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ شَبِيْهٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِ مَفْعُولٌ بِهِ مَعْنَى، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولِيْنَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مِنْكُمْ... الخ بِرِ مَعْطُوفٌ هُوَلُ۔

وَ اِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا اٰيُّ الْفَرِيْقِيْنَ

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

آیت نمبر ۷۳: وَاِذَا اسْتِنَا فَيُرَادُ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ تَتَلَّى فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ عَلَيْهِمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اِيَّتِنَا مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ ذُو اِلْحَالٍ يَتَّبِعُ حَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ، فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ اِيَّانِ نَائِبٌ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ فِيْهِ سَعَلٌ كَرِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ شَرْطٌ، قَالَ فِعْلٌ الدِّينِ اِسْمٌ مُوَصُولٌ كَفَرُوْا فِعْلٌ وَاوُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٍ فَاعِلٌ لَامٌ حَرْفٌ جَارِ الدِّينِ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اٰمَنُوْا فِعْلٌ وَاوُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ قَالَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ قَوْلٌ، اٰيُّ الْفَرِيْقِيْنَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَبْتَدَاً، خَيْرٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ مَقَامًا تَمِيْزٌ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ تَمِيْزٌ شَبِيْهٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ عَاطَفَهُ اَحْسَنُ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ نَدِيًّا تَمِيْزٌ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ تَمِيْزٌ شَبِيْهٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِ

معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوا۔

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْيًا ۝

آیت نمبر ۷۴: واوا استینا فی کم خبریہ میز من حرف جد قَرْنِ موصوف ہُمْ ضمیر مبتدا، أَحْسَنُ اسم تفضیل ہُمْ ضمیر فاعل أَثَانًا وَرِعْيًا معطوف علیہ با معطوف تیز با اسم تفضیل با فاعل و تیز شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قَرْنِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جد با مجرور کم میز کی تیز، میز با تیز مفعول بہ مقدم، أَهْلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَ أضعف جُنْدًا ۝

آیت نمبر ۷۵: قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، مَنْ اسم شرط مبتدا، كَانَ ناقصہ ہو مستتر اسم فی الضَّلَالَةِ ظرف مستقر کَانَتَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہَا اسم و خبر شرط، فَاء جزائیہ لِيَبْدُدْ فعل امر لہ طرف لغو متعلق ہوئے الرَّحْمَنُ فاعل مَدًّا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا۔ حَتَّىٰ ابتدائیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہوا و فعل وَاوَا ضمیر فاعل مَا موصولہ یُوعَدُونَ فعل مجہول وَاوَا ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مبدل منہر اَمَّا حرف تردید الْعَذَابِ معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ اَمَّا تردید السَّاعَةَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منہ بہ بدل وَاوَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ سَيَعْلَمُونَ علامت فعل، یَعْلَمُونَ فعل وَاوَا ضمیر فاعل مَنْ اسم موصول ہو ضمیر مبتدا، شَرٌّ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مَكَانًا تیز، تینوں مل کر معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ أضعف اسم تفضیل ہو مستتر فاعل جُنْدًا تیز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَنْ کا صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَلِغِيَّتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ مَرَدًا ۝

آیت نمبر ۷۶: واوا استینا فی یزید فعل لفظاً اللہ فاعل الَّذِينَ اسم موصول اهْتَدَوْا فعل وَاوَا ضمیر فاعل دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اول، هُدًى مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، وَاوَا عاطفہ الْبَلِغِيَّتِ الصَّالِحَاتِ مرکب توصیفی مبتدا، خَيْرٌ اسم تفضیل ہے مستتر فاعل عِنْدَ رَبِّكَ مرکب اضافی مفعول فیہ ثَوَابًا تیز، اسم تفضیل با فاعل و تیز و مفعول فیہ معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ خَيْرٌ اسم تفضیل ہے مستتر فاعل مَرَدًا تیز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر یزید، معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوا۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَ وَلَدًا ۝

آیت نمبر ۷۷: ہمزہ حرف استفہام فَاء استینا فی رَأَيْتَ فعل آت ضمیر فاعل الَّذِي اسم موصول كَفَرَ فعل ہو مستتر فاعل رَأَيْتَ

حرف جار ایلتاً مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے اُوَکَلِّیْنَ فعل مجہول انکا ضمیر مستتر نائب فاعل مآلاً معطوف علیہ، واو عاطفہ وَکَلِّیْنَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف الَّذِی کا صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ متانفہ ہوا۔

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

آیت نمبر ۷۸: ہمزہ حرف استفہام اَطَّلَعَ فعل ہو ضمیر فاعل الْغَيْبِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، اَمِ حرف عطف اتَّخَذَ فعل ہو ضمیر فاعل عِنْدَ الرَّحْمَنِ مرکب اضافی کائناً کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم عَهْدًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مَعْلًا منصوب رَحْمَتِ کا مفعول بہ ثانی ہے۔

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

آیت نمبر ۷۹: کَلَّا حرف ردع سیدین علامت فعل، نَكْتُبُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل مَا موصولہ يَقُولُ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نَمُدُّ فعل نَحْنُ ضمیر فاعل لَہُ جار باجر و متعلق اول ہوئے مِنَ الْعَذَابِ جار باجر و متعلق ثانی ہوئے، مَدًّا مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

وَنَرَاهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

آیت نمبر ۸۰: واو عاطفہ نَرَاهُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل اُضْمِر مفعول بہ اول، مَا موصولہ يَقُولُ فعل ہو ضمیر فاعل فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يَأْتِي فعل ہو ضمیر ذوالحال، فَرْدًا حال، ذوالحال با حال فاعل نَا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَكْتُبُ پر معطوف ہے۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

آیت نمبر ۸۱: واو استینافِیہ اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و رَکَائِبَ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم آلِهَةً مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لَهُمْ جار باجر و طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم عِزًّا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار باجر و رَکَائِبَ کے متعلق ہوئے۔

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

آیت نمبر ۸۲: کَلَّا حرف ردع سیدین علامت فعل يَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بَاء حرف جار عِبَادَتِهِمْ مرکب اضافی مجرور،

جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ یُکُونُ فِعْلٌ نَاقِصٌ وَاوْ ضَمِيرٌ اس کا اسم، عَلَيْهِمْ جاد باجورد طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، ضِدًّا اِذْ وَ اِلْحَالَ مَوْخِرٌ وَاِلْحَالَ بِحَالٍ خَبْرٌ، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں

● رکوع نمبر ۶ ●

الْمُ تَرَاتْنَا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنِ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ تَوَزُّهُمُ اَزَا

آیت نمبر ۸۳: ہذہ حرف استفہام لَمْ تَرُ فِعْلٌ اَلْتِ مَسْتَرْتَا عَلِ اَنْ حرف تحقیق تَا ضَمِيرٌ اس کا اسم اَرْسَلْنَا فِعْلٌ نَاقِصٌ تَا ضَمِيرٌ فَا عَلِ الشَّيْطٰنِ مفعول بہ عَلِ الْكٰفِرِيْنَ جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ لَمْ تَرُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں تَوَزُّ فِعْلٌ هِجِی مَسْتَرْتَا عَلِ هُمُ ضَمِيرٌ مفعول بہ اَزَا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ الشَّيْطٰنِ سے حال ہے۔

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَا

آیت نمبر ۸۴: فَاہ نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ وَقَعُوا فِي الْمَعْصِيَةِ لَا تَعْجَلْ فِعْلٌ نَهْيٌ اَلْتِ مَسْتَرْتَا عَلِ عَلَيْهِمْ جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ حرف تحقیق کھوف، مَا كَاذُ نَعُدُّ فِعْلٌ نَحْنُ مَسْتَرْتَا عَلِ لَهُمْ جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے عَدَا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدَا

آیت نمبر ۸۵: يَوْمَ مضاف نَحْشُرُ فِعْلٌ نَحْنُ مَسْتَرْتَا عَلِ الْمُتَّقِيْنَ مفعول بہ اِلَى الرَّحْمٰنِ جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے وَقَدَا بمعنی وَاوْدِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی نَعُدُّ کا مفعول فیہ ہے۔

و نَسُوْا الْمُجْرِمِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا ۝ لَا يَبْلُكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

آیت نمبر ۸۶، ۸۷: وَاوْ عاطفہ نَسُوْا فِعْلٌ نَحْنُ مَسْتَرْتَا عَلِ الْمُجْرِمِيْنَ ذُو اِلْحَالَ وِرْدَا بمعنی وَاوْدِيْنَ حَالِ اَوَّلِيْ، لَا يَبْلُكُوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضَمِيرٌ مَسْتَقْنِ مَسْرًا اَلْحَرْفِ اسْتِثْنَاءٌ مِّنْ اِسْمِ مَوْصُوْلٍ اِتَّخَذَ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرْتَا عَلِ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ كَا كَاثِنًا كَا مَفْعُوْلٌ فِيْهِ هُوَ كَر مَفْعُوْلٌ فِيْ ثَانِيٍّ مَقْدَمٌ، عَهْدًا مَفْعُوْلٌ فِيْ اَوَّلِ مَوْخِرٍ، فِعْلٌ بافاعل و مفعولین صلہ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلِهِ مَسْتَقْنِ ہے، مَسْتَقْنِ مَنَّهُ بِاِسْتِثْنَاءِ لَا يَبْلُكُوْنَ كَا فَاعِلُ الشَّفَاعَةِ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ، فِعْلٌ بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ الْمُجْرِمِيْنَ كَا حَالِ ثَانِيٍّ ذُو اِلْحَالَ بِحَالِيْنَ نَسُوْا كَا مَفْعُوْلٌ فِيْ اِلَى جَهَنَّمَ جاد باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ نَحْشُرُ مَعْرُوفٌ ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا

آیت نمبر ۸۸: وَاوْ اسْتِثْنَاءٌ فِيْ قَالُوا فِعْلٌ ہَاوْ ضَمِيرٌ فَا عَلِ جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِتَّخَذَ فِعْلٌ الرَّحْمٰنُ فَاعِلٌ وَاوْ اِسْمٌ مَفْعُوْلٌ فِيْ ثَانِيٍّ ہَاوْ

مفعول بہ اول مخذوف ہے عَزَّوَجَلَّ اِبْرٰهٖمَ و غیرہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝

آیت نمبر ۸۹: لام موطنہ للقسم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل جِئْتُمْ فعل کُمْ ضمیر فاعل شَيْئًا اِذَا مرکب تو صیغی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، پھر قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝

آیت نمبر ۹۰: تَكَادُ فعل مقارب السَّمٰوٰتُ اس کا اسم يَتَفَطَّرْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل مِنْهُ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَنْشَقُّ فعل الْاَرْضُ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَخِرُّ فعل الْجِبَالُ فاعل هَذَا بمعنی اسم مفعول الْجِبَالُ کا حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تَكَادُ کی خبر ہے، تَكَادُ کے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَ لَدَا ۝

آیت نمبر ۹۱: اَنْ حرف مصدری دَعَوْا فعل واو ضمیر فاعل لِلرَّحْمٰنِ جار با مجرور متعلق ہوئے وَ لَدَا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ بتاویل مصدر مفعول لہ ہے تَخِرُّ و غیرہ افعال کا۔

وَ مَا يَلْبِغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَ لَدَا ۝

آیت نمبر ۹۲: واو استینا فیہ مَا نافیہ يَلْبِغِيْ فعل لِلرَّحْمٰنِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْ حرف مصدری و نصب يَّتَّخِذَ فعل ہو مستتر فاعل وَ لَدَا مفعول بہ ثانی، مفعول بہ اول مخذوف ہے اَحَدًا، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا اَتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝

آیت نمبر ۹۳: اِنْ حرف لَمَّا كُلُّ مضاف مِنْ اسم موصول فی حرف جار السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل مخذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ كُلُّ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء اَتِي اسم فاعل مضاف الرَّحْمٰنِ مضاف الیہ عَبْدًا اَتِي میں ہو ضمیر مستتر سے حال ہے، اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو یا مستانفہ ہوں۔

لَقَدْ اَخْطٰهُمْ وَ عَدَّاهُمْ عَدًّا ۝ وَ كَلَّمَهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

آیت نمبر ۹۴، ۹۵: لام موطنہ للقسم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل اَخْطٰهُمْ فعل ہو ضمیر مشترک فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَدَّ فعل ہو ضمیر مشترک فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عَدًّا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كَلَّمَهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، اَتِي اسم فاعل مضاف و ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مركب اضافی مفعول فی قَرَدَا اِنِ كِ هُوَ ضمیر مستتر کا حال ہے، اسم فاعل اپنے مضاف الیہ مفعول فیہ سے مل کر خبر، مبتدا یا خبر
جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین قسم کا جواب، قسم یا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۹۱

آیت نمبر ۹۱: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باوَاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ
عَمِلُوا فعل واوَاؤ ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الْأَعْمَالِ کے مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا
معطوف صلہ، موصول ہا صلہ إِنَّ کلام، سیدین علامت فعل، يَجْعَلُ فعل لَهُمُ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، الرَّحْمَنُ فاعل وُدًّا
مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر إِنَّ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

فَاتِمَّا يَسَّرَنَاهُ لِبِلْسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۝۹۲

آیت نمبر ۹۲: فَأاء تطیلیہ إِنَّ حرف تحقیق كَفَرُوا، مَا كَانُوا يَسَّرْنَا لَكَ فاعل نَا ضمیر فاعل ضمیر ذوالحال بَاء حرف جار لِلسانِكَ مركب
اضافی مجرور، جار مجرور كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مفعول بہ، لَام حرف جار برائے لتلیل اور اس کے بعد اَن مقدَّر ہے، تُبَشِّرُ
فعل اَنْتَ مستتر فاعل یہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، الْمُتَّقِينَ مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،
واو عاطفہ تُنذِرُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل یہ جار مجرور متعلق ہوئے قَوْمًا لُدًّا مركب توصیفی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ
فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف بتا و مل مصدر مجرور، جار مجرور يَسَّرْنَا کے متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ
فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں اور جملہ مطلقہ محذوف ہے اور وہ یَلْبِغُ مَا أُرِيدُ ہے۔

وَكَمَّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ۝۹۳

آیت نمبر ۹۳: واو استینا فیہ كَمَّ خبریہ میز من قَرْنٍ جار مجرور تمیز، میز یا تمیز مفعول بہ مقدم أَهْلَكْنَا فعل نَا ضمیر فاعل
قَبْلَهُمْ مركب اضافی مفعول فیہ، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں هَلْ حرف استفہام تُحِشُّ فعل اَنْتَ مستتر فاعل مِنْهُمْ
جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جارہ زائدہ أَحَدٍ لفظا مجرور مَعْلًا منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال مفعول بہ،
فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف تَسْمَعُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق
ہو کر حال مقدم رِكْوًا ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ مستانفہ
انشائیہ ہوں



ترکیب سُورَةُ طه

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طه ۱

آیت نمبر ۱: طه اس کی ترکیب سورۃ بقرہ کے شروع میں دیکھیں۔

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۝

آیت نمبر ۲: ما انیہ ازلنا فعل نا ضمیر فاعل علیک جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے القرآن مفعول بہ، لام حرف جار برائے تعلق اور اس کے بعد ان مقدر ہے تشقی فعل ائت مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق مبنی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

اِلَّا تَذٰكِرَةٌ لِّمَنْ یَّخْشٰی ۝

آیت نمبر ۳: الا حرف استثناء بمعنی لیکن "تذکرۃ مصدر لام حرف جر من موصولہ یخشی فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور مصدر کے متعلق، مصدر با متعلق فعل مقدر ازلنا کا مفعول لہ ہے۔

تَنْزِیْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ۝

آیت نمبر ۴: تنزیلاً مصدر من حرف جار من موصولہ، خلق فعل ہو مستتر فاعل الارض معطوف علیہ، واو عاطفہ السموات موصول العلی صفت، موصوف ہافت معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور تنزیلاً کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول مطلق ہے فعل محذوف نزلنا کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝

آیت نمبر ۵: الرحمن خبر ہے مبتدا محذوف ہو کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں یا الرحمن مبتدا ہے، علی العرش جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے استوی فعل ہو مستتر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی ۝

آیت نمبر ۶: لہ جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما اسم موصول فی السموات جار مجرور طرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول فی الارض جار مجرور طرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ معطوف اول، واو عاطفہ ما موصولہ بینهما مرکب اضافی فعل محذوف ثبت کا مفعول فیہ ہو کر

صلہ، موصول ہا صلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ، ما اسم موصول تَحْتَ الذُّی مرکب اضافی فعل محذوف تَبَّتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

آیت نمبر ۷: واو استینا فی ان حرف شرط تَجَهَّرَ فعل اَنْتَ مستتر قائل بِالْقَوْلِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزا اسمیہ ان حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر قائل السِّرَّ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْفَى اسم تفضیل ہو مستتر قائل سے مل کر معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط ہا جزا جملہ شرطیہ مستانہ ہوا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ان تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ کی جزا محذوف ہو قاللہ مُسْتَعْفِنَ عَنْ ذٰلِكَ اور قَائِلَهُ... الخ جملہ مطلقہ ہو۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

آیت نمبر ۸: اللہ مبتدأ، لا لئی جنس اللہ اس کا اسم اِلَّا حرف استثناء ہو ضمیر بدل ہے لا کی خبر میں ضمیر مستتر ہو سے کیونکہ یہ اصل میں ہے لا اِلَهَ مَوْجُودًا اِلَّا هُوَ ہے، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اول، لہ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَةُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ کی خبر ثانی، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ ۝

آیت نمبر ۹: واو استینا فی ہَلْ حرف استفہام اَنْی فعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ مرکب اضافی قائل، تینوں مل کر جملہ الثانیہ استفہامیہ ہوں۔

اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَىٰ

النَّارِ هُدًى ۝

آیت نمبر ۱۰: اِذْ ظرف زمان مضاف رَأَىٰ فعل ہو مستتر قائل نَارًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ قَالَ فعل ہو مستتر قائل لاهر حرف جار اَهْلِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، امْكُثُوا فعل امر واو ضمیر قائل، دونوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی حَدِيثٌ کا مفعول فیہ ہے۔ ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اُنْسْتُ فعل قاء مضمومہ ضمیر قائل نَارًا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

لَعَلَّ حرف ترحمی یاء ضمیر منصوب اس کا اسم اِنِّي فعل اَنَا مستتر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْهَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے بِقَبَسٍ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ اَجْدٍ فعل اَنَا مستتر

فاعل علی النار جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے ہدی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لعل کی خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ مستانہ ہوا۔ اور یہ بھی مقولہ میں داخل ہے

فَلَمَّا آتٰهَا نُودٰی لِيْمُوْسٰی ۙ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۙ

آیت نمبر ۱۲: فاء استینافیہ لَمَّا ظرفیہ مقضیٰ معنی شرط مفعول فیہ مقدم آئی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، نُودٰی فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ یا کہ حرف ندما اذعوا کے قائم مقام، اذعوا فعل انا مستتر فاعل مونس علی منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندما، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم انا ضمیر مبتدا، رَبُّكَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِن کی خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب ندما، ندما با جواب جملہ انشائیہ ندما مستانہ ہوا۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِن وَعَیْنَتْ ذٰلِكَ، اِخْلَعْ فعل امر اَلت ضمیر فاعل نَعْلَيْكَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِن حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم بآء حرف جر الوادِ الْمُقَدَّسِ مرکب توصیفی مبدل منہ طُوًى بدل، مبدل منہ با بدل مجرور، جار باجر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

وَ اَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی ۙ

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ انا ضمیر مبتدا، اَخْتَرْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ، معطوف ہے۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِن عَوَفْتُ قَدْرًا، اِسْتَمِعْ فعل امر اَلت مستتر فاعل لام حرف جدم اسم موصول یُوحٰی فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و طرف مستقر کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ ۙ

آیت نمبر ۱۴: اِن حرف تحقیق نون برائے وقایہ، یاء ضمیر اس کا اسم انا ضمیر مبتدا، اللہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِن کی خبر اول، لانی جنس الہ مبدل منہ لا حرف استثناء انا ضمیر لا کے اسم کے محل سے بدل ہے، اور خبر محذوف ہے ہو جُوْدٌ، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اِن کی خبر ثانی، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِن صَدَقْتُ کُوْنِیْ اِلٰهَا، اُعْبُدْ فعل امر اَلت مستتر فاعل نون وقایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَقِمِ فعل امر اَلت مستتر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ، لام حرف جار ذِکْرِیْ مجرور، جار باجر و طرف متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَکَادٌ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ۙ

آیت نمبر ۱۵: اِن حرف تحقیق السَّاعَةَ اس کا اسم اَتَتْهُ اسم فاعل ہی مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول اکاد فعل مقارب

اَنَا مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ فاعلِهَا ضمير منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل مقادب باسم و خبر ان کی خبر مانی اِنَ بِاسْمِ وَخَبْرِنِ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہول لآہ حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنَ مَقْدَرٌ ہے تُجْزِي فاعِلٌ مجہول کُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی نائب فاعل، بِنَاءِ حَرْفِ جَارٍ مَصْدَرٌ تَسْمِيٍّ فاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ سے مل کر بتاویل مصدر مجرد، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جار مجرور اَنِیَّةً کے متعلق ہوئے۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدِي ①

آیت نمبر ۱۲: فَاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَقَمْتِ الصَّلَاةَ لَا يَصُدُّكَ فاعِلٌ نَمِي كَافِ ضَمِيرٍ مَنصُوبٍ مَفْعُولٍ بِہِ عَنْهَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، مَنْ اِسْمٌ مَوْصُولٌ لَا يُؤْمِنُ فاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بِهَا جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتَّبَعَ فاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ هُوَ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَفْعُولٌ بِہِ، فاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولٌ بِہِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، مَوْصُولٌ بِاصْلٍ لَا يَصُدُّكَ كَاقَاعِلٍ، فاعِلٌ نَمِي بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولٌ بِہِ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہول فَاء عاطفہ سببیہ اور اس کے بعد اَنَ مَقْدَرٌ ہے اس لئے کہ یہ فَاءِ نَمِي کے جواب میں ہے، تَرْدِي فاعِلٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ، فاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر و ذی مَنك مصدر کی تاویل میں ہو کر معطوف ہے صَدُّ مَصْدَرٌ جو کہ لَا يَصُدُّكَ سے نکلتا ہے۔

وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ②

آیت نمبر ۷: واو استینا فیہ مَا استفہامیہ مبتدأ، تِلْكَ اِسْمٌ اَشَارَةٌ وَذَالِحَالٌ بِنَاءِ حَرْفِ جَارٍ بِيَمِينِكَ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَجْرُورٌ، جار مجرور طرف مستقر کائنة کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب نداء مقدم، یااء حَرْفٌ نِدَاءٌ اَدْعُوْكَ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ، اَدْعُوْكَ فاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ مَوْسَى كَلَامٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِہِ، تینوں مل کر نداء مؤخر، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہول۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَى غَنِيٍّ وَاٰلِيٰ فِيْهَا مَارِبٌ اٰخِرَى ③

آیت نمبر ۱۸: قَالَ فاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہی ضمیر مبتدأ، عَصَايَ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ خَبْرٌ اَوَّلٌ، اَتَوَكَّوْا فاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ عَلَيْهَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَهْشُ فاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ بِهَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اَعْلَى حَرْفِ جَارٍ غَنِيٍّ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَجْرُورٌ، جار مجرور متعلق مانی، فاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلٌ، واو عاطفہ اِيْ جَارٍ مَجْرُورٍ طرف مستقر کائنة کے متعلق ہوئے، کائنة اِسْمٌ فاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ، فِيْهَا جار مجرور طرف لغو کائنة کے متعلق ہوئے، کائنة اِسْمٌ فاعِلٌ اِنْفِيٍّ فاعِلٌ و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم مَارِبٌ اٰخِرَى مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین ہی کی خبر مانی ہے، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول۔

قَالَ اَلْقَهَا يُمُوسَى ④ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ⑤

آیت نمبر ۲۰، ۱۹: قَالَ فاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلْقِي فاعِلٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٍ مَفْعُولٍ بِہِ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء مقدم، يُمُوسَى کی ترکیب آیت نمبر ۱۷ میں گزی ہے اور یہ نداء مؤخر ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ

ہو کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ الّقی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ اذا مفاعلیہ تسعی کا مفعول فیہ مقدم ہی ضمیر مبتدا، حیۃ موصوف تسعی فعل ہی مستتر فاعل، دونوں مل کر حیۃ کی صفت، موصوف با صفت ہی کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قالہ معطوف ہول۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝

آیت نمبر ۲۱: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، خُذْ فعل امر آت مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَخَفْ فعل نہی آت مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول سین علامت فعل، نُعِيدُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سِيرَتَهَا مرکب اضافی موصوف الْاُولَى اسم تفضیل ہی مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف با صفت منصوب بنزع الخافض اصل میں اِلَى سِيرَتِهَا ہے، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہول۔

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ۝

آیت نمبر ۲۲: واو عاطفہ اضمم فعل امر آت مستتر فاعل يَدَكَ مرکب اضافی مفعول بہ اِلَى حرف جار جَنَاحِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ خُذْ ہا پر معطوف ہے۔ تَخْرُجَ فعل مضارع ہی ضمیر مستتر ذوالحال، بَيْضَاءَ صیغہ صفت ہی ضمیر ذوالحال مِنْ حرف جار غَيْرِ سُوءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، آيَةً أُخْرَى مرکب توصیفی حال ثانیہ، ذوالحال با حالین بَيْضَاءَ کا فاعل، صیغہ صفت با فاعل شبہ جملہ ہو کر ہی ضمیر کا حال، ذوالحال با حال تَخْرُجَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے، اور شرط محذوف ہے اِنْ تَضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہول۔

لِنُرِيكَ مِنْ اٰيَاتِنَا الْكُبْرٰى ۝

آیت نمبر ۲۳: لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدّر ہے نُرِيْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جار اٰيَاتِنَا مرکب اضافی موصوف الْكُبْرٰى صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف آيَةً کے مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف لِنُرِيْكَ ذٰلِكَ کے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہول۔

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمٰ ۝

آیت نمبر ۲۴: اِذْهَبْ فعل امر آت مستتر فاعل اِلٰى فِرْعَوْنَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مستأنف ہول اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم ظلمی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہول۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

آیت نمبر ۲۵، ۲۶، ۲۷: قَالَ فعل مستتر فاعل سے مل کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے، اشْرَحْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِي جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے صَدْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَسِّرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِي جار باجور طرف متعلق ہوئے اَمْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَحْلُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل عُقْدَةً مفعول بہ مِّنْ لِّسَانِي جار باجور طرف متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب ندا، ندا، جار جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

آیت نمبر ۲۸: يَفْقَهُوا فعل واو ضمیر فاعل قَوْلِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ تَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، اس لئے کہ یہ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَاجْعَلْ لِّي وَّزِيرًا مِّنْ اَهْلِي ۝ هُوَ وَاٰخِي ۝

آیت نمبر ۲۹، ۳۰: واجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِي جار باجور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم وَّزِيرًا موصوف مِّنْ حرف جار اَهْلِي مرکب اضافی مجرور، جار باجور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبدل منہ، هُوَ وَاٰخِي مبین، اَخِي مرکب اضافی عطف بیان، مبین با عطف بیان بدل، مبدل منہ با بدل مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ اشْرَحْ معطوف ہے۔

اَشْدُدْ بِهٖ اَزْرِي ۝

آیت نمبر ۳۱: اَشْدُدْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بِهٖ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے اَزْرِي مرکب اضافی مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ متانہ ہوں۔

وَاشْرِكْ فِيْ اَمْرِي ۝

آیت نمبر ۳۲: واو عاطفہ اَشْرِكْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اُ ضمیر مفعول بہ، فِيْ حرف جار اَمْرِي مرکب اضافی مجرور، جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ اَشْدُدْ معطوف ہے۔

كِي تَسْبِيْحَكَ كَثِيْرًا ۝ وَتَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

آیت نمبر ۳۳، ۳۴: كِي حرف مصدری و تطلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدّم ہے تَسْبِيْحْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ كَثِيْرًا ابواسطہ موصوف محذوف تَسْبِيْحًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَذْكُرْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر منصوب مفعول بہ كَثِيْرًا ابواسطہ موصوف محذوف ذِكْرًا کے مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ

خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور آشورک کے متعلق ہوئے۔

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: إِنَّ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم کُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ اس کا اسم بِنَا جار مجرور متعلق مقدم بَصِيرًا صیغہ صفت آت مستتر فاعل، صیغہ صفت با فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قَدْ علامت فعل، أُوتِيتَ فعل مجهول تاء مفتوحہ ضمیر نائب فاعل سُؤْلَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجهول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب نداء مقدم یَمُوسَى کی ترکیب ما قبل میں گزر چکی ہے اور یہ نداء مؤخر ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، مَنَنَّا فعل ناقص ضمیر فاعل عَلَيْكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَرَّةً أُخْرَى مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُوحَىٰ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: إِذْ ظرف زمان مضاف أَوْحَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل إِلَىٰ حرف جار أُمَمِكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مَا اسم موصول یُوحَىٰ فعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَنَنَّا کا مفعول فیہ ہے۔

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۗ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: أَنْ حرف مصدریہ اقْذِفِي فعل امر یاء ضمیر مرفوع فاعل بہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فِي التَّابُوتِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اقْذِفِي فعل امر یاء ضمیر مرفوع فاعل بہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فِي الْيَمِّ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، فاء عاطفہ لِيْلِقِي فعل امر یر ضمیر منصوب مفعول بہ، بِالسَّاحِلِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، الْيَمُّ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر ما یوحیٰ سے بدل ہے، اور اِنَّ حرف تفسیر ہو تو پھر جملہ مفسرہ ہے یَأْخُذْ فعل مضارع ضمیر منصوب مفعول بہ عَدُوٌّ موصوف لی جار مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف

ہفت معطوف علیہ واو عاطفہ عَدُوٌّ موصوفہ جہاں مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت ہفت معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف یأخذُ کا فاعل ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط محذوف کی جڑ ہے، اور شرط یہ ہے اِنْ تَقْدِرُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَتَقْدِرُ فِيهِ... الخ، شرط محذوف ہا جڑ جملہ شرطیہ ہوں۔

واو استینافیہ الْقَيْثُ فعل تاء مضمومہ فاعل عَلَيْنِكَ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مَحَبَّةٌ موصوف من حرف جار نون برائے وقایہ یاء ضمیر مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں واو عاطفہ لام جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ تَصْنَعُ فعل مجہول اَنْتَ مستتر نائب فاعل علی حرف جار عینیہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف ہے، اور معطوف علیہ محذوف ہے اور وہ یَتَكَلَّفُ بیک ہے، پھر معطوف علیہ با معطوف الْقَيْثُ کے متعلق ہے۔

اِذْ تَمْشِيْ اُخْتِكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰی اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا فَلْيَبْتَئِمْ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ يُّمُوْسٰى ۝

آیت نمبر ۳۰: اِذْ طرف زمان مضاف تَمْشِيْ فعل اُخْتِكَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تَقُوْلُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَلْ حرف استفہام اَدْلُ فعل اَنَا مستتر فاعل علی حرف جار مَنْ اسم موصول يَّكْفُلُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور اَدْلُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی الْقَيْثُ یا تَصْنَعُ کا مفعول فیہ ہے، یا فعل محذوف اَدْلُ کا مفعول فیہ ہے۔

فاء عاطفہ رَجَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ الی حرف جار اُمِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، گی حرف تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ تَقَرَّ فعل عَيْنُهَا مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَحْزَنَ فعل ہی مستتر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر لام مقررہ مجرور، جار مجرور رَجَعْنَا کے متعلق ہانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین معطوف ہے، اور معطوف علیہ مقررہ اُجِيبَتْ فَجَاءَتْ اُمُّكَ واو استینافیہ قَتَلْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نَفْسًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ نَجَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، مِنْ الْغَمِّ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ فَتَنَّا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ فُتُوْنًا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہوں۔

فاء استینافیہ لَبِثْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل سِنِيْنَ مفعول فیہ، فی حرف جار اَهْلِ مَدْيَنَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ جِئْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل علی قَدَرٍ طرف مستقر

مُؤَافِقًا کے متعلق ہو کر چمٹتے کے فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء مقدم، یؤسبی کی ترکیب ماقبل میں گزر چکی ہے اور یہ نداء مؤخر ہے، پھر نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واؤ عاطفہ اصطنعت فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، لام حرف جار نفیسی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ چمٹتے پر معطوف ہے۔

إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيَّتِي وَلا تَنْبِئَا فِي ذِكْرِي ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: اذھب فعل امر انت مستتر مؤکدا انت ضمیر منفصل تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اخوک مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل بناء حرف جدائی ہی مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لا تنبیا فعل نہی الف ضمیر فاعل فی حرف جار ذکری مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: اذھبا فعل الف ضمیر فاعل الی حرف جار فیرعون مجرور با فتح مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جملہ اولیٰ کی تاکید ہے۔ ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم طغی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، ان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: قاء عاطفہ قولا فعل الف ضمیر فاعل لہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قولا لئینا مرکب توصیفی مفعول بہ یا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول جملہ انشائیہ اذھبا الی فیرعون پر معطوف ہے۔ لعل حرف ترمی ضمیر اس کا اسم يتذكر فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف يخشى فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، لعل بالاسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مطلقہ ہے۔ یا راجح تذکرہ او خشیه کی تاویل میں ہو کر قولا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: قالا فعل الف ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ربنا کی اصل میں یا ربنا ہے اور یہ نداء ہے، ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم نخاف فعل نحن ضمیر مستتر فاعل، ان حرف مصدری و نصب يفراط فعل ہو مستتر فاعل علیکنا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، او عاطفہ ان حرف مصدری و نصب يطغى فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف محلاً منصوب نخاف کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی

خبر، ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب مداء، پھر مداء باجواب مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ۝

آیت نمبر ۳۶: قَالَ فَعَلْ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعل سے مل کر قول ہے، لَا تَخَافَا فاعل الف ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، ان حرف تحقیق نون برائے وقایہ یاء ضمیر اس کا اسم مَعَكُمْ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر ان کی خبر اول ہے، أَسْمِعُ فعل انا مستر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ آری فعل انا مستر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف عملاً منصوب ان کی خبر ثانی، ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطَّلِعٌ ہوں یا معطوف علیہ بامعطوف ان کے اسم سے حال ہے، یا جملہ مستانفہ ہے۔

فَاتِيهٖ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بِنِوَىٰ إِسْرَآءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ طَقَدَ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ط وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝

آیت نمبر ۳۷: فَأَعَدَّ عَاطِفَةٌ ائْتِيَا فاعل امر الف ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فَأَعَدَّ عَاطِفَةٌ قَوْلَا فاعل امر الف ضمیر فاعل، فعل ہا فاعل جملہ انشائیہ قول، ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم رَسُولَا رَبِّكَ مرکب اضافی خبر، ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ معطوف، پھر معطوف علیہ بامعطوف لَا تَخَافَا فاعل معطوف ہے۔ فَأَعَدَّ عَاطِفَةٌ اور معطوف علیہ مخذوف ہے تَكْتَبَةُ يَافِزْ عَوْنُ، أَرْسِلْ فعل امر ائت مستر فاعل مَعَنَا مرکب اضافی مفعول فیہ بِنِوَىٰ إِسْرَآءِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ہوں۔

www.kitabosunnat.com

واو عاطفہ لَا تَعَذِّبْ فعل نہی ائت مستر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ أَرْسِلْ بامعطوف ہے۔ قَدَ علامت فعل، جِئْنَا فاعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، بئاء حرف جار ائ موصوف ہین رَبِّكَ ظرف مستقر کائینہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جار ہا مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مُطَّلِعٌ ہوں، واو استینا فیہ السَّلَامُ مبتداء علی حرف جار مَن اسم موصول اِتَّبِعْ فعل هُوَ مستر فاعل الْهُدٰى مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار ہا مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

آیت نمبر ۳۸: إِنَّا حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل، أُوحِيَ فعل مجهول اِلَيْنَا جار ہا مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، ان حرف تحقیق الْعَذَابِ اس کا اسم علی حرف جار مَن اسم موصول كَذَّبَ فعل هُوَ مستر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَوَلَّىٰ فعل هُوَ مستر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار ہا مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ تاویل مصدر نائب فاعل، أُوحِيَ فعل مجهول ہا نائب فاعل و متعلق ان کی خبر، ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسٰى ۝

آیت نمبر ۳۹: قَالَ فَعَلْ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، فَأَعَدَّ فصیحہ اور اس کی شرط مخذوف ہے، ان اُوْحِيَ اِلَيْنَا

مَنْ اسْتَفْهَمَ مَبْتَدَأَ رَبِّكَمَا مَرْكَبُ اضْطِافِي خَيْرٌ، مَبْتَدَأُ بِاخْبَرِ جُمْلَةُ اسْمِيَةِ انْشَائِيَّةٍ هُوَ كَرَجَابٍ مَدَامُ مَقْدَمٌ، يُؤْمَلُ نِسْبَةً مَوْخَرٌ، پھر مَدَامُ بِاجْوَابِ مَدَامُ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ كِي جَزَاءِ هِيَ، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ هِيَ۔

قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝

آیت نمبر ۵۰: قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَرَقَوْلٍ، رَبَّنَا مَرْكَبُ اضْطِافِي مَبْتَدَأُ، الَّذِي اسْمُ مَوْصُولٍ اَعْطَى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ فاعِلٌ كُلُّ شَيْءٍ مَرْكَبُ اضْطِافِي مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، حَلْقَهُ مَرْكَبُ اضْطِافِي مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنِ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ هَدَى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَر مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَوْصُولٍ بِاصْلِهِ خَيْرٌ، مَبْتَدَأُ بِاخْبَرِ جُمْلَةُ اسْمِيَةِ خَبَرِيَّةٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ هِيَ۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۝

آیت نمبر ۵۱: قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ سَعَلْ كَر قَوْلٍ، فَمَا فَعْلٌ نَصِيحَةٌ اَدْرَاسِ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِنْ كَانَ رَبِّكَ قَدْ اَعْطَى وَهَدَى، مَا اسْتَفْهَمَ مَبْتَدَأُ، بَالُ مَضَافُ الْقُرُونِ الْأُولَى مَرْكَبُ تَوْصِيْفِي مَضَافٍ اِلَيْهِ، پھر مَرْكَبُ اضْطِافِي خَيْرٌ، مَبْتَدَأُ بِاخْبَرِ جُمْلَةُ اسْمِيَةِ انْشَائِيَّةٍ جَزَاءِ هِيَ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاجْزَاءِ جُمْلَةُ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَر مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ هِيَ۔

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝

آیت نمبر ۵۲: قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَر جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ قَوْلٍ، عَلَيْهَا مَرْكَبُ اضْطِافِي مَبْتَدَأُ، عِنْدَ رَبِّي مَرْكَبُ اضْطِافِي كَاتِبٌ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ، فِي كِتَابٍ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَاتِبٌ كِي مَتَعَلِقٌ هِيَ، كَاتِبٌ اسْمُ فَاعِلٍ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ وَمَتَعَلِقٌ سَعَلْ كَر خَيْرٌ، مَبْتَدَأُ بِاخْبَرِ جُمْلَةُ اسْمِيَةِ خَبَرِيَّةٍ مَقُولَةٌ قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ هِيَ، لَا يَصِلُ فَعْلٌ مَرْكَبُ اضْطِافِي مَرْفُوعٌ تَقْدِيرًا فاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَر جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ لَا يَنْسَى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَر جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَوْصُولٍ جُمْلَةُ مَسْتَفَاهٌ هِيَ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَآخَرُ جَنَابُهُ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَقِي ۝

آیت نمبر ۵۳: الَّذِي اسْمُ مَوْصُولٍ جَعَلَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِقٌ هُوَ اَلْأَرْضَ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ مَهْدًا مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ وَمَفْعُولِيْنِ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ سَلَكَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِقٌ اَوَّلٌ هُوَ فِيهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ سَلَكَ كِي مَتَعَلِقٌ ثَانِي هُوَ يَكَايْنَةُ كِي مَتَعَلِقٌ هُوَ كَر حَالٌ مَقْدَمٌ هِيَ، سُبُلًا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقِيْنِ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ أَنْزَلَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ مِنَ السَّمَاءِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْوٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ مَاءً مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَوْصُولٍ بِاصْلِهِ رَبِّي كِي صِفَتٌ هِيَ بِمَبْتَدَأِ مَحْذُوفٍ هُوَ كِي خَبَرٌ هِيَ، اَوْ اَعْلًا مَنْصُوبٌ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اَمْدَحٌ كَامَفْعُولٍ بِهِ هِيَ، فَمَا عَاطِفَةٌ آخَرُ جَنَابُهُ فَعْلٌ نَاصِيحَةٌ فاعِلٌ بِهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْوٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ اَزْوَاجًا مَوْصُوفٌ مِنْ نَبَاتٍ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَةُ كِي مَتَعَلِقٌ هُوَ كَر صِفَتٌ اَوَّلِيَّةٌ، شَقِي صِفَتٌ ثَانِيَّةٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِيْنِ مَفْعُولٌ بِهِ،

فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آنزل بہ معطوف ہے۔

كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأُولَى النَّهْيِ ۝

آیت نمبر ۵۳: کُلُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل، و رزقوا فعل امر واؤ عاطفہ، اَرْزُقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل، اَنْعَامَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہولان حرف تحقیق فی ذلک جار باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام مذقلقہ آیت موصوف لام حرف جار اولی النہی مرکب اضافی مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہ صفت اسم مؤخر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہول۔

● رکوع نمبر ۳ ●

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

آیت نمبر ۵۵: مِنْهَا جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ، فِيهَا جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، نُعِيدُ فعل نا ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ، مِنْهَا جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، نُخْرِجُ فعل نا ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، تَارَةً أُخْرَى مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق مقدم و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہول۔

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ أَبَى ۝

آیت نمبر ۵۶: واؤ استینا فیہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل آرینا فعل نا ضمیر فاعل اے ضمیر منصوب مفعول بہ اول آیتنا مرکب اضافی مؤکد کلہا مرکب اضافی تاکید، مؤکد ہا تاکید مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ کذَّب فعل نا ضمیر فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ آبی فعل نا ضمیر فاعل، و دونوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم کا جواب ہے، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہول۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ۝

آیت نمبر ۵۷: قَالَ فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہمذہ حرف استفہام جِئْت فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدم ہے نُخْرِجُ فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، مِنْ حرف جار اَرْضِنَا مرکب اضافی مجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بَاء حرف جار بِسِحْرِكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور جِئْت کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ استفہامیہ ہو کر جواب نداء مقدم، یٰمُوسَى اس کی ترکیب متعدد مرتبہ اسی سورت میں گند چکی ہے، اور یہ نداء ہے، نداء کا جواب مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول۔

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لَا أَنْتَ

مَكَانًا سُوِي ⑤

آیت نمبر ۵۸: فَاذْعَابُ مَوْجِدٍ لَّعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا عَاطَفَهُ لَمَّا مَوْجِدٌ لِّلْعَمِّ اورد قسم محذوف ہے تَائِيَيْنَ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جار
سِخْرٍ موصوفہ مثیلہ مرکب اضافی صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ فَاذْعَابُ نَصِيحَةٌ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ قَبِلْتَ الْقَاءَ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتٌ
مستتر فاعل يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
موصوفہ لَا تُخْلِفُ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر مَوْكِدٌ نَحْنُ ضمير منفصل تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ بِاِثْمَانِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ لَا زَلَّةَ اَلَتْ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
کی صفت ہے، موصوفہ باصفت اِجْعَلْ کا مفعول بہ اول مؤخر، اِجْعَلْ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با
جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ مَوْعِدًا كُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعْبَى ⑥

آیت نمبر ۵۹: قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَوْعِدًا كُمْ مَرْكَبِ اِضَافِي مَبْتَدَا، يَوْمَ الزَّيْنَةِ مَرْكَبِ اِضَافِي
مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرٍ وَنَصْبِ يُحْشَرَ فَعْلٌ مَجْهُولِ النَّاسِ نَائِبِ فَاعِلِ ضُعْبَى مَعْطُوْفٍ فِيهِ، فَعْلٌ مَجْهُولِ بَاتَّابِ فَاعِلِ وَ مَعْطُوْفٍ فِيهِ
جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
قول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ⑦

آیت نمبر ۶۰: فَاذْعَابُ مَوْجِدٍ لَّعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا عَاطَفَهُ لَمَّا مَوْجِدٌ لِّلْعَمِّ اورد قسم محذوف ہے تَائِيَيْنَ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جار
سِخْرٍ موصوفہ مثیلہ مرکب اضافی صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ فَاذْعَابُ نَصِيحَةٌ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ قَبِلْتَ الْقَاءَ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتٌ
مستتر فاعل يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
موصوفہ لَا تُخْلِفُ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر مَوْكِدٌ نَحْنُ ضمير منفصل تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ بِاِثْمَانِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ لَا زَلَّةَ اَلَتْ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
کی صفت ہے، موصوفہ باصفت اِجْعَلْ کا مفعول بہ اول مؤخر، اِجْعَلْ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با
جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ لَهُمْ جَارُ بَاجِرٍ وَظَرْفٌ لَعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا عَاطَفَهُ لَمَّا مَوْجِدٌ لِّلْعَمِّ اورد قسم محذوف ہے تَائِيَيْنَ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جار
سِخْرٍ موصوفہ مثیلہ مرکب اضافی صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ فَاذْعَابُ نَصِيحَةٌ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ قَبِلْتَ الْقَاءَ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتٌ
مستتر فاعل يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
موصوفہ لَا تُخْلِفُ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر مَوْكِدٌ نَحْنُ ضمير منفصل تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ بِاِثْمَانِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ لَا زَلَّةَ اَلَتْ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
کی صفت ہے، موصوفہ باصفت اِجْعَلْ کا مفعول بہ اول مؤخر، اِجْعَلْ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با
جزاء جملہ شرطیہ ہوں

مَنْ افْتَرَى ⑧

آیت نمبر ۶۱: قَالَ لَهُمْ جَارُ بَاجِرٍ وَظَرْفٌ لَعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا عَاطَفَهُ لَمَّا مَوْجِدٌ لِّلْعَمِّ اورد قسم محذوف ہے تَائِيَيْنَ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جار
سِخْرٍ موصوفہ مثیلہ مرکب اضافی صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ فَاذْعَابُ نَصِيحَةٌ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ قَبِلْتَ الْقَاءَ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتٌ
مستتر فاعل يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ يَبِيْنَتَا مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
موصوفہ لَا تُخْلِفُ فَعْلٌ نَحْنُ مستتر مَوْكِدٌ نَحْنُ ضمير منفصل تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ بِاِثْمَانِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاوْءَاطِفَهُ لَا زَلَّةَ اَلَتْ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِمْرَانَتِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ
کی صفت ہے، موصوفہ باصفت اِجْعَلْ کا مفعول بہ اول مؤخر، اِجْعَلْ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با
جزاء جملہ شرطیہ ہوں

مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ فاعل فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں

فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرًا وَالتَّجْوَى ۝

آیت نمبر ۶۲: فاء استینافیہ تَنَّا زَعْوًا فعل واو ضمیر فاعل أَمْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَسْرًا و فعل واو ضمیر فاعل التَّجْوَى منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں

قَالُوا إِنْ هَذَا سِحْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرْيِقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ۝

آیت نمبر ۶۳: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، إِنْ محذوف من السُّمُّ ضمیر شان محذوف اس کا اسم ہذا ان اسم اشارہ مبتدا، لام نداء سِحْرٌ موصوف یُرِيدُ فعل الف ضمیر فاعل أَنْ حرف مصدری و نصب يُخْرِجًا فعل الف ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جارِ أَرْضِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، بَاء حرف جارِ بِسِحْرِهِمَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَذْهَبَا فعل الف ضمیر فاعل بَاء حرف جارِ طَرْيِقَتِكُمْ مرکب اضافی موصوف الْمُثَلَّى صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو يَذْهَبَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدری یُرِيدُ ان کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ سِحْرٌ ان کی صفت، موصوف ہ صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر، إِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصَفَاءً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ۝

آیت نمبر ۶۴: فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے، إِنْ أَرَدْتُمْ الْعُكْبَةَ، أَجْمِعُوا فعل واو ضمیر فاعل كَيْدَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اتُّوَصَفَاءً فعل امر واو ضمیر ذوالحال صَفَاءً بمعنی اسم فاعل حال، ذوالحال باحال فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ واو استینافیہ قَدْ علامت فعل، أَفْلَحَ فعل الْيَوْمَ مفعول فیہ مَنْ اسم موصول اسْتَعْلَى فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۝

آیت نمبر ۶۵: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَمْوَسَّىٰ کی ترکیب اسی سورت میں متعدد بار گزر چکی ہے، اور یہ نداء ہے، إِمَّا حرف تردید و تقسیم ان حرف مصدری و نصب تُلْقَىٰ فعل آت مستتر فاعل، دونوں مل کر بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ إِمَّا تردید یہ ان حرف مصدری و نصب تَكُونَ فعل ناقص تَخُنْ مستتر فاعل أَوَّلَ مضاف مِنْ اسم موصول أَلْقَىٰ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا محذوف

الأمور کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب ندائے، نداء باجواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۝۶۶

آیت نمبر ۶۶: قَالَ فعل ہو مشترک فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بَلْ حرف اضراب و عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا أَلْقَى أَوْ لَا، أَلْقُوا فعل امر و ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ معطوف، دونوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَالْقُوا، إِذَا مَافَاجَاتِيهِ يُخَيَّلُ كَا مفعول فیہ مقدم ہے (روح المعانی) حِبَالُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاوْءِ عاطفہ عِصِيَّهُمْ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مبتدأ، يُخَيَّلُ فعل إِلَيْهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار سِحْرِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہائی، اَنَّ حرف تحقیق هَا ضمیر اس کا اسم تَسْعَى فعل ہی مشترک فاعل، دونوں مل کر اَنَّ کی خبر، اَنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ فعلیہ متاخر ہوں۔

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝۶۷

آیت نمبر ۶۷: فَأَوْجَسَ عاطفہ أَوْجَسَ فعل مُّوسَى فاعل فِي حرف جار نَفْسِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے خِيفَةً مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ معطوف ہے۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ۝۶۸

آیت نمبر ۶۸: قُلْنَا فعل تَا ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَا تَخَفْ فعل نَمِي أَنتَ مشترک فاعل، فعل نہی با فاعل جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق كَا ضمیر اس کا اسم أَنتَ ضمیر مبتدأ، الْأَعْلَى اسم تفضیل أَنتَ ضمیر فاعل، اسم تفضیل با فاعل ہے جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا وَإِنَّمَا صَنَعُوا كِيدٌ سِحْرٍ طَوَّالٍ يُفْلِحُ السَّاحِرُ

حَيْثُ أَتَى ۝۶۹

آیت نمبر ۶۹: وَأَوْءِ عاطفہ أَلْقَى فعل امر أَنتَ مشترک فاعل مَا موصولہ فی حرف جار يَمِينِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَلْقَفَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر لَا تَخَفْ پر معطوف ہے۔ تَلْقَفَ فعل ہی مشترک فاعل مَا اسم موصول صَنَعُوا فعل با و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط محذوف اِنَّ تَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ کی جزا ہے، کیونکہ تَلْقَفَ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق مَا اسم موصول صَنَعُوا فعل با و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم كِيدٌ سِحْرٍ مرکب اضافی اِنَّ کی خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں وَاوْءِ عاطفہ لَا يُفْلِحُ فعل السَّاحِرُ فاعل حَيْثُ مضاف اَتَى فعل ہو مشترک فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ ہے، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّمَا پر معطوف ہے۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى ۝

آیت نمبر ۷۰: فآء عاطفہ اَلْقَى فعل مجہول السَّحْرَةُ ذوالحال سُجَّدًا اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر حال بذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہائے نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔ قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل باء حرف جار رَبِّ مضاف هَارُونَ وَ مُوسَى معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور اَمَنَّا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں یا السَّحْرَةُ کا حال ثانیہ ہوں۔

قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ طَائِفَهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۝
فَلَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَ
لَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى ۝

آیت نمبر ۷۱: قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول، أَمَنْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل لَہُ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قَبْلَ مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب اَدْنَى فعل اَنَا مستتر فاعل لَكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ بدو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق تَمضمیر اس کا اسم لام مذ حلقہ کَبِيرُكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول عَلَّمَهُ فعل هُوَ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ السِّحْرِ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہا صفت خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظاہرہ ہوں۔

فآء استینا فیہ لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اَقَطْعَنَّ فعل اَنَا مستتر فاعل اَيْدِيكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ معطوف ذوالحال مِمَّنْ خِلَافٍ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، پھر قسم ہا جواب جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اَصْلِبَنَّ فعل اَنَا مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ فی حرف جار جُدُوعِ النَّخْلِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم ہا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے تَعْلَمَنَّ فعل واو محذوفہ لا التقاء الساکنین فاعل اَيُّنَا اسم موصول اَشَدُّ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل عَذَابًا تَمیز تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْقَى فعل هُوَ مستتر فاعل بدو نوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا محذوف هُوَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مَعْلًا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم ہا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانفہ ہوں۔

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي

هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

آیت نمبر ۷۲: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَنْ نُؤْتِيَكَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ علی

حرف جار ما موصولہ جَاءَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرِدٌّ وَالْحَالُ مِنَ الْبَيْتِ جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ مُسْتَقَرٌّ كَأَنَّكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّحَالٌ، ذُو الْحَالِ بِالْحَالِ فَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنُونَ مَلْ كَرَّصَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَآوِ عَاطِفٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ فَكَطَوَّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنُونَ مَلْ كَرَّ صَالَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى كَا بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ.

فَاءٌ فِعْرٌ أَوْ رَأْسٌ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ إِنْ أَرَدْتَ عِقَابًا بَنَاءً، اِقْضِ فَعْلٌ أَمْرٌ أَنْتَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ أَنْتَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ، قَائِلٌ اسْمٌ فَاعِلٌ أَنْتَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ بِدُونِ مَلْ كَرَّ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ اِقْضِ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ أَمْرٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ انْشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هِيَ هُوَ كَرَّ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ كِي جَزَاءٌ هِيَ، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هِيَ إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ كَقَوْلِهِ، مَا كَا فَهَذَا تَقْضِي فَعْلٌ أَنْتَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ هَذِهِ اسْمٌ اِشْرَافٌ مَوْصُولٌ الْحَيَوَاتِ صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِصِفَتٍ بِمَوْصُولٍ الدُّنْيَا صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِصِفَتٍ مَنصُوبٌ بِزَرْعِ الْخَائِضِ بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ.

إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

آيَةُ نَصْبِ ۴۳: إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ نَا ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ اِشْرَافٌ فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بَاءٌ حَرْفٌ جَارٌ زَرْفًا مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ هُوَ، لَامٌ حَرْفٌ جَارٌ بَرَاءً تَعْلِيلٌ أَوْ رَأْسٌ كِي بَعْدَ أَنْ تَقَدَّرَ هُوَ يَغْفِرُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ لَنَا جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ خَطِيئَتَنَا مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَآوِ عَاطِفٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ أَكْرَهْتُ فَعْلٌ تَاءٌ مَفْعُولٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، عَلَى حَرْفٍ جَارٌ ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ مِنَ السِّحْرِ جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ، ذُو الْحَالِ بِالْحَالِ فَاعِلٌ اِضَائِيٌّ بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلِ مَصْدَرٍ بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ اِشْرَافٌ كِي دُوسَرَى مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرَّ، إِنْ بِاسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ وَآوِ عَاطِفٌ اَللَّهُ مُبْتَدَأٌ، خَيْرٌ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ سَيِّئٌ كَرَّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَآوِ عَاطِفٌ اَبْقَى اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ سَيِّئٌ كَرَّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ لَكِنْ تَوْذِيحٌ بِمَعْطُوفٍ هِيَ.

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

آيَةُ نَصْبِ ۴۴: إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ نَا ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ مَن اسْمٌ شَرْطٌ مُبْتَدَأٌ، يَأْتِ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرِدٌّ وَالْحَالُ مُجْرِمًا اسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مُسْتَرِقٌ فَاعِلٌ سَيِّئٌ كَرَّ حَالٌ، ذُو الْحَالِ بِالْحَالِ يَأْتِ كَا فَاعِلٌ رَبُّهُ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ هُوَ كَرَّ شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ لَهُ جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ مُسْتَقَرٌّ كَأَنَّكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّ حَالٌ، ذُو الْحَالِ بِالْحَالِ فَاعِلٌ اِضَائِيٌّ بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنُونَ مَلْ كَرَّ صَالَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى كَا بِجَرِّ زَرْفٍ، جَارٌ بِجَرِّ زَرْفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ.

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّى ۗ

آیت نمبر ۷۵، ۷۶: واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ، يَأْتِ فعل ہو مسترزوالحال مؤمناً اسم فاعل ہو مستز فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل ہ ضمیر مفعول بہ قَدْ علامت فعل عَمِلَ فعل ہو مستز فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الأَعْمَالِ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یَأْتِ کی ضمیر فاعل سے دوسرا حال ہے، يَأْتِ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ لَهُمُ جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم الدَّرَجَاتُ العُلَى مرکب توصیفی مبدل منہ، جَنَّاتُ عَدْنٍ مرکب اضافی موصوف تَجْرِي فعل مَن حرف جار تَحْتِهَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْأَنْهَارُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف باصفت بدل، مبدل منہ با بدل مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اُولَٰئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عطف کے واسطہ سے اِنَّہ کی خبر ہے۔ خَالِدِينَ اسم فاعل هُمْ مستز فاعل فِيهَا جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر لَهُم کی هُمْ ضمیر سے حال ہے۔ واو استیناف ذلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، جَزَاؤُا مضاف مَن موصول تَزَكَّى فعل ہو مستز فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۴ ﴾

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشٰى ۝

آیت نمبر ۷۷: واو استیناف لَامِ لام موطئہ للقسم قَدْ علامت فعل، اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلٰى مُوسٰى جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اَنْ حرف تفسیر اَسْرِ فعل امر اَنْتَ مستز فاعل بَاء حرف جار عِبَادِيْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَصْرِبْ فعل امر اَنْتَ مستز ذوالحال لا تَخَفْ فعل اَنْتَ مستز فاعل دَرَكًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَخْشٰى فعل اَنْتَ مستز فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال اَصْرِبْ کا فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے طَرِيْقًا موصوف فِى الْبَحْرِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوں، متعلق ہو کر صفت اولیٰ، يَبَسًا صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَوْحَيْنَا کیلئے جملہ مفسرہ ہے۔

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

آیت نمبر ۷۸: فَاء عاطفہ اَتَّبَعَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ فِرْعَوْنُ فاعل بَاء حرف جر جُنُودِهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ غَشِيَ فعل هُمْ ضمیر منصوب

خبر یہ ہوں

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: واؤ استینا فی ران حرف تحقیق یناء ضمیر اس کا اسم لاہر مذ حلقہ عَفَّارٌ صیغہ مبالغہ انا ضمیر اس کا فاعل لاہر جادہ مَن موصول تَاب فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَمَنَ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ عَمِلَ فعل ہو ضمیر فاعل صَالِحًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ثُمَّ حرف عطف اهْتَدَىٰ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: واؤ استینا فیہ ما استفہامیہ مبتداء، اَعْجَلَكَ فعل ہو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ عَنْ حرف جادہ قَوْمِكَ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہو کر جواب نداء مقدم، یَمُوسَىٰ نداء مؤخر، نداء با جواب جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: قَالَ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، هُمْ ضمیر مبتداء، اُولَاءِ پہلی خبر علی حرف جادہ اَثَرِي مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور طرف مستقر کَاثِرُونَ کے متعلق ہو کر دوسری خبر، مبتداء با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عَجِلْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل اِلَيْكَ جادہ با مجرور متعلق اول ہوئے، لاہر جادہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدّم ہے لِتَرْضَىٰ فعل آتت مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر مجرور، جادہ با مجرور عَجِلْتُ کے متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ رَبِّ یہ اصل میں یا آتی ہے یناء حرف نداء قائم مقام اَدْعُو کے، اَدْعُو فعل انا ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ ہو کر نداء، یعنی مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ معترضہ ہوں۔

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بَعْدًا تعلیلیہ ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل، فَتَنَّا فعل نا ضمیر فاعل قَوْمَكَ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ حرف جادہ بَعْدِكَ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَضَلَّ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ السَّامِرِيُّ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ محذوفہ کی تعلیل ہے، اور جملہ محذوفہ لَا تَكُنَّ تَطْرُقُ قَوْمَكَ يَا مُوسَىٰ ہے، پھر مظل اپنی تعلیل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ

فَاخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ۝۸۶

آیت نمبر ۸۶: فاء استینا فیہ رجوع فعل مؤنسی فاعل الی حرف جار قومه مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے غَضَبًا مِّن مَّوْعِدِي سے پہلا حال ہے اسفًا مؤنسی سے حال ثانیہ ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے یہاں حرف ندا اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل آنا مستتر فاعل قَوْمِ منادی مضاف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندا، ہمزہ حرف استفہام لَمْ یَعِدْ فعل کُمْ ضمیر مفعول بہ رَّبِّكُمْ مرکب اضافی فاعل وَعَدَا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق تاکید، اور اِذْعُو بمعنی مَوْعِدًا کے ہو تو پھر مفعول بہ ہوگا، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ جواب ندا ہے، پھر ندا با جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ طَالَ فعل عَلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْعَهْدُ فاعل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عَاطِفٌ اَرَدْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل، اَنْ حرف مصدری و نصب یَحِلُّ فعل عَلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے غَضَبٌ موصوف من رَّبِّكُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت یَحِلُّ کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اَرَدْتُمْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ یَعِدْ كُمْ معطوف ہے فاء عاطفہ اَخْلَفْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل مَّوْعِدِي مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اَرَدْتُمْ معطوف ہے۔

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا آوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَتَّبَعْنَا

فَكَذَّبْتَ بِكُنَّا السَّامِرِيُّ ۝۸۷ فَخَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

وَإِلَهُ مُوسَىٰ قَنَسِيُّ ۝۸۸

آیت نمبر ۸۷، ۸۸: قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول مانا فیہ اَخْلَفْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَوْعِدَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، بناء حرف جار مَلِكِنَا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر مَلِكِنَا کے متعلق ہو کر اَخْلَفْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكِن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم حَمِلْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل آوْزَارًا موصوف من زِينَةِ الْقَوْمِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لَكِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فاء عاطفہ قَدْ تَتَّبَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حَمِلْنَا معطوف ہے۔ فاء استینا فیہ کَذَّبْتَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف الْقَاء کے مفعول مطلق مقدم اَلْقَى فعل السَّامِرِيُّ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَخْرَجَ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے عِجْلًا موصوف جَسَدًا صفت

اولیٰ مکہ جار باجور در طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو اور مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با مستغنی
 أَخْرَجَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، فاء عاطفہ قَالُوا فعل و او ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول
 هَذَا اسم اشارہ مبتدا، اَلِهَکُمُ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اِلٰهُ مُؤَسَّیٰ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف
 خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ نَسِیَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با
 معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، اَلْقٰی معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا لَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

آیت نمبر ۸۹: حمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا يَتَّفَكِرُوْنَ (روح المعانی) لَا يَرَوْنَ فعل
 و او ضمیر فاعل اَنْ محذوف من الشك ضمیر شان محذوف اس کا اسم لَا يَرْجِعُ فعل ہو مستتر فاعل اِلَيْهِمْ جار باجور در طرف لغو متعلق ہوئے قَوْلًا
 مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَبْلُغُ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ جار باجور در طرف لغو
 متعلق ہوئے صَرًّا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّه نَفْعًا معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْ کی خبر، اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتا ویل مصدر لَا يَرَوْنَ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام ہے، فعل
 با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۵ ●

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونٌ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ

قَاتِبِعُونِ ۙ وَاَطِيعُوا اَمْرِي ۝

آیت نمبر ۹۰: واو استینافیہ لام موطنہ للتسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، قَالَ فعل لَهُمْ جار باجور در طرف لغو متعلق
 اول ہوئے هُرُونٌ فاعل مِنْ قَبْلُ جار باجور در متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ قول یا قَوْمِ یہ اصل میں یا قَوْمِ ہے
 اس کی ترکیب آیت نمبر ۸۶ میں گزر چکی ہے، اور یہ ندا ہے، اِنَّ حرف تحقیق کونفہ، مَا كَا فُتِنْتُمْ فعل مجہول ثُمَّ ضمیر نائب فاعل بہ جار
 باجور در متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق رَبَّكُمْ مرکب اضافی اس کا اسم الرَّحْمٰنُ خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ
 اسمیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جواب ندا، ندا با جواب جملہ انشائیہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جواب قسم ہے دونوں مل کر جملہ
 انشائیہ متانفہ ہوں۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنَّ صَدَقْتُمْوَنِي، اِذْ يَبْعُو اِنْفِعا فعل امر و او ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاہ ضمیر مفعول بہ،
 تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطِيعُوا فعل امر و او ضمیر فاعل اَمْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، تینوں مل کر
 جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى ۝

آیت نمبر ۹۱: قَالُوا فعل با و او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَنْ نَبْرَحَ فعل ناقص نَحْنُ مستتر اس کا اسم عَلَيْهِ جار باجور در متعلق

مقدم ہوئے عَکِفَيْنِ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل حَقِّي حرف غایت و جزا اور اس کے بعد اَن مَقْدَر ہے يَزِجُ فاعل اَلَّذِي جاد باجرور متعلق ہوئے مَوْسَى فاعل، تینوں مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ إِلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۗ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲، ۹۳: قَالَ فاعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول يَهُرُونَ کی ترکیب یا مَوْسَى کی مثل ہے اور یہ ندا ہے، مَا استفہامیہ مبتداء مَنَعَ فعل هُوَ مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ ظرف زمان مضاف رَأَيْتَ فعل تَاء مفتوحہ ضمیر فاعل هُم ضمیر مفعول بہ اَوَّل، ضَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مَنَعَ کا مفعول فیہ، اَن حرف مصدری و نصب لَا تَتَّبِعُ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل نون و قافیہ کا، یَاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر منصوب بززع الکافض اصل میں مِنْ اَن... الخ ہے، اور یہ مَنَعَ کے متعلق ہے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب ندا، ندا با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ہَمْزہ حرف استفہام قَاء عاطفہ عَصَيْتَ فعل تَاء مفتوحہ ضمیر فاعل اَمْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب ندا، معطوف ہے۔

قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيْتِي ۖ وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ

إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۗ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: قَالَ فاعل هُوَ مستتر فاعل قول، یَاء حرف ندا، اَبْنِ اصل میں اَبْنِ اُجْحی ہے یہ مرکب اضافی مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا ہے، لَا تَأْخُذْ فعل اَلَّتْ مستتر ذوالحال، بَاء جارہ لِحَيْتِي مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّةَ بِرَأْسِي جاد باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر مُنْسِجًا کے متعلق ہو کر فاعل ہے، فعل بافاعل جملہ انشائیہ جواب ندا، ندا با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم خَشِيتُ فعل تَاء مضمومہ ضمیر فاعل اَن حرف مصدری و نصب تَقُولَ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل سے مل کر قول، فَرَّقْتَ فعل تَاء مفتوحہ ضمیر فاعل بَيْنِ مضاف یَتِيُّ اِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَمْ تَرْقُبُ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل قَوْلِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر خَشِيتُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَاوِرِي ۗ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: قَالَ فاعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول، قَاء نصیہ اور اس کی شرط مخذوف ہے اِنَّ ذَكَرْنَا الْحَقِيقَةَ مَا استفہامیہ مبتداء خَطْبُكَ مرکب اضافی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، مقدم اِسْمِیُّ ندا مؤخر، ندا با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي ﴿۹۱﴾

آیت نمبر ۹۱: قَالَ ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بَصُرْتُ فعل تگاہ مضمومہ ضمیر فاعل بَاء حرف جار ما موصولہ لَمْ یَبْصُرُوا فعل واو ضمیر فاعل بہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَبَضْتُ فعل تگاہ مضمومہ ضمیر فاعل قَبْضَةً موصوفہ من حرف جار أَثَرِ الرَّسُولِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت مفعول مطلق، فعل ہا فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ نَبَذْتُ فعل تگاہ مضمومہ ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و استینافیہ کَذَلِكَ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوف تَسْوِيًّا کے مفعول مطلق مقدم سَوَّيْتُ فعل لی جار مجرور متعلق ہوئے نَفْسِي مرکب اضافی فاعل، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ متانہ ہوا۔

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ مِنِّي وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲: قَالَ ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول، فاء نصیحا اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ تَكْفُرْ بِاللّٰهِ اذْهَبْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ اِنْ حرف تحقیق لَكَ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الْحَيَاةِ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر لَكَ کی ضمیر سے حال ہے، اِنْ حرف مصدری و نصب تَقُولَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، لَانِیْ جِنْسِ مِسَاسٍ اس کا اسم بَيِّنَاتًا اس کی خبر مخدوف ہے، لَانِیْ جِنْسِ بِاسْمِ وَخَبْرٍ مَّقُولَةٍ، قول ہا مقولہ بتاویل مصدر اِنْ کا اسم، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ حرف تحقیق لَكَ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَوْعِدًا موصوفہ لَنْ يُخْلَفَ فعل مجهول اَنْتَ مستتر نائب فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَوْعِدًا کی صفت، موصوفہ ہفت اسم مؤخر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مطلق ہوا۔

واو عاطفہ اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل الی حرف جار اِلٰهِكَ مرکب اضافی موصوفہ الَّذِي اسم موصول ظَلْتَ فعل ناقص تگاہ مفتوحہ اس کا اسم عَلَيَّهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَاكِفًا اسم فاعل اَنْتَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص بِاسْمِ وَخَبْرٍ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ اِلٰهِكَ کی صفت، موصوفہ ہفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو اَنْظُرْ کے متعلق ہوئے، فعل امر ہا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ اذْهَبْ ہا معطوف ہے۔ لآء موطرہ القسم اور قسم مخدوف ہے نُحَرِّقَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ لَنُحَرِّقَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ فی الْيَمِّ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے نَسْفًا مفعول مطلق، چاروں مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانہ ہوا۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۸: اِن حرف تحقیق کھوفہ ما کا نہ اِلَهُكُمُ مرکب اضافی مبتدا، اللہ موصوف الذی اسم موصول لانی جنس الہ مبدل منرا لآ حرف استثناء ہو ضمیر الہ کے محل سے بدل ہے، مبدل منہ بادل لآ کا اسم مؤجود مخدوف خبر، لآ اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف ہ صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وسع فعل ہو ضمیر فاعل کل شئی ہو مرکب اضافی مفعول بہ علمًا تہیز، فعل با فاعل و مفعول بہ و تہیز جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: كَذَلِكَ جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف قصصا کے مفعول مطلق نَقُصُّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَلَيْكَ جار با مجرور متعلق ہوئے مِنْ حرف جار اَنْبَاءِ مضاف ما موصولہ قد علامت فعل، سَبَقَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق تانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول مطلق و متعلقین جملہ متانہ ہو۔ واو عاطفہ یا حال یہ قد علامت فعل آتینا فعل تا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ اول، مِنْ لَدُنَّا جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم ذکر و اذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ یعنی، فعل با فاعل و مفعولین سَبَقَ پر معطوف ہے یا سَبَقَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿۱۰۰﴾

آیت نمبر ۱۰۰: مَنْ اسم شرط محلامر فروع مبتدا اَعْرَضَ فعل ہو مستتر فاعل عَنْهُ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر شرط فقاء جزاسیہ اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم، يَحْمِلُ فعل ہو مستتر فاعل يَوْمَ الْقِيَمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ وِزْرًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

خُلِدِينَ فِيهِ وَ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: خُلِدِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر يَحْمِلُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے يَحْمِلُ فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وَاو استینا فیہ سَاءَ فعل زم ہو مستتر مہم جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہوئے، کا تینا اسم فاعل ہو مستتر فاعل يَوْمَ الْقِيَمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ حال مقدم حِمْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال تہیز، مہم با تہیز فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے وِزْرُهُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿۱۰۲﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۲، ۱۰۳: يَوْمَ مضاف يُنْفَخُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل فی الصُّور جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با

نائب فاعل و متعلق مضاف الیہ، مرکب اضافی یَوْمَ الْقِيَمَةِ سے بدل ہے، واو عاطفہ نَحْشُرُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل یَوْمَ الْقِيَمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ الْمُجْرِمِينَ ذُو الْحَالِ زُرْقًا حال اولیٰ، يَتَخَفَتُونَ فعل واو ضمیر فاعل يَتَنَهُمُ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر حال ثانیہ، اِنْ نَافِيه لَيْبِئْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء عَشْرًا مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَائِلِينَ محذوف کا مقولہ ہو کر حال ثالثہ، ذُو الْحَالِ باحوال ثلثہ نَحْشُرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ يُنْفَخُ معطوف ہے۔

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَيْبِئْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

آیت نمبر ۱۰۳: نَحْنُ ضمیر مبتدا، اَعْلَمُ اسم تفضیل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل يَاء حرف جار ما موصول يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور اَعْلَمُ کے متعلق ہوئے اِذْ ظرف زمان مضاف يَقُولُ فعل اَمْثَلُ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مضاف الیہ طَرِيقَةً تمييز، اسم تفضیل با مضاف الیہ و تمييز يَقُولُ کا فاعل فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ نَافِيه لَيْبِئْتُمْ فعل اِلَّا حرف استثناء يَوْمًا مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم تفضیل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۶ ●

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

آیت نمبر ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸: واو استینا فیہ يَسْأَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل كَاف ضمیر مفعول بہ عَنِ الْجِبَالِ جار باجور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں، قَاءَ نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَجَبْتِ، قُلْ فعل امر اَنْتِ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، يَنْسِفُ فعل ہا ضمیر مفعول بہ رَبِّي مرکب اضافی فاعل نَسْفًا مصدر مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ يَذَرُ فعل هُوَ مستتر فاعل ہا ضمیر ذُو الْحَالِ قَاعًا حال اولیٰ، صَفْصَفًا حال ثانیہ، لَا تَرَىٰ فعل اَنْتِ مستتر فاعل فِيهَا جار باجور در طرف لغو متعلق ہوئے عِوَجًا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَرَىٰ صَفْصَفًا حال ثانیہ، اَمْتًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا تَرَىٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ثالثہ، ذُو الْحَالِ باحوال ثلثہ يَذَرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

يَوْمَ مَيِّدٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ اِلَّا عِوَجًا لَهُ ۝ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ اِلَّا هَيْسًا ۝

آیت نمبر ۱۰۸: يَوْمَ مَيِّدٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم يَتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل الدَّاعِيَ ذُو الْحَالِ لَا تَرَىٰ جنس عِوَجِ اس کا اسم لہُ جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، لَا تَرَىٰ جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذُو الْحَالِ باحوال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خَشَعَتِ فعل الْاَصْوَاتُ فاعل لِلرَّحْمَنِ جار باجور در متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں، قَاءَ عاطفہ لَا تَسْمَعُ فعل اَنْتِ مستتر فاعل اِلَّا حرف

استثناء مستثنی مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خشعت پر معطوف ہے۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۹

آیت نمبر ۱۰۹: یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم لا تَنْفَعُ فعل الشَّفَاعَةُ قائل الا حرف استثناء من اسم موصول اَدِنَ فعل له ظرف لغو متعلق ہوئے الرَّحْمَنُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَضِيَ فعل هو مستتر قائل له جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے قَوْلًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مستثنی مفرغ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۰

آیت نمبر ۱۱۰: يَعْلَمُ فعل هو مستتر قائل مَا اسم موصول بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی فعل محذوف ثببت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی فعل محذوف ثببت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو حالیہ لَا يُحِيطُونَ فعل واو ضمیر قائل یہ جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے عِلْمًا تميز، فعل با قائل و متعلق و تميز جملہ فعلیہ خبریہ اَيْدِيهِمْ کی ضمیر ہم سے حال ہے۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۝۱۱ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۲

آیت نمبر ۱۱۱: واو استینا فیہ عَنْتِ فعل الْوُجُوهُ قائل لام حرف جار الْحَيِّ الْقَيُّومِ مرکب توصیفی مجرد، جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ متانفہ ہوں واو حالیہ قَدْ علامت فعل، خَابَ فعل مَنْ موصول حَمَلَ فعل هو مستتر قائل ظُلْمًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ قائل فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ الْوُجُوهُ سے حال ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۳

آیت نمبر ۱۱۲: واو استینا فیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، يَعْمَلْ فعل هو مستتر ذوالحال، واو حالیہ هُوَ مُؤْمِنٌ مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال با حال قائل مِنَ الصَّالِحَاتِ جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لَا يَخْفُ فعل هو مستتر قائل ظُلْمًا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَخْفُ هَضْمًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدأ محذوف هو کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۴

آیت نمبر ۱۱۳: واو استینا فیہ كَذَلِكَ جار باجورد طرف مستقر كَاتِبَاتُكَ متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اَنْزَلْنَا کے مفعول مطلق اَنْزَلْنَا فعل تا ضمیر قائل تا ضمیر ذوالحال قُرْآنًا عَرَبِيًّا مرکب توصیفی حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَرَّفْنَا فعل تا ضمیر قائل فِيهِ جار باجورد طرف متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار عِنْدَ اَلْحَفْصِ ذِكْرًا، الوَعِيدِ محلاً

منصوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں لعل حرف ترمیمی ہضمیر اس کا اسم، یَتَقَوَّنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف یُخَدِّثُ فعل ہو مستتر فاعل لہم جہا بجز در متعلق ہوئے، اذ کوزا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، لعل باسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مطلقہ ہوں۔

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۱۳﴾

آیت نمبر ۱۱۳: فآء عاطفہ تعالیٰ فعل لفظاً اللہ فاعل الْمَلِكُ الْحَقُّ لفظ اللہ کی دو صفت ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ اَلزَّلْنُهُ پرمعطوف ہے۔ واو استینا فیہ لاکتعجل فعل نمی آت ضمیر مستتر فاعل بِالْقُرْآنِ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، وین حرف جر قبیل مضاف آن حرف مصدری و نصب یُقْضَىٰ فعل مجہول الیک جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے و وحیہ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق بتا ویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بجز در، جہا بجز در لاکتعجل کے متعلق ثانی، فعل نمی اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر جملہ انشائیہ مستانہ ہوں واو عاطفہ قل فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، رب یہ اصل میں یا زنی ہے اور یہ ندا ہے، زد فعل امر آت مستتر فاعل نون برائے و قایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اول علمنا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جواب ندا ہے، ندا ہوا بجز جواب ندا مفعول، قول با مفعول لاکتعجل پرمعطوف ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ ۖ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۱۴﴾

آیت نمبر ۱۱۴: واو استینا فیہ لامر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل عہدنا فعل ناقص ضمیر فاعل اِلَىٰ آدَمَ جہا بجز در طرف لغو متعلق اول ہوئے وین قبیل جہا بجز در طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فآء عاطفہ نسی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَمْ نُجِدْ فعل لہ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے عَزْمًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۷ ﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط آبی ﴿۱۱۵﴾

آیت نمبر ۱۱۵: واو استینا فیہ اذ طرف زمان مضاف قلنا فعل ناقص ضمیر فاعل لِلْمَلَائِكَةِ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، اسجدوا فعل امر واو ضمیر فاعل لِآدَمَ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مفعول، قول با مفعول معطوف علیہ، فآء عاطفہ سجدوا فعل واو ضمیر مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء اِبْلِيسَ مستثنیٰ منقطع ہے یا متصل ہے، مستثنیٰ منہ یا مستثنیٰ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذ کوزا کا مفعول بہ ہے، اذ کوزا فعل امر اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں آبی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں (روح المعانی)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۷

آیت نمبر ۱۷: آقا استینانیہ قُلْنَا فعل فاعل ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول ہے، یَا آدَمُ کی ترکیب یا مُوسَى کی طرح ہے اور یہ ندا ہے، اِنَّ حرف تحقیق ہذا اسم اشارہ اس کا اسم عَدُوٌّ موصوف لک جا رہا ہے اور معطوف علیہ، واو عاطفہ لام حرف جارِ زَوْجُ لک مرکب اضافی مجرد، جارِ با مجرد معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر کَا لِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ندا کا جواب، پھر ندا با جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ مستانہ ہوا۔

آقا نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنَّ عَرَفْتُمَا عَدَاوَتَهُ لَكُمَا، لَا يُخْرِجَنَّ فعل نہیں ہو مستقر فاعل کُمَا ضمیر مفعول بہ مِنَ الْجَنَّةِ جارِ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ آقا عاطفہ سببہ اور اس کے بعد اِنَّ مقدّر ہے اس لئے کہ آقا جواب نہیں میں واقع ہے تَشْقَى فعل اَنْتَ مستقر فاعل، دونوں مل کر بتاویل مصدر لَا يُخْرِجَنَّ سے جو مصدر نکالا جاتا ہے اس پر معطوف ہے، کیونکہ اس کی اصل عبارت لَا يَكُنْ اِخْرَاجٌ مِنْهُ لَكُمَا فِشْقَاءٌ لَكَ ہے۔

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى ۝۱۸ وَ اَنْتَ لَا تَظْمُؤْا فِيْهَا وَلَا تَصْحَى ۝۱۹

آیت نمبر ۱۸، ۱۹: اِنَّ حرف تحقیق لَكَ جارِ با مجرد کَا لِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب لَا تَجُوعَ فعل اَنْتَ مستقر فاعل فِيْهَا جارِ با مجرد متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَعْرَى فعل اَنْتَ مستقر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق كَاف ضمیر اس کا اسم لَا تَظْمُؤْا فعل اَنْتَ مستقر فاعل فِيْهَا جارِ با مجرد متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَصْحَى فعل اَنْتَ مستقر فاعل، دونوں مل کر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف اَنْ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف عملاً منصوب اِنَّ کا اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوا۔

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَ مَلِكٍ لَا يَمِيْلُ ۝۲۰

آیت نمبر ۲۰: آقا استینانیہ وَسْوَسَ فعل اِلَيْهِ جارِ با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے الشَّيْطٰنُ فاعل تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوا۔ قَالَ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر قول ہے، یَا آدَمُ جملہ انشائیہ ہو کر ندا، هَلْ حرف استفہام اَدُلُّ فعل اَنَا مستقر فاعل كَاف ضمیر مفعول بہ عَلٰی حرف جارِ شَجَرَةِ الْخُلْدِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلِكٍ موصوف لَا يَمِيْلُ فعل ہو مستقر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جارِ با مجرد ظرف لغو اَدُلُّ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، پھر ندا با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصَى

اَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝۲۱ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى ۝۲۲

آیت نمبر ۲۱، ۲۲: آقا عاطفہ اَكَلَا فعل الف ضمیر فاعل مِنْهَا جارِ با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف علیہ، فاء عاطفہ بَدَتْ فعل لہما جاد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے سَوَّاهُمَا مرکب اضافی فاعل فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو عاطفہ کَلَفًا فعل الف ضمیر اس کا اسم یُخَصِّصُ فاعل الف ضمیر اس کا فاعل عَلَیْہِمَا جاد باجمر و طرف لغو متعلق اول ہوئے مِنْ حرف جاد وَرَقِ الْجَنَّةِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجمر و طرف لغو متعلق مبنی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ کَلَفًا کی خبر، فعل مقادب ہا سَم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر بَدَتْ پر معطوف ہے۔ واو استینافیہ عَصَى فعل اَدْمُ فاعل رَبُّہُ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ عَوَى فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ اَجْتَبَى فعل اُضْمِر مفعول بہ رَبُّہُ مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مبنی، فاء عاطفہ کَلَبَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَیْہِ جاد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واو عاطفہ هَدَى فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ جملہ متانہ ہوں۔

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۲۳﴾

آیت نمبر ۱۲۳: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول باہْبِطَا فعل امر الف ضمیر ذوالحال جَمِيعًا اسم فاعل کے معنی میں ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل مِنْهَا جاد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں بَعْضُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ لِبَعْضٍ جاد باجمر و طرف مستتر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِهْبِطَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فاء عاطفہ اِنْ حرف شرط مَا زَلَّ وَيَأْتِيَنَّ فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ حرف جاد لون برائے وقایہ یاء ضمیر مجرور، جاد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے، هُدًى مرفوع تقدیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ مِّن اسم شرط مبتدأ، اِتَّبَعَ فعل ہو مستتر فاعل هُدَايَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لَا يَضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَشْقَى فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مِّن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط اول کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۲۴﴾

آیت نمبر ۱۲۴: واو عاطفہ مِّن اسم شرط مبتدأ أَعْرَضَ فعل ہو مستتر فاعل عَن حرف جاد ذِکْرِي مرکب اضافی مجرور، جاد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق لَہُ جاد باجمر و طرف مستتر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَعِيشَةً ضَنْكًا مرکب توصیفی اسم مؤخر اِنْ ہا سَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَحْشُرُهُ فعل لَحْنُ مستتر فاعل اُضْمِر ذوالحال أَعْمَى حال بذوالحال باحال مفعول بہ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مِّن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مِّن اِتَّبَعَ پر معطوف ہے۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۵﴾

آیت نمبر ۱۲۵: قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۵﴾
 ہاجر اور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے حَشَرْتَنِيْ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر منصوب ذوالحال، اَعْمٰی ذوالحال، واو حالیہ قد علامت فعل، كُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ ضمیر اس کا اسم بَصِيْرًا صیغہ صفت اتنا مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یاء ضمیر کا حال، ذوالحال باحال حَشَرْتَنِيْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر جواب نماء، نماء باجواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متنازعہ ہو۔

قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتَكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْسٰی ﴿۱۲۶﴾

آیت نمبر ۱۲۶: قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتَكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْسٰی ﴿۱۲۶﴾
 ہے مبتدا مخدوف الامر کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اَتٰتَكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ اٰیٰتُنَا مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، معطوف علیہ با مقولہ جملہ مطلق ہوا۔ واو عاطفہ كَذٰلِكَ جار باجور طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف نسبیاتا کے مفعول مطلق الْيَوْمَ مفعول فی مقدم تَنْسٰی فعل مجهول اٰیٰتِ ضمیر مستتر نائب فاعل، فعل مجهول نائب فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ نسبیاتہا پر معطوف ہے۔ یا جملہ متنازعہ ہے۔

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآیٰتِ رَبِّهِ ط وَّلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ﴿۱۲۷﴾

آیت نمبر ۱۲۷: وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآیٰتِ رَبِّهِ ط وَّلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ﴿۱۲۷﴾
 مطلق مقدم، نَجْزِيْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول اَسْرَفَ فعل ہو مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ يُؤْمِنْ فعل ہو مستتر فاعل بآیٰتِ رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور طرف لغو لَمْ يُؤْمِنْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با موصول باصلہ نَجْزِيْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ كَذٰلِكَ اَتٰتَكَ پر معطوف ہے۔ واو استینا فی لام ابتدائیہ تاکید یہ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ مرکب اضافی مبتدا، اَشَدُّ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْقٰی اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازعہ ہو۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰیٰتٍ لِّاُولِيْ النُّوْهِ ﴿۱۲۸﴾

آیت نمبر ۱۲۸: اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لآٰیٰتٍ لِّاُولِيْ النُّوْهِ ﴿۱۲۸﴾
 ہوا۔ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے كَمَا خبریہ میز مِّنَ الْقُرُوْنِ جار باجور تیز، میز ہا تیز مفعول بہ

مقدم اھلکنا فعل نا ضمیر فاعل قبلہم مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَعْلَا منصوب لَمْ یَقْدِرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں یَتَشَوَّنُ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار متسلکینہم مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ الْقُوْن سے حال ہے، یا اھم کی ضمیر ہم سے حال ہے (روح المعانی) اِنْ حرف تحقیق فی ذلک جار با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لا مر مذ طلعت آیت موصوف لآمر حرف جار اولی الثھی مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہ صفت اسم مؤخر، اِنْ ہا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۸ ●

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

آیت نمبر ۱۲۹: واو استینا فیہ لو لا حرف اتناع کلمۃ موصوف سبقت فعل ہی مستتر فاعل من حرف جار ربک مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہ صفت مبتدا، اور خبر مخدوف ہے مؤجودۃ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لا مر جمالیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم لزاما خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ اجل مسمی مرکب توصیفی کلمۃ ہ معطوف ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَّ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَّ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَّ مِنۢ مِّنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَّ اطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

آیت نمبر ۱۳۰: فاء نصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ سَبَّغْتَ مَا يُؤْذِيكَ، اصْبِرْ فعل امر آت مستتر فاعل علی حرف جار ما اسم موصول يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل بدو نون مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد طرف لغو اصْبِرْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبِّحْ فعل امر آت مستتر ذوالحال، بناء حرف جار حَمْدِ رَبِّكَ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف مستقر مُتَكَلِّمًا کے متعلق ہو کر حال ہے مذوالحال باحال فاعل قَبْلَ مضاف طُلُوعِ الشَّمْسِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ واو عاطفہ قَبْلَ مضاف غُرُوبِهَا مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف سَبِّحْ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو عاطفہ من حرف جار اَنْبِیِّ الْاٰیْلِ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد طرف لغو متعلق مقدم فاء زلذہ (روح المعانی) سَبِّحْ فعل امر آت مستتر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ پہلے سَبِّحْ ہ معطوف ہے، واو عاطفہ اطراف النهار مرکب اضافی مضاف طُلُوعِ الشَّمْسِ ہ معطوف ہے لَعَلَّ حرف ترمیمی کاف ضمیر منصوب اس کا اسم تَرْضَىٰ فعل آت مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ ہا سم و خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہے، یا راجعی الرضاک تادیل میں ہو کر سَبِّحْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے

وَلَا تُؤَدِّنْ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ

فِيهِ طَوْرُ رِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

آیت نمبر ۱۳۱ : واو عاطفہ لاکمَدَنَّ فعل اَنْتَ مستتر قائل عَيْنِيكَ مرکب اضافی مفعول بہ الی حرف جار ما موصولہ مَتَّعْنَا فعل تاضمیر قائل بہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَزْوَاجًا موصوف مِنْهُمْ جار مجرور طرف مستقر کائِنَةَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ مَتَّعْنَا فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار مجرور طرف لغو لاکمَدَنَّ کے متعلق ہوئے، فعل نمی اپنے قائل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ نہیہ اَصْبِرْ بہ معطوف ہے زَهْرَةَ مضاف الْحَيَوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یہ کہ ہ ضمیر سے حال ہے، لام حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے نَفْسِنُ فعل نَحْنُ مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ فِیْهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو مَتَّعْنَا کے متعلق ہوئے واو استینا فِی رِزْقِ رَبِّكَ مرکب اضافی مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل هُوَ مستتر قائل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْقَى فعل هُوَ مستتر قائل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى ۝

آیت نمبر ۱۳۲ : واو عاطفہ اَوْمُرُ فعل اَمْرًا تَ مستتر قائل أَهْلَكَ مرکب اضافی مفعول بہ بِالصَّلَاةِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْطَبِرْ فعل اَمْرًا تَ مستتر قائل عَلَيْهَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف لاکمَدَنَّ بہ معطوف ہے۔ لَا نَسْأَلُكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ رِزْقًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ نَحْنُ ضمیر منفصل مبتدأ، نَرِزُقُكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل کَانَ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَبٌ ہوں۔ واو استینا فِی الْعَاقِبَةِ مبتدأ لِلتَّقْوَى جار مجرور طرف مستقر کائِنَةَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِنَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ط أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

آیت نمبر ۱۳۳ : واو استینا فِی قَالُوا فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَوْ لَا حرف تَخْفِيفٌ يَأْتِي فعل هُوَ مستتر قائل تَا ضمیر منصوب مفعول بہ، بناء جارہ آيَةٌ موصوف مِنْ رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائِنَةَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جار مجرور طرف یَأْتِي کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ هَذِهِ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ تَأْتِهِمْ سَائِرُ الْآيَاتِ، لَمْ تَأْتِ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، بَيِّنَةٌ مضاف مَا اسم موصول فی حرف جر الصُّحُفِ الْأُولَى مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور طرف فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ لَمْ تَأْتِ کا قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں۔

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
 آيَتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۝

آیت نمبر ۱۳۴: واؤ استینا فیہ کو حرف شرط آن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اہلکنا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ بنا ہوا
 حرف جار عذاب موصوف من قبلہ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، (روح المعانی) موصوف ہا صفت مجرور، جار ہا مجرور متعلق
 ہوئے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، آن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتا ویل مصدر فعل محذوف ثبت کا فاعل
 ہے، فعل ہا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ قالوا فعل ہا و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ربنا یہ اصل میں یا ربنا ہے
 اور یہ ندا ہے لو لا حرف تخیس ارسلت الیننا رسولا لیکن ارسلا منک کی تاویل میں ہے لیکن فعل ہم منک جار ہا مجرور متعلق
 ہوئے ارسلا معطوف علیہ، فاء عاطفہ سببہ اور اس کے بعد ان مصدریہ مقدر ہے نتبع فعل نحن مستتر فاعل آیتک مرکب اضافی مفعول بہ
 من حرف جار قبل مضاف آن حرف مصدری و نصب نذل فعل نحن مستتر فاعل دونوں مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ نخزی فعل نحن
 مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بتا ویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار ہا مجرور ظرف لغو
 نتبع کے متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف لیکن کا فاعل، فعل
 ہا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جواب ندا، ندا ہا جواب ندا جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ
 شرطیہ متاخر ہوں۔

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ
 اهْتَدَى ۝

آیت نمبر ۱۳۵: قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، کُلُّ مبتدا، اور یہ کُلُّ واحد کی تاویل میں ہے یا یہ عموم
 کے معنی پر وال ہے اس لئے نکرہ ہونے کے باوجود اس کا مبتدا بننا درست ہو گیا ہے متربص اسم فاعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ
 ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے، اذا کان الامر کذلک
 (فقیر) تَرَبَّصُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا فاء تطیلیہ بسین علامت
 فعل تَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل من استفہامیہ مبتدا، اصحاب الصراط السوئی مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی
 خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ من استفہامیہ مبتدا، اهتدی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف تَعْلَمُونَ کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہوں۔

بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ

بروز بدھ بوقت ۸:۱۰ بجے بتاریخ ۱۳ ذوالحجہ ۱۴۳۸ھ کو الیکٹرونک سید آباد کراچی کی ہلالی منزل، سورہ طہ کی ترکیب

محمد سلمان دھلوی کی معاونت سے مکمل ہوئی ہے

ترکیب سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۱

آیت نمبر ۱: اقْتَرَبَ فعل لام حرف جرائس مجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے حِسَابُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال واؤ حالیه هُمْ ضمیر مبتدا، فی حرف جار غَفْلَةٍ مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر اول، مُّعْرِضُونَ اسم فاعل اس میں هُمْ ضمیر فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ابتدائیہ ہوں۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۱

آیت نمبر ۲: مَا يَأْتِيهِمْ فعل هُمْ ضمیر ذوالحال الآخر استمعهوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال واؤ حالیه هُمْ ضمیر مبتدا، يَلْعَبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اسْتَمَعُوا کا فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مشتق مفرغ ہو کر هُمْ ضمیر کا حال، ذوالحال باحال يَأْتِي کا مفعول بہ، مِنْ حرف جر ذلذذ کبر موصوف من رَبِّهِمْ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُحَدَّثٍ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین ملامر فروع يَأْتِي کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

لَا هِيَّةَ قُلُوبُهُمْ طَوْأَسْرُ وَالنَّجْوَى مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَصْلَهُ هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۱

اَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۱

آیت نمبر ۳: لَا هِيَّةَ اسم فاعل قُلُوبُهُمْ مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل يَلْعَبُونَ کی واؤ ضمیر فاعل سے حال ہے، واؤ استثنائیہ اَسْرُ و افعال واؤ ضمیر مبدل منہ الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل فاعل النَّجْوَى منسوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں۔ هَلْ حرف استفہام هَذَا اسم اشدہ مبتدا، الآخر استمعهوا بَشَرٌ موصوف مِثْلُكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ النَّجْوَى سے بدل ہے، یا قول مخدوف کا مقولہ ہے۔ ہمزہ حرف استفہام قائم حافظہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تُخْطِئُونَ، تَأْتُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، واؤ حالیه اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تُبْصِرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تَأْتُونَ کا فاعل السِّحْرُ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متاخر ہوں۔

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱

آیت نمبر ۴: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّي مرکب اضافی مرفوع تقدیر مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْلِ ذوالحال فی حرف جار السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال،

ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ السَّبِيحُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مَلِيحٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ

الْأَوَّلُونَ ⑤

آیت نمبر ۵: بَلْ حرف اضراب و عطف قَالُوا الفعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ مرکب اضافی مبتدأ مخدوف ہو کر خبر ہے، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ بَلْ حرف اضراب و عطف افْتَرَاهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔ بَلْ حرف اضراب و عطف هُوَ شَاعِرٌ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُولًا، لِيَأْتِنَا فعل امر ہو مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بآء حرف جار آیۃ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کان حرف جار ما حرف مصدریہ اُرْسِلَ فعل مجہول الْاَوَّلُونَ نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَيْفَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِثْبَاتَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

مَا أَمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ①

آیت نمبر ۶: مَا نافیہ أَمَنْتُ فعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، مِّنْ حرف جار ذلک قَرْيَةٍ موصوف أَهْلَكْنَاهَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت محلّا مرفوع فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔ ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور فاء در حقیقت ہمزہ سے مقدم ہے ہُمْ ضمیر مبتدأ، يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ اَمَنْتُ پر معطوف ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ⑤

آیت نمبر ۷: واو استینا فیہ مَا نافیہ أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلَّا حرف استثناء رِجَالًا موصوف نُّوحِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل إِلَيْهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف با صفت مستثنیٰ مفرغ أَرْسَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسْتَلُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل أَهْلَ الذِّكْرِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم لا تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء مخدوف ہے فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ⑤

آیت نمبر ۸: واو عاطفہ مانافیہ جَعَلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول جَسَدًا موصوف لایَا کُلُّونَ فعل واو ضمیر فاعل الظَّعَامَ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مانافیہ کَانُوا فَعَلْنَا ناقص واو ضمیر اس کا اسم خَلِدِیْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مَا أَرْسَلْنَا مَعطوف ہے۔

ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ①

آیت نمبر ۹: ثُمَّ عاطفہ صَدَقْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، الْوَعْدَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ أَنْجَيْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم موصول نَشَاءُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف أَنْجَيْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اَهْلَكْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل الْمُسْرِفِينَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مَا جَعَلْنَاهُمْ مَعطوف ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ②

آیت نمبر ۱۰: لامر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل أَنْزَلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل إِلَيْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے کِتَابًا موصوف فیہ جار مجرور ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ذِکْرُكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ کِتَابًا کی صفت، موصوف باصفت أَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہول ہمزة حرف استفہام فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا تَتَفَكَّرُونَ (روح المعانی) لَا تَعْقِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر انشائیہ ہول۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ③

آیت نمبر ۱۱: واو استینافیہ كَمْ خبریہ میز من حرف جار قَرْيَةٍ موصوف کانت فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم ظَالِمَةً خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور تیز، میز با تیز مفعول بہ مقدم، قَصَمْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَنْشَأْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل بَعْدَهَا مرکب اضافی مفعول بہ قَوْمًا آخَرِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قَصَمْنَا پر معطوف ہے۔

فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسْنَاءِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ④

آیت نمبر ۱۲: فَاء عاطفہ لَمَّا جینیہ متضمن معنی شرط مفعول بہ مقدم أَحْسَبُوا فَعَلْنَا ضمیر فاعل بِأَسْنَاءِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، إِذَا مفا جاتیہ يَرْكُضُونَ کا مفعول بہ مقدم ہے، هُمْ ضمیر مبتدا، مِنْهَا جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَرْكُضُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول۔

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: لَا تَرْكُضُوا فعل نہی وادّ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاوُ عاطفہ اَرْجِعُوا فعل امر وادّ ضمیر فاعل الی حرف جار مآسَم موصول اُتْرِفْتُمْ فعل مجہول تاء مضمومہ ضمیر نائب فاعل فِیْهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، وَاوُ عاطفہ مَسْكِنِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، دونوں مل کر قِیْلَ لَہُمْ محذوف کا مقولہ ہے۔ لَعَلَّ حرف ترحمی کُم ضمیر اس کا اسم تُسْأَلُونَ فعل مجہول وادّ ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، لَعَلَّ ہا اسم و خبر جملہ مطلقہ یا مستانفہ ہوں۔

قَالُوا اَيُّوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: قَالُوا فعل بادّ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف ندا اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اِنَّا ضمیر فاعل وَايُّوَيْلَنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس کا اسم ظَالِمِينَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ مصدر مضاف ہُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل حَتَّىٰ حرف غایت وجر جَعَلْنَا فعل نَا ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ حَصِيدًا خَبِثِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور دَعْوَاهُمْ کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر منصوب تقدیر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ مستانفہ ہوں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: وَاوُ استینا فیہ مآنَا فیہ خَلَقْنَا فعل نَا ضمیر فاعل السَّمَاءَ معطوف علیہ، وَاوُ عاطفہ الْاَرْضَ معطوف اول، وَاوُ عاطفہ مَا موصولہ بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین مفعول بہ، لِعِبِينِ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خَلَقْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَہُمْ اَوْلَادًا لَّآ تَخِذُنَا مِنْ دُنَا صَلَاةٍ اِنْ كُنَّا فَعٰلِينَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: لَوْ حرف شرط اَرَدْنَا فعل نَا ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب نَّتَّخِذَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَہُمْ مفعول بہ اول، اور مفعول بہ ثانی محذوف ہے مَا یُؤْتِیْہُمْ بِہ (محمد و صانی) فعل ہا فاعل و مفعولین بتاویل مصدر اَرَدْنَا کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَہُمْ جوابیہ اَتَّخِذْنَا فعل نَا ضمیر فاعل نَا ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جار لَدُنَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کَانُوا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف شرط کُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس

کاسم فَعِلَيْنِ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے لَا تَتَّخِذُوا لَهُ، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: بَلْ حرف اضراب نَقْذِفُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل بِالْحَقِّ جار باجور ظرف لغو متعلق اِذْل ہوئے عَلَى الْبَاطِلِ جار باجور متعلق مانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ زَا هِقُ فعل هُوَ مستتر فاعل کا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَاء عاطفہ اِذَا مفاعلیہ زَاهِقٌ کا مفعول فیہ مقدم هُوَ ضمیر مبتدا، زَاهِقٌ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔ واو استینا فیہ لَكُمْ جار باجور و ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہوئے، کائِن اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل مِنْ حرف جار مَا اسم موصول تَصِفُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور و ظرف لغو کائِن کے متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، الْوَيْلُ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انتہائیہ متانفہ ہو۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْ مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا

يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: واو استینا فیہ لَهُ جار باجور و ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول فی حرف جار السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجور و ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ واو عاطفہ مَنْ اسم موصول عِنْدَهُ مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لَا يَسْتَكْبِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَنْ حرف جار عِبَادَتِهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَسْتَحْسِرُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَهُ مَنْ... اس پر معطوف ہے۔

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: يُسَبِّحُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال لَا يَفْتُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے، یا لَا يَسْتَكْبِرُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: أَمْ بمعنی بَلْ اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل آلِهَةً مفعول بہ اِذْل مِنْ الْأَرْضِ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ هُمْ ضمیر مبتدا، يُنشِرُونَ فعل باو ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ

اسیہ خبریہ مستانفہ ہوا یا الہیۃ کی صفت ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: لو حرف شرط کان، فعل ناقص فیہما جار باجر در ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الہۃ موصوفہ الّا بمعنی غیرو مضاف لفظاً اللہ مضاف الیہ، مرکب اضافی صفت، موصوف بہ صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ فسدتا فعل الف ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا، فاء استینافیہ سُبْحَانَ مصدر مضاف لفظاً اللہ موصوف ربّ العرش مرکب اضافی صفت، موصوف بہ صفت مضاف الیہ، عن حرف جار ما موصولہ یصفون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار باجر در سُبْحَانَ مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر فعل محذوف تَسْبِیح کا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ استینافیہ ہوں۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: لا یُسْئَلُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل عن حرف جار ما مصدریہ یفعل فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار باجر در لا یُسْئَلُ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بتائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، یُسْئَلُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مِمَّنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: ام بمعنی بل، اتخذوا فعل واو ضمیر فاعل من حرف جار دونه مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم الہۃ مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں، قل فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، هاتوا اسم فعل بمعنی فعل امر اور عندا الجہوریہ فعل امر جا رہے، واو ضمیر فاعل بُرْهَانَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

ہذا اسم اشارہ مبتدا، ذکرو مضاف من اسم موصوف معی مرکب اضافی فعل محذوف کسبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ذکرو من قبلی کی ترکیب ذکرو من معی کی مثل ہے، اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ یا مستانفہ ہوں، بل حرف اضراب اکثروہم مرکب اضافی مبتدا، لا یعلمون فعل واو ضمیر فاعل الحق مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، معرضون اسم فاعل ہم ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۵: وَإِذِ اسْتَأْنَيْتَهُ مَا نَا فِيهِ أَرْسَلْنَا نَحْنُ نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ مِنْ حَرْفِ جَرِّ قَبْلِكَ مَرْكَبِ اِضْطِائِيٍّ جَرُّورٍ، جَارٌ بِجَرُّورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، مِنْ حَرْفِ جَارٍ زَلَّةٌ وَرَسُولٌ ذُو الْحَالِ إِلَّا حَرْفِ اسْتِئْثَاءٍ نُوحِيٌّ فِعْلٌ نَحْنُ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ الْيَوْمِ جَارٌ بِجَرُّورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، أَنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ ضَمِيرِ اسْمِ كَالِاسْمِ لَا نَفْسِي جِنْسِ اللَّهِ مَبْدَلٌ مِنْهُ، إِلَّا حَرْفِ اسْتِئْثَاءٍ أَنَا" إِلَهَ كَيْ مَعْلٍ سَعْدٌ هُوَ، مَبْدَلٌ مِنْهُ بِإِذْنِ كَالِاسْمِ، خَبْرٌ مَحْذُوفٌ هُوَ مَوْجُودٌ، لَا إِسْمَ وَخَبْرٌ سَعْدٌ مَلِكٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ، أَنَّ بِالِاسْمِ وَخَبْرٌ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْفِائِضِ أَصْلٌ فِيهِ بِأَنَّ هُوَ، بِجَرِّ جَارٍ بِجَرُّورٍ نُوحِيٌّ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقِينَ مَعْلًا مَنْصُوبٌ وَرَسُولٌ كَا حَالِ هُوَ، ذُو الْحَالِ بِحَالٍ مَعْلًا مَنْصُوبٌ أَرْسَلْنَا كَا مَفْعُولِ بِهِ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَانَفَةٌ هُوَ فَاءٌ نَصِيحَةٌ اَوْرَاسِ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ إِنَّ صَدَقْتُمْوَنِي، أُعْبِدُوا فِعْلٌ اِمْرَاؤُ ضَمِيرُ فَاعِلٍ نُونٌ بَرَاءٌ وَتَايَةٌ، يَأْتِي ضَمِيرُ مَفْعُولِ بِهِ، تَيْنُونَ مَلِكٌ جَزَاءٌ هُوَ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِأَجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

آیت نمبر ۲۶: وَإِذِ اسْتَأْنَيْتَهُ مَا نَا فِيهِ قَالُوا فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ ضَمِيرُ فَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ، اتَّخَذَ فِعْلٌ الرَّحْمَنُ فَاعِلٌ وَلَدًا مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، اَوْرَاسِ مَفْعُولِ بِهِ ثَانِيٌّ مَقْدَرٌ هُوَ أَحَدًا، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِينَ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِأَقُولِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَانَفَةٌ هُوَ سُبْحٰنَهُ مَرْكَبِ اِضْطِائِيٍّ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ نُسْبِجٌ كَا مَفْعُولِ مَطْلُقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِ مَطْلُقٌ جَمْلَةٌ مَعْرُضَةٌ هُوَ بَلْ حَرْفِ اِضْرَابِ عِبَادٌ مَوْصُوفٌ مُّكْرَمُونَ اِسْمِ مَفْعُولِ هُوَ ضَمِيرُ مَسْتَرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ سَعْدٌ مَلِكٌ جَزَاءٌ هُوَ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ، مَوْصُوفٌ مَبْدَأٌ مَحْذُوفٌ هُوَ كِي خَبْرٌ هُوَ، مَبْدَأٌ بِأَخْبَرِ جَمْلَةٍ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

آیت نمبر ۲۷: لَا يَسْبِقُونُ فِعْلٌ وَهُوَ ضَمِيرُ فَاعِلٍ هُوَ ضَمِيرُ مَفْعُولِ بِهِ بِالْقَوْلِ جَارٌ بِجَرُّورٍ ظَرْفٌ مَسْتَرٌ مَتَّابِتِسِينِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرٌ يَسْبِقُونَ كِي ضَمِيرُ فَاعِلٌ سَعْدٌ مَلِكٌ جَزَاءٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَ عَاطِفٌ هُوَ ضَمِيرُ مَبْدَأٌ، بِأَمْرِهِ جَارٌ بِجَرُّورٍ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ هُوَ يَسْبِقُونَ فِعْلٌ وَهُوَ ضَمِيرُ فَاعِلٍ وَ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعْدٌ مَلِكٌ جَزَاءٌ هُوَ، مَبْدَأٌ بِأَخْبَرِ جَمْلَةٍ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفِ جَمْلَةٍ مَتَانَفَةٌ هُوَ اِيَّاهُمْ مَحْذُوفٌ كِي خَبْرٌ ثَانِيٌّ هُوَ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

آیت نمبر ۲۸: يَعْلَمُ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ مَا مَوْصُولٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَرْكَبِ اِضْطِائِيٍّ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتٌ كَا مَفْعُولِ فِيهِ هُوَ كَرِصَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِأَصْلِهِ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَ عَاطِفٌ مَا مَوْصُولٌ خَلْفَهُمْ مَرْكَبِ اِضْطِائِيٍّ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتٌ كَا مَفْعُولِ فِيهِ هُوَ كَرِصَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِأَصْلِهِ مَعْرُوفٌ، مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفِ مَفْعُولِ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِ بِهِ جَمْلَةٌ مَطَّلَةٌ هُوَ يَجْمَعُ مَعْرُضَةٌ هُوَ وَوَ عَاطِفٌ لَا يَشْفَعُونَ فِعْلٌ وَهُوَ ضَمِيرُ فَاعِلٍ إِلَّا حَرْفِ اسْتِئْثَاءٍ مِنْ اِسْمِ مَوْصُولِ ارْتَضَى فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ يَدُونَ مَلِكٌ كَرِصَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِأَصْلِهِ جَرُّورٍ، جَارٌ بِجَرُّورٍ ظَرْفٌ لَوْ لَا يَشْفَعُونَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَ عَاطِفٌ هُوَ ضَمِيرُ مَبْدَأٌ، مِنْ حَرْفِ جَارٍ خَشْيَتِهِ مَرْكَبِ اِضْطِائِيٍّ جَرُّورٍ، جَارٌ بِجَرُّورٍ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ هُوَ، مُشْفِقُونَ اِسْمِ فَاعِلٍ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ، اِسْمِ فَاعِلٍ بِأَفَاعِلٍ وَ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعْدٌ مَلِكٌ جَزَاءٌ هُوَ، مَبْدَأٌ بِأَخْبَرِ جَمْلَةٍ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ

معطوف، معطوف علیہ با معطوف هُمْ بِأَمْرِهِمْ معطوف ہے۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي

الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ، يَقُلْ فعل هو مستتر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم الہ موصوف مِنْ دُونِهِ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ ذلک اسم اشارہ مبتدأ، نَجْزِيْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل و ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ جَهَنَّمَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ هُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِمْ معطوف ہے۔ کَذَلِكَ جار باجور در ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جزاء کے مفعول مطلق مقدم نَجْزِيْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل الظَّالِمِينَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ

الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: همزة حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَتَفَكَّرُوا، (روح المعانی) لَمْ يَرَ فعل الَّذِينَ كَفَرُوا و اوصول باصلہ فاعل اَنَّ حرف تحقیق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ با معطوف اسم کائنتا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم رَتْقًا مصدر خبر ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ فَفَتَقْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لَمْ يَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ محذوف، با معطوف جملہ متنازع ہوں واو استینافیہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل مِنَ الْمَاءِ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر حال مقدم کُلِّ مضاف شَيْءٍ حَيٍّ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہے، اور علامہ آلوسی کے نزدیک اَنَّ السَّمَوَاتِ معطوف ہے۔ همزة حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے يَعْلَمُونَ ذلک، (روح المعانی) لَا يُؤْمِنُونَ فعل باو ا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازع ہوں۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم رَوَاسِيًّ مفعول بہ اول مؤخر، اَنَّ حرف مصدری و نصب تَمِيدَ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل بِهِمْ جار باجور در ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر بتاویل

مصدر بواسطہ مضاف محذوف گواہت کے مفعول لہ، فعل بافاعل ومفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فیہا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم فِجَا جَا مبدل منہ سُبُلًا بدل، مبدل منہ بابتل مفعول بہ اول، وخر، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ دوسرے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ لَعَلَّ حرف ترجیحی ہُمُ ضمیر اس کا اسم یَقْتَدُونَ فعل باو ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ مُطَّلَب ہے یا رَاجِحٌ اِهْتَدَا اَتَهُمْ کی تاویل میں ہو کر جَعَلْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل السَّمَاءَ مفعول بہ اول سَقْفًا مَحْفُوظًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ تیسرے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ واو استینا نہ ہُمُ ضمیر مبتدا، عَنْ حرف جار ایتھا مرکب اضافی باجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُعْرِضُونَ اسم فاعل ہُمُ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استینا نہ ہُو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یہ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوا۔ كُلٌّ مبتدا، فِي فَلَكٍ ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَسْبَحُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ الشمس وغیرہ سے حال ہے یا جملہ مستانہ ہے (روح المعانی)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَأَن مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واو استینا نہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لام حرف جار بَشَرٍ موصوف من قَبْلِكَ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت باجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم الْخُلْدَ مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و متعلقین جملہ مستانہ ہوں۔ هَمْزہ حرف استفہام فَاہ استینا نہ (محمود صانی) اِنْ حرف شرط مَّتَّ فعل تاء مفتوحہ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاہ جزائیہ ہُمُ ضمیر مبتدا، الْخَالِدُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبَلُّوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاللَّيْنَاتُ تَرَجَعُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: كُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی مبتدا، ذَائِقَةُ الْمَوْتِ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطَّلَب ہوں۔ واو عاطفہ یا استینا نہ نَبَلُّوْا فعل نَحْنُ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، باء جار الشَّرِّ وَالْخَيْرِ معطوف علیہ با معطوف باجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے فِتْنَةً مفعول لہ ہے، یا اسم فاعل کے معنی میں ہو کر نَبَلُّوْا کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا مِنْ غَيْرِ لَقِيْهِ مفعول مطلق ہے (روح المعانی) فعل بافاعل متعلق ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہے یا كُلُّ نَفْسٍ پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ الْيَتَامَى جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے،

تُزَجُّوْنَ فعل مجہول ثم ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تَبَلُّوْكُمْ مِعْطُوف ہے۔

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ

يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ⑤

آیت نمبر ۳۶: واؤ استینا فیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہر ای فعل کاف ضمیر مفعول بہ الذین کفروا موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے، ان نافیہ یَتَّخِذُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بہ اول، الا حرف استثناء ہُوَ و مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ہمزہ حرف استفہام ہَذَا اسم اشارہ مبتدأ، الَّذِی اسم موصول یَذْكُرُ فعل ہو مستتر فاعل الہتکم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یَقُولُونَ محذوف کا مقولہ ہو کر یَتَّخِذُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ واؤ حالیہ ہُمْ مبتدأ، بناء جارہ یَذْكُرِ الرَّحْمَنِ مرکب اضافی مجرور، جار باخبر و کَفَرُونَ کے متعلق مقدم ہُمْ ضمیر پہلی ہُمْ ضمیر کی تاکید ہے، کَفَرُونَ اسم فاعل ہُمْ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر یَقُولُونَ محذوف کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا یَتَّخِذُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون ⑥

آیت نمبر ۳۷: خُلِقَ فعل مجہول الْإِنْسَانُ ذوالحال مِنْ عَجَلٍ جار باخبر و طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہولسین علامت فعل، اُورِی فعل انا مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ اول آيَاتِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ متانفہ ہوا۔ فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئًا، لَا تَسْتَعْجِلُوا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ تخفیف کی وجہ سے یا فاصلہ کی رعایت کی مناسبت سے محذوف یا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑦

آیت نمبر ۳۸: واؤ استینا فیہ یَقُولُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول متقی استفہامیہ کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم هَذَا الْوَعْدُ مرکب توصیفی مبدل منہ بادل یا مین باعطف بیان مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے۔ اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم صِدِّقِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے فَمَتَى هَذَا الْوَعْدُ جس پر جملہ اولیٰ ہوا ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ⑧

آیت نمبر ۳۹: لو حرف شرط يَعْلَمُ فعل الذین کفروا موصول باصلہ فاعل حین مضاف لای کفون فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْ حرف جار و جُوهِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار باخبر و متعلق ہوئے النَّارَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف

علیہ، واو عاطفہ لازدہ عَنْ ظُهُورِهِمْ عَنْ وُجُوهِهِمْ، معطوف ہے، واو عاطفہ لازدہ هُمْ ضمیر مبتدا، يُنْصَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، بودوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لایکفون پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف حین کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَعْلَمُ کا مفعول بہ ہے، (روح المعانی) فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے، لَمَّا اسْتَعَجَلُوا الْعَذَابِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: بَلْ حرف اضراب و عطف تَأْتِي فعل ہی مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَغْتَةً اسم فاعل کے معنی میں ہو کر حال، یا تَأْتِي کا مفعول مطلق من غیر تظنیہ ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَبْهَتُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَاء عاطفہ لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل واو ضمیر فاعل رَدَّهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازدہ هُمْ ضمیر مبتدا، يُنْظَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَأْتِي کا معطوف ثانی ہے، پھر معطوف علیہ با معطوف لَا يَكْفُونَ پر معطوف ہے (روح المعانی) یا جملہ مستانفہ ہے (محمود صافی)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واو استیثنا فی لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اسْتَهْزَيْتُمْ فعل مجہول هو مستتر نائب فاعل بَاء حرف جار رُسُلٍ موصوف من قَبْلِكُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کَائِنِيَّة کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف لغو اسْتَهْزَيْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ حَاقَ فعل بَاء جار ما الَّذِيْنَ اسم موصول سَخِرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کَائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو حَاقَ کے متعلق ہوئے، مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَسْتَهْزِءُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل با فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ حَاقَ کا فاعل ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ تسمیہ مستانفہ ہوں۔

﴿۳۱﴾ رُكُوعٌ ۴ ﴿۳۲﴾

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: قُلْ فعل امر اِنَّتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، يَكْلُوْكُمْ فعل هو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جرائلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، مِنَ الرَّحْمٰنِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ

مقولہ، قول بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہول بکل حرف اضراب ہُم ضمیر مبتدا، عَنْ حرف جر ذِکْر مضاف رَبِّہُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے مُعْرِضُونَ اسم فاعل ہُم ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتْنَا يُصْحَبُونَ ۝

آیت نمبر ۳۳: اَمْ مَطْلَعُ لَهُمْ جَدِ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَقَرِّ كَائِنَةٌ كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ كَرِخِرٍ مَقْدَمِ الْاِهْتِاقِ مَوْصُوفٍ تَمْنَعُ فِعْلٌ هِيَ مُسْتَرْتَجَةٌ فَاعِلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ تَمْنَعُ لَمْ كَرِجْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَفْعُولِ اَوَّلِيٍّ مِّنْ حَرْفِ جَرِّ دُونَ نَا مَرْكَبٌ اِضْطَائِفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدِ بِمَجْرُورٍ كَائِنَةٌ كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ كَرِجْلَةٍ مَوْصُوفٍ بِاصْفَائِيْنَ مَبْتَدَا مَوْخِرٍ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ هَوْلٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ فِعْلٌ وَاوَّضَمِيرٌ فَاعِلٌ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّعَاطِفَةٌ لِاِبْرَائِيْمَ تَاكِيْدٌ لَفِيٍّ، هُمُ ضَمِيرٌ مَبْتَدَا، مَبْتَدَا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَعُو مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ هُوَ يُصْحَبُونَ فِعْلٌ بِمَجْهُولٍ وَاوَّضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ وَمَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ سَلْ كَرِجْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٍ مُسْتَاثْنَةٍ هَوْلٌ (رُوحِ الْعَالِي) يَا تَمْنَعُ كَيْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ حَالٍ هٖ (مَحْمُود صَالِي)

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۝ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ

نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۝ اَفَهُمُ الْغٰلِبُونَ ۝

آیت نمبر ۳۴: بَلْ حَرْفِ اضْرَابٍ مَتَّعْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هَؤُلَاءِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّعَاطِفَةٌ اِبَاءَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِفِيٌّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهٖ، حَتَّىٰ حَرْفِ غَايَةِ وَجَرِطَالٍ فِعْلٌ عَلَيْهِمْ جَدِ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَعُو مَتَّلَقٍ هُوَ اَلْعُمُرُ فَاعِلٌ، تَمْنَعُ لَمْ كَرِجْلَةٍ مَجْرُورٌ "مَجْرُورٌ، جَدِ بِمَجْرُورٍ مَتَّعْنَا كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهٖ وَمَتَّلَقٍ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ هَوْلٌ هَمْزَةٌ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ فَاوَّعَاطِفَةٌ اَوْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هٖ عَقَلُوا (مَحْمُود صَالِي) لَا يَرَوْنَ فِعْلٌ وَاوَّضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ نَا ضَمِيرٌ اِسْمِ كَا اِسْمٌ نَائِبٌ فِعْلٌ تَحْنُ مُسْتَرْتَجَةٌ فَاعِلٌ الْاَرْضُ مَفْعُولٌ بِهٖ، تَمْنَعُ لَمْ كَرِجْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ هَوْلٌ خَبَرٌ اَنَّ بِاِسْمِ وَخَبَرٍ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَفْعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ اِنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ، پھر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٍ مُسْتَاثْنَةٍ هَوْلٌ لَنْقُصُ فِعْلٌ تَحْنُ مُسْتَرْتَجَةٌ فَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ مِّنْ حَرْفِ جَدِ اَطْرَافِهَا مَرْكَبٌ اِضْطَائِفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدِ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَعُو مَتَّلَقٍ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَّلَقٍ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ نَائِبٌ كَيْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ حَالٍ هٖ۔ هَمْزَةٌ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ فَاوَّعَاطِفَةٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَبْتَدَا، الْغٰلِبُونَ خَبَرٌ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ اِنْشَائِيَّةٍ لَا يَرَوْنَ، مَعْطُوفٌ هٖ۔

قُلْ اِنَّمَا اُنذِرْكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّةُ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذِرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۵: قُلْ فِعْلٌ اِمْرَاَتٌ مُسْتَرْتَجَةٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرِجْلَةٍ اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ كَهَوْنُهُ مَا كَا نَا اُنذِرُ فِعْلٌ مَضْرَعٌ اَنَا مُسْتَرْتَجَةٌ فَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ بِالْوَحْيِ جَدِ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَعُو مَتَّلَقٍ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهٖ وَمَتَّلَقٍ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ اِمْرِيَّةٍ هَوْلٌ وَاوَّ اسْتِثْنَاءٌ لِاَيِّ سَمْعٍ فِعْلٌ الصَّمَّةُ فَاعِلٌ الدُّعَاءُ مَفْعُولٌ بِهٖ اِذَا ظَرْفِ زَمَانٍ مَضْرَعٌ مَا زَلَدَهُ يُنذِرُونَ فِعْلٌ بِمَجْهُولٍ وَاوَّضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ، دُونَ سَلْ كَرِجْلَةٍ مَضْرَعٌ عَلَيْهِ، پھر مَرْكَبٌ اِضْطَائِفِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مُسْتَاثْنَةٍ هَوْلٌ

وَلَيْنُ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واؤ استینا فی لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط مسست فعل ہُم ضمیر مفعول بہ نَفْحَةٌ موصوف بہ من حرف جر عذاب ربک مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لام جوابیہ یَقُولُنَّ فعل واؤ محذوفہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یَٰوَيْلَنَا جملہ فعلیہ انتہائیہ معترضہ ہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کی ترکیب آیت نمبر ۳۴ میں گزر چکی ہے اور یہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جواب قسم، اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، قسم با جواب قسم جملہ انتہائیہ قسمیہ ہو۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واؤ استینا فی نَضَعُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمَوَازِينَ موصوف الْقِسْطَ بواسطہ مضاف محذوف ذوات کے صفت ہے، موصوف با صفت مفعول بہ، لام حرف جر یَوْمِ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ لَا تُظْلَمُ فعل مجہول نَفْسُ نائب فاعل شَيْئًا مفعول بہ ہے، یا بواسطہ موصوف محذوف ظَلَمْنَا کے مفعول مطلق ہے (روح المعانی) فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

واؤ استینا فی ان حرف شرط کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مِثْقَالَ حَبَّةٍ مرکب اضافی موصوف مِنْ خَرْدَلٍ جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، اَتَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل بِهَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر نَضَعُ پر معطوف ہے۔ واؤ استینا فی کفٰی فعل بناء حرف جر ذلک ناقص ضمیر لفظا مجرور محلا مر فور ذوالحال حَٰسِبِينَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۸، ۳۹: واؤ استینا فی لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَتَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل مَوْسَىٰ وَ هَارُونَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اِذْ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ ثانی، لام حرف جر الْمُتَّقِينَ موصوف الَّذِينَ اسم موصول يَخْشَوْنَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال بِالْغَيْبِ جار با مجرور ظرف مستقر مُتَّقِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، مِنَ السَّاعَةِ جار با مجرور متعلق مقدم مُشْفِقُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ الْمُتَّقِينَ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ذِكْرًا کے متعلق ہے اَتَيْنَا فعل با فاعل

و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ متناظر ہوں۔
و هَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

آیت نمبر ۵۰: واؤ استینا فی ہذا اسم اشدہ مبتدا، ذِکْرٌ موصوف مُبْرَكٌ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صفت اولیٰ، اَنْزَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین ہَذَا کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ اَنْزَلْنَاهُ ہَذَا کی خبر ثانی ہو (روح المعانی) ہمزة حرف استفہام فاؤ استینا فی اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، لہٰ جاد با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم مُنْكَرُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متناظر ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۵ ﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۱: واؤ استینا فی لامر موطئہ للقسم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَتَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اِبْرَاهِيمَ مفعول بہ اول رُشْدَهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، مِن قَبْلُ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کُنَّا فعل ناقص ضمیر اس کا اسم بہ جاد با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَلِيمِينَ اسم فاعل کُنَّا مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور کُنَّا بہ عَلِيمِينَ کو اِبْرَاهِيمَ سے حال بنانا بھی درست ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ۝

آیت نمبر ۵۲: اِذْ ظرف زمان مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لامر حرف جرائدہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قَوْمِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، معاً استفہامیہ مبتدا، هَذِهِ اسم اشدہ موصوف التَّمَاثِيلُ پھر موصوف الَّتِي اسم موصول اَنْتُمْ مبتدا، لَهَا جاد با مجرور متعلق مقدم ہوئے عِقْفُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول با صلہ اَنْتُمْ کی خبر، مبتدا با خبر التَّمَاثِيلُ کی صفت، موصوف با صفت هَذِهِ کی صفت، پھر مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَتَيْنَا کا یا عَلِيمِينَ کا مفعول فیہ ہے۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِدِينَ ۝

آیت نمبر ۵۳: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَجَدْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اَبَاءَنَا مرکب اضافی مفعول بہ اول لَهَا جاد با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عِبِدِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین عِبَادٌ منصوب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، لام موطئہ للقسم اور قسم مقدر ہے، قَدْ علامت فعل، كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر ہمزہ مؤکداً اَنْتُمْ ضمیر تاکید، مؤکد ہا تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف كُنْتُمْ کلام، فی حرف جر ضلٰلٍ مُّبِيْنٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّٰعِيْنَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: قَالُوْا فعل داؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام جِئْت فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بِالْحَقِّ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عاطفہ اَنْتَ ضمیر مبتدأ، مِنَ اللَّٰعِيْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ مِثْلَ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ

الشَّٰهِدِيْنَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، بَلْ حرف اضراب رَبُّكُمْ مرکب اضافی مبتدأ، رَبُّ مضاف السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی موصوف الَّذِيْ اسم موصول فَطَرَ فعل ہو مستتر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر سلم، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَا ضمیر مبتدأ، عَلٰى ذٰلِكُمْ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے مِنَ حرف جر الشَّٰهِدِيْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متناہی ہوں۔

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَانَ اَصْنٰمِكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: واو عاطفہ تَاللّٰهِ جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اُقْسِمُ کے، اُقْسِمُ فعل اَنَا مستتر فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لام جوابیہ اَكَيْدَانَ فعل اَنَا مستتر فاعل اَصْنٰمِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَعْدَ مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب تُوَلُّوْا فعل واو ضمیر ذوالحال مُدْبِرِيْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَكَيْدَانَ کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ رَبُّكُمْ معطوف ہے۔

فَجَعَلَهُمْ جُذُءًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: فَاءِ نَصِيحَةٍ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا تَوَلَّوْا وَأَنْتُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ الْأَصْنَامَ (نصیر) جَعَلَ فاعِلٌ هُوَ مستتر فاعِلٌ هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلٌ، جُذُودًا مَشْتَقِيٌّ مِنْهُ، الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ كَيْدِيًّا مَوْصُوفٌ لَهُمْ كَاتِبَاتُكَ متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت بواسطہ موصوف محذوف صَمْتًا کے مشتق، مشتقِ مِنْهُ بِأَسْمَانٍ مفعول بہ ثانی، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ لَعَلَّ حرف ترحی ہُمْ ضمیر اس کا اسمِ الْيَوْمِ جاد باجور متعلق مقدم ہوئے يَزُجُّونَ فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ فاعِلٌ، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و متعلق مقدم خبر، لَعَلَّ بِأَسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مُطْلَبٌ ہوا۔ یا راجعی زُجُّوْا عَنْهُمْ کی تاویل میں ہو کر جَعَلَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۹: قَالُوا فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ کر قول، مَنْ اسْتِفْهَامِيَّةٌ مبتدأ، فَعَلَ فاعِلٌ هُوَ مستتر فاعِلٌ هَذَا عَلَمًا منصوب مفعول بہ، بَاءٌ حرف جِزْمٍ اسْتِثْنَاءٌ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَجْرُورٌ، جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول بِأَقْوَلِهِ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف تَحْقِيْقٍ ضمیر اس کا اسمِ لَا مَذْهَبٌ مِنْ الظَّالِمِينَ جاد باجور كَاتِبَاتُكَ کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ بِأَسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

قَالُوا سَبِعْنَا فَتَى يَدُوكُمْ هُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ ۝

آیت نمبر ۶۰: قَالُوا فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ کر قول، سَبِعْنَا فاعِلٌ نَا ضَمِيْرٌ فاعِلٌ فَتَى مَوْصُوفٌ يَدُوكُمْ فاعِلٌ هُمْ ضمیر مستتر فاعِلٌ هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر فَتَى کی صفت اولیٰ، يُقَالُ فاعِلٌ مَجْهُولٌ لَهُ جاد باجور متعلق ہوئے اِبْرَاهِيمُ تَائِبٌ فاعِلٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف بہ صَمْتِيْنَ سَبِعْنَا كَامْفَعُولٍ بہ، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول بِأَقْوَلِهِ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

آیت نمبر ۶۱: قَالُوا فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، فَاءِ نَصِيحَةٍ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ كَانَ هُوَ يَا اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، اَتُّوا فاعِلٌ اَمْرٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ، عَلَيَّ حَرْفٌ جِزْمٌ وَاوْضَاعِيٌّ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَجْرُورٌ، جاد باجور دَرَكَا هُوَا کے متعلق ہو کر حال مَذْهُولٌ بِالْحَالِ مَجْرُورٌ، جاد باجور متعلق ہوئے، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف ہا جزاء مقولہ، قول بِأَقْوَلِهِ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لَعَلَّ حرف تَرَجِيٍّ هُمْ ضمیر اس کا اسمِ يَشْهَدُونَ فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لَعَلَّ بِأَسْمٍ و خبر جملہ مُطْلَبٌ ہے۔ یا راجعی شَهِدُوْا لَهُمْ کی تاویل میں ہو کر فَاتُّوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ ۝

آیت نمبر ۶۲: قَالُوا فاعِلٌ وَاوْضَاعِيٌّ مفعول بہ اولیٰ کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَمْزَةٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَنْتَ ضمیر مبتدأ، فَعَلْتَ فاعِلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ضمیر فاعِلٌ هَذَا مفعول بہ، بِالْهَيْتِنَا جاد باجور متعلق ہوئے، فاعِلٌ بِأَفَاعِلٍ و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ أَنْتَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جوابِ مَدَّاهُ مَقْدَمٌ، يَا اِبْرَاهِيمُ مَدَّاهُ مَوْخَرٌ، مَدَّاهُ بِأَجْوَابِ مَدَّاهُ مَقْدَمٌ، قول بِأَقْوَلِهِ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ بَلْ فَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَعَلُوهُمْ أَنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: قَالَ بَلْ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سے مل کر قول، بَلْ حرف اضرابِ فَعَلْ نعل، ضمیر مفعول بہ کَبِيرُهُمْ مرکب اضافی موصوف یا سبب منہ، هَذَا صفت یا بدل، موصوف با صفت فاعل، نعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا فقَاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اسَعَلُوا نعل امر واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے فَسَعَلُوهُمْ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: فقَاء استینا فیہ یا نصیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا تَدَبَّرُوا (فقیر) رَجَعُوا نعل واو ضمیر فاعل اِلَىٰ حرف جر اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، نعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقَاء عاطفہ قَالُوا نعل با واو ضمیر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، الظَّالِمُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ رَجَعُوا معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوا یا شرط محذوف کی جزاء ہے۔

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُمْ بِأَعْيُنِنَا ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: ثُمَّ عاطفہ نَكِسُوا نعل مجہول واو ضمیر ذوالحال باحال عَلِي حرف جر رُءُوسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نَائِبِ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوا پر معطوف ہے۔ لَامٌ موطئہ للتقسیم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت نعل، عَلِمْتُمْ فعل ثناء مفتوحہ ضمیر فاعل مَا نَا فِي هُوَ لَامٌ مبتدا، يَنْطِقُونَ نعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ عَلِمْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، نعل با فاعل و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم قول محذوف کا مقولہ ہو کر نَكِسُوا کی ضمیر نَائِبِ فاعل سے حال ہے۔

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۶: قَالَ نعل هُوَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَمْزٌ حرف استفہام فقَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تَعْلَمُونَ ذَلِك (روح المعانی) تَعْبُدُونَ نعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کائِنَاتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَا اسم موصول لَا يَنْفَعُ نعل هُوَ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ شَيْئًا بواسطة موصوف محذوف نَفَعَا کے مفعول مطلق، نعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَضُرُّ نعل هُوَ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، نعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال تَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، نعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

أَفِي لَكُمْ وَلِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: اَفِي اسم نعل بمعنی اَنْصَجَرُوْا اَنَا مستتر فاعل لَكُمْ جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لَامٌ جارہ ما موصول

تَعْبُدُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل ضمیر منصوب محذوف ذوالحال من دون اللہ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم فعل کے متعلق ہوئے، اسم فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوا۔ ہمزة حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے (روح المعانی) لَا تَعْقِلُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ انشائیہ ہوا۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل بدوئوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، حَرِّقُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ انصُرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الہتکم مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل بدوئوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے انصُرُوا آلہتکم، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، دوئوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف ندا اذْعُوْ کے قائم مقام، اذْعُوْ فعل آنا ضمیر فاعل، ناؤ محلا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، کُونِي فعل امر ناقص یاء ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم یَزِدًا معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سَلَامًا مصدر علیٰ اِبْرٰہِیْمَ اس کے متعلق، یا کائنات کے متعلق ہو کر سَلَامًا کی صفت، پھر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا با جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

www.kitabosunnat.com

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۷۰﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۷۱﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۷۲﴾

آیت نمبر ۷۰، ۷۱، ۷۲: وَأَرَادُوا فعل واؤ استینا فیہ آرَادُوا فعل واؤ ضمیر فاعل بہ جار باجور متعلق ہوئے کَيْدًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ جَعَلْنَاهُمْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، الْأَخْسَرِينَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ نَجَّيْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل ضمیر منصوب معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لُوطًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اِلَى حرف جِا لَآرِضِ موصوف الَّتِي اسم موصول بَرَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل فِيْهَا جار باجور متعلق اول ہوئے لِلْعَالَمِينَ جار باجور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجور ظرف لُوطًا جَعَلْنَاهُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ وَهَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَہْ جار باجور متعلق ہوئے اِسْحَاقَ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَعْقُوبَ ذوالحال نَافِلَةً حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف وَهَبْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آرَادُوا کا معطوف ثالث ہے، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث جملہ مستانہ ہوا۔ واؤ عاطفہ كُلًّا مفعول بہ مقدم جَعَلْنَاهُمْ فعل نا ضمیر فاعل صَالِحِينَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ وَهَبْنَا پر معطوف ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴۳﴾

آیت نمبر ۴۳: واؤ عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اِوَل، آيَةً موصوف يَهْدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بَاء حرف جر اَمْرِنَا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغوی يَهْدُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آيَةً کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ مانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ پہلے جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔ واؤ عاطفہ اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَيْهِمْ جار با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے فِعْلَ الْخَيْرَاتِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِقَامَ الصَّلَاةِ مرکب اضافی معطوف اَوَل، واؤ عاطفہ اِيتَاءَ الزَّكَاةِ مرکب اضافی معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین اَوْحَيْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔ واؤ عاطفہ كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم، لَنَا جار با مجرور متعلق مقدم عِبْدِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔

وَلَوْ كُنَّا آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: واؤ استینا فیہ لَوْ كُنَّا مفعول بہ فعل محذوف آتَيْنَا، آتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَقْسَر، آتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَل، حُكْمًا وَعِلْمًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ مانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَقْسَر، پھر مَقْسَر با مَقْسَر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ نَجَّيْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مین حرف جر الْقَرْيَةِ موصوف الَّتِي اسم موصول كَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُ فعل ہی مستتر فاعل الْخَبِيثَاتِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الْقَرْيَةِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور و نَجَّيْنَاهُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوا۔

اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم قَوْمَ سَوْءٍ مرکب اضافی خبر اَوَل فَسِيقِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر مانی، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ کی تعلیل ہے اور عند البعض نَجَّيْنَاهُ کی تعلیل ہے، پہلی صورت راجح ہے۔ (روح المعانی)

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: واؤ عاطفہ اَدْخَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی حرف جر رَحْمَتِنَا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر و لَوْ كُنَّا آتَيْنَاهُ پر معطوف ہے اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم موصول الصَّالِحِينَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَبہ ہوا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۷۱﴾

آیت نمبر ۷۱: واوستینا فیہ نُوحًا مفعول بہ ہے فعل مخذوف اذ کوز کا، اذ ظرف زمان مضاف نادى فعل ہو مستتر فاعل من قَبْلُ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اسْتَجَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لہ جار باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ نَجَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَهْلَهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَجَّيْنَا کا مفعول بہ، من حرف جر الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مرکب توصیفی مجرد، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذ کا مضاف الیہ، مرکب اضافی نُوحًا سے بدل ہے (روح المعانی) مبدل منہ بادل نُوحًا مفعول بہ۔ یا فعل مخذوف اذ کوز کا مفعول بہ ہے۔

وَنَصْرُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۷۲﴾

آیت نمبر ۷۲: واو عاطفہ نَصْرُنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ من حرف جر الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اسم موصول كَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل بِالْآيَاتِنَا جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصله الْقَوْمِ کی صفت، موصوف بہ صفت مجرد، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ نَجَّيْنَا ہ مفعول بہ ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم قَوْمَ سَوْءٍ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص ہ اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَغْرَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مؤکد اَجْمَعِينَ تاکید، مؤکد ہ تاکید مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر ان ہ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں (روح المعانی)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

شَهِدِينَ ﴿۷۳﴾

آیت نمبر ۷۳: واوستینا فیہ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ہے فعل مخذوف اذ کوز کا، اذ ظرف زمان مضاف يَحْكُمْنَ فعل الف ضمیر فاعل فِي الْحَرْثِ جار باجرور متعلق ہوئے اذ ظرف زمان مضاف نَفَسَتْ فعل فِيهِ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے غَنَمُ الْقَوْمِ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی يَحْكُمْنَ کا مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مصدر مخذوف کا مفعول فیہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حَبْرٌ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ہے (روح المعانی) واو اعتراضیہ كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم لِحُكْمِهِمْ جار باجرور شَهِدِينَ کے متعلق مقدم ہوئے شَهِدِينَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہ اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں (روح المعانی)

فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ

الطَّيْرَ طَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۷۴﴾

آیت نمبر ۷۴: فاء عاطفہ فَهَّمْنَا فعل نا ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ اول سُلَيْمَانَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ

خبر یہ یخسبہ معطوف ہے۔ واو عاطفہ کلا مفعول بہ مقدم اکتینا فعل نا ضمیر فاعل حکمنا وعلما معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ فقہنہا پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ سخرنا فعل نا ضمیر فاعل مع داؤد مرکب اضافی سخرنا کا مفعول فیہ (روح المعانی) الجبال ذوالحال لستین فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل واو بمعنی مع الظیر مفعول معہ، فعل با فاعل و مفعول معہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال با حال سخرنا کا مفعول بہ ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ فقہنہا پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ حکمنا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم فاعل نحن مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ سخرنا پر معطوف ہے۔ اور اگر یہ واو حالیہ ہو تو سخرنا کی ضمیر فاعل سے حال ہے

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واو عاطفہ عَلَّمْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ صَنْعَةَ مضاف لبوس موصوف لکم جار با مجرور ظرف مستقر کائنیہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، لاہ حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّم ہے تُحْصِنُ فعل ہی ضمیر فاعل، کُم ضمیر مفعول بہ مین حرف جر بآسکم مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بنا و مل مصدر مجرور، جار با مجرور لکم سے بدل ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سخرنا پر معطوف ہے۔ فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے ان فعلنا لکم ذلک، هل حرف استفہام انتم مبتدا شکرون اسم فاعل انکم ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: واو عاطفہ لِسُلَيْمَانَ جار با مجرور سخرنا محذوف کے متعلق ہوئے الرِّيحَ ذوالحال عاصِفَةً موصوف تَجْرِي فعل ہی مستتر فاعل بِأَمْرِهَا جار با مجرور متعلق ہوئے اِلَى حرف جر الْأَرْضِ موصوف الَّتِي اسم موصول بِرَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل فِيهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الْأَرْضِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور تَجْرِي کے متعلق ثانی ہوئے، تَجْرِي فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ عاصِفَةً کی صفت، موصوف با صفت حال، ذوالحال با حال سخرنا محذوف کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے سخرنا پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم بناء حرف جر كُنَّا موصوف موصوف بہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَلِيمِينَ اسم فاعل نحن مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ سخرنا پر معطوف ہے۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَخُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِيظِينَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: واو عاطفہ مِنَ الشَّيْطَانِ ظرف مستقر كائين کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنَ اسم موصول يَخُوضُونَ فعل واو ضمیر فاعل لَهُ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ يَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَمَلًا موصوف

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: واو عاطفہ اَدْخَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی حرف جر رَحْمَتِنَا مرکب اضافی مجرور، جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ محذوف ہے اَعْطَيْنَا هُمْ ثَوَابَ الصَّالِحِينَ (محمود صائی) اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم مِنَ الصَّالِحِينَ جار باجورد طرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہوں۔

وَإِذِ التَّنُورُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: واو استینافیہ اذِ التَّنُورِ یہ اصل میں خَبَرُ اذِ التَّنُورِ ہے پھر یہ مرکب اضافی ہو کر فعل محذوف اذِ كَرَّ كَمَا مَفْعُولِ بہ ہے اذِ ظرف زمان مضاف ذَهَبَ فعل ہو مسترز و الحال مُغَاضِبًا اسم فاعل ہو مسترز فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ظَنَّ فعل ہو مسترز فاعل اَنْ مخفف من الضمیر شان مقدر اس کا اسم لَنْ نَقْدِرَ فعل نَحْنُ مسترز فاعل عَلَيْهِ جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر ظَنَّ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ نَادَى فعل ہو مسترز و الحال فِي الظُّلُمَاتِ جار باجورد كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اَنْ مخفف من الضمیر شان محذوف اس کا اسم لَا نَفِي جِنْسِ اِلَهٍ مَبْدَلٍ مِنْهُ اِلَّا حرف استثناء اَنْتَ اِلَهٍ کے محل سے بدل ہے، مبدل منہ بادل لاکا اسم ہے، اور خبر محذوف ہے هُوَ جَوْدٌ، لاپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حرف جر محذوف کا مجرور، جار باجورد نَادَى کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذِ كَمَا مَفْعُولِ اِلَيْهِ، مضاف با مضاف اِلَيْهِ خَبَرُ مصدر مضاف محذوف کا مفعول فیہ ہے سُبْحَانَكَ مرکب اضافی فعل محذوف نُسَبِّحُ کا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ معترضہ دعائیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق يَا هُمْ ضمیر اس کا اسم كُنْتُ فعل ناقص تَا هُمْ مضمومہ ضمیر اس کا اسم مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہوں۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَةِ ط وَكَذَلِكَ نُصَيِّبُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: فاء عاطفہ اَسْتَجَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُ جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَجَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ الْعَمَةِ جار باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَادَى پر معطوف ہے۔ واو استینافیہ كَذَلِكَ جار باجورد طرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَنْجِيَةٍ کے مفعول مطلق مقدم ہے۔ نُصَيِّبُ فعل نَحْنُ مسترز فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: واواستینا نیر زکریا اصل میں خَبَرُ زَكْرِيَّا ہے اور یہ فعل محذوف اذْکُرُ کا مفعول بہ ہے اذْکُرُ طرف زمان مضاف نَادِی فعل ہو مستتر فاعل رَبِّہُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خَبَرُ مصدر مضاف کا مفعول فیہ ہے، رب یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے، لَا تَذَرُ فعل نئی اَنْتَ مستتر فاعل نون و قایہ کا، یَاءَ ضمیر ذوالحال فَرَدَا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ جواب نداء، نداء باجواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر فعل نداء کی تفسیر ہے۔ یَا قَابِلًا محذوف کا مقولہ ہو کر نَادِی کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اِنْ لَمْ تَزِدْ قَبِيْ وَ لَدَا یَرِثُنِیْ، اَنْتَ مبتداء، خَبَرُ الْوَرِثِیْنَ مرکب اضافی خبر، مبتداء باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط اور جزاء محذوف ہے فَحَسْبِیْ اَنْتَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ هَبْنَا لَهُ یَحْیٰی وَ اَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِ عُوْنَ فِی

الْخَيْرَاتِ وَ یَدْعُوْنَآرْغَبًا وَ رَهْبًا وَ كَانُوْا النَّآخِشِعِیْنَ ۹۰

آیت نمبر ۹۰: فقاء عاطفہ اَسْتَجَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لہُ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَ هَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لہُ جار باجور متعلق ہوئے یَحْیٰی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ اَصْلَحْنَا فعل نا ضمیر فاعل لہُ جار باجور متعلق ہوئے زَوْجَهُ مرکب اضافی مفعول بہ فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نَادِی بہ معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یُسْرِ عُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل فِی الْخَيْرَاتِ جار باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَدْعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ رَهْبًا وَ رَهْبًا معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف کَانُوْا کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔ واو عاطفہ کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم لَنَا جار باجور متعلق مقدم ہوئے لُحْشِعِیْنَ اسم فاعل اس میں هُمْ ضمیر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر کَانُوْا کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کَانُوْا اِسْمَارِ عُوْنَ پر معطوف ہے۔

وَ الَّتِیْ اٰخَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۹۱

آیت نمبر ۹۱: واواستینا نیر الَّتِیْ اسم موصول اٰخَصَّنَتْ فعل ہی مستتر فاعل فَجَّهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ نَفَخْنَا فعل نا ضمیر فاعل فِیْهَا جار باجور متعلق ہوئے مِنْ حرف جر رُّوْحِنَا مرکب اضافی مجرور، جار باجور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هَا ضمیر منصوب معطوف علیہ، واو عاطفہ اِبْنَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اول اٰیَةً موصوفہ لِّلْعٰلَمِیْنَ جار باجور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اذْکُرُ کا، اذْکُرُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲: اِن حرف تحقیق ہذا اسم اشارہ اس کا اسم اُمَّتُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال اُمَّةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی حال، ذوالحال باحال خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَا ضمیر مبتدا، رَبُّكُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔ فاء نصیرہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِن اُمَّتُكُمْ فِی الْعِبَادَةِ وَ الْفِعْلِ امر واو ضمیر قائل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واو استینا فیہ تَقَطَّعُوا فِعْلٌ واو ضمیر قائل اَمْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔ کُلُّ مبتدا، اِلٰهِنَا جاد با مجرور متعلق ہونے لَیَرْجِعُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۷ ●

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: فاء تفصیلیہ (روح المعانی) مَنْ اسم شرط مبتدا، يَعْمَلُ فِعْلٌ هُوَ مستتر ذوالحال، واو حالیہ هُوَ مُؤْمِنٌ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل مِنَ الصَّالِحَاتِ جاد با مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لَانْفِیْ جِنْسِ كُفْرَانَ اس کا اسم، لام حرف جر سَعْيِهِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور طرف مستقر کَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِن حرف تحقیق اَنَا ضمیر اس کا اسم لَیْ كَاتِبُونَ طرف لغو متعلق مقدم ہونے كَاتِبُونَ اسم فاعل تَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: واو استینا فیہ حَرَامٌ مصدر علی قَرْيَةٍ اس کے متعلق، دونوں مل کر خبر مقدم اَهْلَكْنَاهَا فِعْلٌ اَنَا ضمیر قائل اَنَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَادِبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ

الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يُؤْيِلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۷﴾

آیت نمبر ۹۷، ۹۷: حَتَّىٰ اِبْتَدَاۤیَہِ اِذَا شَرَطِہِ مَفْعُولٌ فِیہِ مَقْدَمٌ فُتِّحَتْ فَعْلٌ مَجْہُولٌ یَاۤجُوۡجٌ وَّمَا جُوۡجٌ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِہِ بِاِضْطِحَاقِہِ
 ذوالحال، واو عالیہ ہُمْ ضمیر مبتدایہ من حرف جر کئی حد تک مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق مقدم یَنْسِلُوۡنَ فَعْلٌ واو ضمیر فاعل اور
 متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فُتِّحَتْ کَانَ اِسْمٌ فَاعِلٌ، فعل مجہول با نائب
 فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِقْتَرَبَ فَعْلٌ الْوَعْدُ الْحَقُّ مَرْکَبٌ تَوْصِیْفِیٌّ فَاعِلٌ، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، مقام جزائیہ اِذَا مَفَاجِئِہِہِ شَاخِصَةً کَامَفْعُولٍ فِیہِ مَقْدَمٌ ہے ہی ضمیر مبتدایہ شَاخِصَةً اِسْمٌ فَاعِلٌ ہے ہی ضمیر
 فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر مقدم اَبْصَارُ مِضَافٌ اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مَوْصُولٌ بِاصْلِہِ مِضَافٌ اِلَیْہِ، پھر مرکب اضافی مبتدایہ موخر، مبتدایہ
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے ہی کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا لَیُوۡنَ لَیَکُنَّ اِیَّہِہِ عَدَاۤیَہُ اُوۡرُۡجِہِہِ اُوۡرُۡجِہِہِ
 تَعَالَیٰ فَهٰذَا اَوَانٌ حُضُوۡرٌ کَ، عداہ با جواب یَقُوۡلُوۡنَ مَخْرُوفٌ کَامَقْوَلِہِ ہُوۡکَرُ کَفَرُوۡا وَاکِی ضَمِیۡرٌ فَاعِلٌ سے حال ہے۔ قَدْ عَلَامَتٌ فَعْلٌ، کُنَّا فَعْلٌ
 ناقص نا ضمیر اس کا اسم فی حرف جر عَقْلَہِ مَصْدَرٌ مِّنْ هٰذَا جَادٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ، مصدر با متعلق مجرور، جاد با مجرور کَانَیۡنَ کے متعلق ہو کر خبر،
 فعل ناقص ہَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَہِہِ فَعْلِیَہِہِ خَبْرِیَہِہِ مِثْلَہِ ہُوۡ۔ بَلْ حَرْفٌ عَطْفٌ بَرَاءِ اِضْرَابِ کُنَّا فَعْلٌ نَاقِصٌ نَا ضَمِیۡرٌ اِسْمٌ اَلَّذِیۡنَ اَسْمٌ
 فَاعِلٌ نَحْنُ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ مَدْوُوۡنٌ مَلْ کَرِخِرٌ، فعل ناقص ہَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَہِہِ فَعْلِیَہِہِ خَبْرِیَہِہِ مِثْلَہِ ہُوۡ۔

اِنَّکُمْ وَا مَا تَعْبُدُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ حَصَبٌ جَہَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَہَا وَا رِدُوۡنَ ۝۹۸

آیت نمبر ۹۸: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِیۡقِیٌّ کُمْ ضَمِیۡرٌ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِہِ، واو عاطفہ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ تَعْبُدُوۡنَ فَعْلٌ واو ضمیر فاعل ہَا ضَمِیۡرٌ مَنصُوبٌ
 مخدوف ذوالحال مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ جَادٌ بِمَجْرُورٍ طَرَفٌ مَسْتَرٌ کَانَ اِسْمٌ مَتَعَلِّقٌ ہُوۡکَرُ حَالٌ، ذوالحال باحال مَفْعُولٌ بِہِ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ
 خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کَا اِسْمٌ، حَصَبٌ جَہَنَّمَ مَرْکَبٌ اِضْطِحَاقِیٌّ مَبْدَلٌ مِّنْ اَنْتُمْ ضَمِیۡرٌ مَبْتَدَاۤیَہِہِ لَہَا
 جَادٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ وَا رِدُوۡنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ اَنْتُمْ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ با بدل خبر،
 اِنَّ ہَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَہِہِ اِسْمِیَہِہِ خَبْرِیَہِہِ ہُوۡ۔

لَوْ کَانَ هُوۡلَآءِ اِلٰہَۃً مَا وَّرَدُوۡہَا وَا کُلٌّ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۝۹۹

آیت نمبر ۹۹: لَوْ حَرْفٌ شَرْطِیٌّ کَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوۡلَآءِ اِسْمٌ اَللّٰہَہِہِ خَبْرٌ فَعْلٌ نَاقِصٌ ہَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَہِہِ فَعْلِیَہِہِ خَبْرِیَہِہِ شَرْطِیٌّ، مَا
 نافیہ وَا فَعْلٌ واو ضمیر فاعل ہَا ضَمِیۡرٌ مَفْعُولٌ بِہِ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُلٌّ مَبْتَدَاۤیَہِہِ فِیۡہَا جَادٌ بِمَجْرُورٍ طَرَفٌ لَعُوۡ
 متعلق مقدم خَلِدُوۡنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ ہُمْ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ
 با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہُوۡ۔

لَہُمْ فِیۡہَا زَفِیۡرٌ وَا ہُمْ فِیۡہَا لَا یَسْمَعُوۡنَ ۝۱۰۰

آیت نمبر ۱۰۰: لَہُمْ طَرَفٌ مَسْتَرٌ کَانَ کے متعلق ہوئے فِیۡہَا طَرَفٌ لَعُوۡ کَانَ کے متعلق ہوئے، کَانَ اِسْمٌ فَاعِلٌ ہُوۡ مَسْتَرٌ
 و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم زَفِیۡرٌ مَبْتَدَاۤیَہِہِ مَوْخَرٌ، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُمْ ضَمِیۡرٌ مَنفِصِلٌ مَبْتَدَاۤیَہِہِ
 فِیۡہَا طَرَفٌ لَعُوۡ متعلق مقدم ہوئے لَا یَسْمَعُوۡنَ فَعْلٌ واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ

خبر یہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۱، ۱۰۲: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول سَبَقَتْ فعل لَّهُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مِنَّا جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَةَ کے متعلق ہو کر حال مقدم الْحُسْنَىٰ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ إِنَّ کا اسم اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، عَنْهَا جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے مُبْعَدُونَ اسم مفعول هُمْ مشترک نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ إِنَّ کی خبر اَوَّل، لَا يَسْمَعُونَ فعل واو ضمیر فاعل حَسِيسَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی، إِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، فی حرف جر مَا اسم موصول اشْتَهَتْ فعل أَنفُسُهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے خَلِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لَا يَسْمَعُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے (محمود صانی)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقَ الْأَكْبَرُ وَيَتَلَقَّوهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: لَا يَحْزَنُونَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الْفَرَقَ الْأَكْبَرُ مرکب توصیفی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَتَلَقَّوْنَهُمْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الْمَلٰٓئِكَةُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف إِنَّ کی خبر ثالث ہے، یا خَلِدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے هٰذَا اسم اشارہ مبتدأ، يَوْمُكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تُوَعَدُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَوْمُكُمْ کی صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر يَقُولُونَ محذوف کا مقولہ ہو کر تَتَلَقَّوْنَهُمْ کی ضمیر مفعول سے حال ہے یا الْمَلٰٓئِكَةُ سے حال ہے۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۗ وَوَعْدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾

آیت نمبر ۱۰۴: يَوْمَ مضاف نَطْوِي فعل نَحْنُ مشترک فاعل السَّمَاءَ مفعول بہ کاف حرف جر طَيِّ مصدر مضاف السِّجِلِّ مضاف الیہ معنی فاعل لِلْكُتُبِ جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف طَيِّا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی لَا يَحْزَنُونَ کا مفعول فیہ ہے، یا الْفَرَقَ کا مفعول فیہ ہے، یا فعل محذوف اذْكَرُ کا مفعول بہ ہے۔ کاف حرف جر مَا مصدر یہ بَدَأْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اَوَّلَ خَلْقٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَائِنَةَ کے متعلق ہو کر

بواسطہ موصوف محذوف اعادۃ کے مفعول مطلق مقدم نُعِيْدُ فعل نَحْنُ مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں وَعَدَا موصوف عَلَيْنَا ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت فعل محذوف وَعَدْنَا کا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس کا اسم فاعِلین اسم فاعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہَا سَم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ کی خبر اِنَّ ہَا سَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: واو استثنائیہ لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامات فعل كَتَبْنَا فعل نَا ضمیر قائل فی الزَّبُورِ جار باجرور ظرف لغو متعلق اذَل ہوئے، مِنْ حرف جر بَعْدِ الذِّكْرِ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ثانی ہوئے اَنَّ حرف تحقیق الْاَرْضَ اس کا اسم یَرْثُ فعل نَا ضمیر منصوب مفعول بہ عِبَادِيَ مرکب اضافی مرفوع تقدیر موصوف الصَّالِحُونَ صفت، موصوف باصفت يَرْثُ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اَنَّ ہَا سَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر مَعْلًا منصوب كَتَبْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

اِنَّ فِيْ هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: اِنَّ حرف تحقیق فِيْ هَذَا ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم لام مذ حلقہ بَلَاغًا مصدر لام حرف جر قَوْمٍ عٰبِدِيْنَ مرکب توصیفی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق اسم مؤخر، اِنَّ ہَا سَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: واو عاطفہ مَا نَانِيْ اَرْسَلْنَا فعل نَا ضمیر قائل كَا ف ضمیر منصوب ذُو الْاَلْحَالِ، اِلَّا حرف استثناء رَحْمَةً موصوف لِّلْعٰلَمِيْنَ جار باجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مَسْتَوْفٍ مفرغ ہو کر حال بذُو الْاَلْحَالِ باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ هَذَا، معطوف ہے

قُلْ اِنَّمَا يُوْحِيْ اِلَيَّ اِنَّمَا الْهُكْمُ اِلٰهٍ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اِنَّ حرف تحقیق كَفُوْهُ، مَا كَا ف يُوْحِيْ فعل مجہول اِلَيَّ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَنَّ حرف تحقیق مَا كَا ف الْهُكْمُ مرکب اضافی مبتدا، اِلٰهٍ وَّاحِدٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر يُوْحِيْ کا نائب فاعل، فعل مجہول ہَا نَابِ فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں فَآءِ فیسہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ جَاءَكُمْ عَلْمٌ ذٰلِكَ، هَلْ حرف استفہام اَنْتُمْ ضمیر مرفوع مبتدا مُسْلِمُوْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر قائل ہونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنَبْتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ط وَاِنْ اَدْرِيْ اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: فَآءِ استثنائیہ اِنَّ حرف شرط تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر قائل ہونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَآءِ جزائیہ قُلْ فعل امر

اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اَذَلَّتْ نَعْمٌ مضمومہ ضمیر فاعل کُمُ ضمیر مفعول بہ علی سَوَّآءٍ ظرف مستقر کَاثِنَاکَ متعلق ہو کر فاعل یا مفعول سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں اور عاطفہ اِنْ نافیہ اذریٰ فعل اَنَا مستتر فاعل ہَمْزہ حرف استفہام قَرِيبٌ معطوف علیہ، اَمْرٌ حرف عطف یَجِيْدٌ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر مقدم مَآسَمٌ موصول تُوَعِدُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر عملاً منصوب اذریٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَذَلَّتْکُمْ معطوف ہے۔

اِنَّهٗ يَعْلمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: اِنْ حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل الْجَهْرُ ذوالحال، مِنَ الْقَوْلِ ظرف مستقر کَاثِنَاکَ متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَآسَمٌ موصول تَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَ اِنْ اَذْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ اِنْ حرف لَعَلَّ حرف ترجیح، ضمیر اس کا اسم فِتْنَةٌ موصوف لَّكُمْ جار با مجرد ظرف مستقر کَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو عاطفہ مَتَاعٌ موصوف اِلٰى حِيْنٍ ظرف مستقر کَاثِنٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر عملاً منصوب اذریٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے اِنْ کی خبر ہے۔

قُلْ رَبِّ اِحْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَ رَبَّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے، اِحْكُمْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بِالْحَقِّ جار با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ جواب ندا، ندا باجواب ندا، جملہ انشائیہ ندا ہے ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو استینافیہ یا عاطفہ رَبَّنَا مرکب اضافی مبتدأ، الرَّحْمٰنُ خبر اَوَّلِ، الْمُسْتَعٰنُ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل عَلٰى حرف جار مَآسَمٌ موصول تَصِفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، اسم مفعول یا نائب فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، پھر مبتدأ باخبر بن جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا یا مقولہ معطوف ہوں۔

بِحَمْدِهِ تَعَالٰی

۱۵ ذوالحجہ ۱۴۳۸ھ بمطابق ۷۔۹۔۲۰۱۷ء بروز جمعرات المکہ ہوٹل کی بالائی منزل پر سورۃ الانبیاء کی ترکیب لکھنے سے فراغت ہوئی ہے۔

ترکیب سورۃ الحج

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ۝

آیت نمبر ۱: آیہ حرف نمبر آدھو کے قائم مقام، آدھو فعل انما مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تعبیر الناس صفت، موصوف ہا صفت ملامت منسوب مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نمبر، اتقوا فعل واؤ ضمیر فاعل ربکم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جواب نمبر، نمبر ہا جواب جملہ انشائیہ نمبر یہ ہوں۔ ان حرف تحقیق زلزلة الساعة مرکب اضافی ان کا اسم شئیء عظیم مرکب توصیفی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرٰی وَ مَا هُمْ بِسُكَرٰی وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِیْدٌ ۝

آیت نمبر ۲: یوم مضاف ترون فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم برائے تذہل (محمود آلوسی) تذہل فعل کلُّ مُرْضِعَةٍ مرکب اضافی فاعل عن حرف جر ما اسم موصول ارضعت فعل ہی مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار مجرور تذہل کے متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَضَعُ فعل کلُّ مضاف ذَاتِ حَمْلٍ مرکب اضافی فاعل حَمْلَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ تَرَى فعل اذت مستتر فاعل الناس ذوالحال سُکْرٰی حال بذوالحال باحال مفعول بہ، واؤ حال یہ مما مشابہ "بہ کیس ہم ضمیر اس کا اسم ہا جارہ زلذہ سُکْرٰی ملامت منسوب خبر، مما مشابہ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ الناس کا حال ثانیہ تَرَى فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، تذہل معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ متانفہ ہے یا زلزلة سے حال ہے۔ واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے ہذا کلمہ ہین، لیکن حرف مشبہ بالفعل عذاب اللہ مرکب اضافی اس کا اسم شدیڈ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر، لیکن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ ۝

آیت نمبر ۳: واؤ استینا فیہ من الناس جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول یجادل فعل ہو مستتر فاعل بِغَیْرِ عِلْمٍ ظرف مستقر متکلیبسا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل فی اللہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یَتَّبِعُ فعل ہو مستتر فاعل کلُّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

آیت نمبر ۳: کُتِبَ فعل مجہول علیہ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، اَنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم، مَن اسم شرط مبتدأ، تَوَلَّى فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اَنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم یُضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ الی حرف جر عَذَابِ السَّعِيرِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر کُتِبَ کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شیطن کی صفت ثانیہ ہے، یا جملہ متاخر ہے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ تَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيج ۝

آیت نمبر ۵: يَأْتِيهَا النَّاسُ کی ترکیب شروع سورت میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، اَنَّ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم فی حرف جر رَيْبٍ موصوف من الْبَعْثِ جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اَنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، مَن تُرَابٍ جار باجور طرف معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ مَن نُطْفَةٍ جار باجور طرف معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ مَن عَلَقَةٍ جار باجور طرف معطوف ثانی، ثُمَّ عاطفہ مَن مُضْغَةٍ موصوف مُخَلَّقَةٍ اسم مفعول ہی مستتر نائب فاعل ہے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مُضْغَةٍ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجور طرف معطوف ہائیک، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ طرف لغو خَلَقْنَا کے متعلق اول ہوئے، لام حرف جر اور اس کے بعد اَنَّ مقدر ہے نُبَيِّنَ فعل نحن مستتر فاعل لَكُمْ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق تاویل مصدر مجرور، جار باجور طرف لغو خَلَقْنَا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

واو استینا فیہ نُقَرِّ فعل نحن مستتر فاعل فی الْأَرْحَامِ طرف لغو متعلق اول ہوئے، ما اسم موصول نَشَاءُ فعل نحن مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، الی جار اجل مُّسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جار باجور طرف متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ

و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ نُخْرِجُ فِعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ كُمْ ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ طِفْلًا حَالٌ، وَذُو الْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفٌ اَوَّلٌ، ثُمَّ عَاطِفٌ لَاهِرٌ جَاهِدٌ تَطْلِيَةٌ اَوْرَاسِ كَيْ بَعْدَ اَنْ مَقْدَرٌ هُوَ تَبْلُغُوا فِعْلٌ وَاوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَشَدُّ كُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ نَعِيْمٌ كُمْ كَيْ، نَعِيْمٌ فِعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ بِهَا، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جَمْلَةٌ مُتَافِئَةٌ هُوَ

وَاوْ عَاطِفٌ مِنْكُمْ جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَرْتَابٌ كَيْ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِ مَقْدَمٌ مَنَاسِمٌ مَوْصُولٌ بِحَالٍ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوْ عَاطِفٌ مِنْكُمْ جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَرْتَابٌ كَيْ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِ مَقْدَمٌ مَنَاسِمٌ مَوْصُولٌ يُرَدُّ فِعْلٌ مَجْهُولٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ اِلَى حَرْفٍ جَرَّ اِزْدَاكِ الْعُمُورِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَاهِرٌ حَرْفٌ جَرَّ كَيْ تَطْلِيَةٌ لَا يَتَعَلَّمُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ شَيْئًا مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرِ مَقْدَمٌ مَنَاسِمٌ مَوْصُولٌ بِحَالٍ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٌ مُتَافِئَةٌ هُوَ (رُوحُ الْعَالِي) يَنْعَمُونَ كُمْ مَقْدَرٌ مَعْطُوفٌ هُوَ وَاوْ عَاطِفٌ كَرِخْرِ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ اَلْاَرْضِ ذُو الْحَالِ هَا مِدَّةً اَسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فِعْلٌ كَرِخْرِ حَالٌ، وَذُو الْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

فَاوْ عَاطِفٌ اِذَا شَرَطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ اَنْزَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ عَالِيهَا جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اَلْمَاءِ مَفْعُولٌ بِهِ، جَاهِدٌ بِحَالٍ مَجْرُورٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرِ مَقْدَمٌ مَنَاسِمٌ مَوْصُولٌ بِحَالٍ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوْ عَاطِفٌ رَيْبٌ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ يَدُونَ اِلَى حَرْفٍ جَرَّ اِزْدَاكِ الْعُمُورِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَاهِرٌ حَرْفٌ جَرَّ كَيْ تَطْلِيَةٌ لَا يَتَعَلَّمُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ شَيْئًا مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ بِهَا، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جَمْلَةٌ مُتَافِئَةٌ هُوَ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

آیت نمبر ۶: ذٰلِكَ اِسْمٌ اَشَدُّ، مَبْتَدَأٌ، بِنَاءٌ حَرْفٌ جَرَّ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْتَدَأٌ، الْحَقُّ خَبَرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ اَنْ كَيْ خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوْ عَاطِفٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ يُحْيِي فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ الْمَوْتٰى مَنصُوبٌ تَقْدِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمِيْنٌ اِلَى حَرْفٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرِ اَنْ كَيْ خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوْ عَاطِفٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ عَلٰى حَرْفٍ جَرَّ كَيْ شَيْءٌ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مَقْدَمٌ، قَدِيْرٌ صِيغَةُ صِفَتٍ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَى اِلَى حَرْفٍ جَمْلَةٌ هُوَ كَرِخْرِ اَنْ كَيْ خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ بِهَا، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَاهِدٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِ اَنْ كَيْ خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جَمْلَةٌ مُتَافِئَةٌ هُوَ

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

آیت نمبر ۷: وَإِذِ اسْتَأْذَنَ فِيهِ بِمَا طَفَهُ أَنْ حُرْفِ تَحْقِيقِ السَّاعَةِ اس کا اسم ایبہ اسم فاعل ہی مستتر فاعل سے مل کر خبر اول، لانی جنس رتبہ اس کا اسم فیہا جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ آن کی خبر ثانی، آن با اسم و خبریں جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آن حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم یبعث فعل ہو مستتر فاعل من اسم موصول فی القُبُور طرف مستقر فعل محذوف ثبیت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، آن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝

آیت نمبر ۸: وَإِذِ اسْتَأْذَنَ فِيهِ مِنَ النَّاسِ جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول یجادل فعل ہو مسترزوالحال بآء حرف جر بغير علم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لا زلده هدى معطوف اول، واو عاطفہ لا زلده كتب منير مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور طرف مستقر متکلیسا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال یجادل کا فاعل فی اللہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ؕ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ

الْحَرِيقِ ۝

آیت نمبر ۹: ثَانِي عَظْفِهِ مرکب اضافی یجادل کی ضمیر فاعل سے حال ہے لاہ حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے یضیل فعل ہو ضمیر مستتر فاعل عن سبیل اللہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو یجادل کے متعلق ہوئے لہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الدنیا طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم خزی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نذیق فعل نحن مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ اول یوم القیامہ مرکب اضافی مفعول فیہ، عذاب الحریق مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

آیت نمبر ۱۰: ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدا، بآء حرف جر ما اسم موصول قدمت فعل یدک مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آن حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم، لیس فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بآء حرف جر زل ظلام صیغہ مبالغہ ہو مستتر نائب فاعل للعبید جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ بافاعل و متعلق محلا منصوب خبر، لیس فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آن کی خبر، آن با اسم و خبر بتاویل مصدر مبتدا محذوف الا مؤ کی خبر ہے (روح المعانی) مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ آن اللہ کا عطف ما مصدر یہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واؤستینا فیہ من الناس جہد باجر در طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول یَعْبُدُ فعل ہو مستتر فاعل لفظاً اللہ مفعول بہ، علی حَرْفٍ طرف مستقر مُسْتَقَرًّا کے متعلق ہو کر یَعْبُدُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہو۔

فَاء تفریعیہ یا عاطفان حرف شرط اَصَابَ فعل ء ضمیر مفعول بہ خَيْرٌ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اِطْمَأَنَّ فعل ہو مستتر فاعل یہ جہد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ان حرف شرط اَصَابَتْ فعل ء ضمیر مفعول بہ فِتْنَةٌ فاعل تینوں، مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اِنْقَلَبَ فعل ہو مستتر ذوالحال خَسِرَ فعل ہو مستتر فاعل الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنْقَلَبَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے علی وَجْهِهِ جہد باجر در کافراً کے متعلق ہو کر اِنْقَلَبَ کی ضمیر فاعل سے حال ثانیہ ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ اِسْم اشدہ مرفوع ملاً مبتدا، ہو ضمیر فصل الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: يَدْعُوا فعل ہو مستتر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَا اسم موصول لَا يَضُرُّهُ فعل ہو مستتر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول لَا يَنْفَعُ فعل ہو مستتر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال يَدْعُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہو۔ اِسْم اشدہ مبتدا، ہو ضمیر فصل الضَّلَالُ الْبَعِيدُ مرکب توصیفی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لِيُبْسِ الْمَوْلَىٰ وَلِيُبْسِ الْعَشِيرُ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: يَدْعُوا فعل ہو مستتر فاعل لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَدْعُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہو۔ لِمَنْ موطئہ للقسم اور قسم محذوف ہے يُبْسِ فعل ذم المولیٰ فاعل، دونوں مل کر خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے ہو، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لِيُبْسِ الْعَشِيرُ کی ترکیب لِيُبْسِ الْمَوْلَىٰ کی طرح ہے اور یہ اس پر معطوف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑤

آیت نمبر ۱۳: اِنَّ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم یُدْخِلُ فعل ہو مستتر فاعل الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف مخدوف الْأَعْمَالِ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصول باصلہ یُدْخِلُ کا مفعول بہ، جَنَّاتٍ موصوف تَجْرِي فعل مِنْ تَحْتِهَا جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْأَنْهَارُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم یَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول یُرِيدُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔ (علامہ آلوسی روح المعانی)

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ⑥

آیت نمبر ۱۵: مَنْ اسم شرط مبتدأ، كَانَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم يَظُنُّ فعل ہو مستتر فاعل اَنْ مخفف من الشركہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم نَنْ يَنْصُرُ فعل ہ ضمیر مفعول بہ لفظاً اللہ فاعل فی حرف جر الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اَنْ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ يَظُنُّ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لِيَمْدُدْ فعل امر ہو مستتر فاعل بَاء حرف جر سَبَبٍ موصوف اِلَى السَّمَاءِ جار باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجرور ظرف لغو لِيَمْدُدْ کے متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل جملہ فعلیہ امریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لِيَقْطَعْ فعل امر ہو مستتر فاعل جملہ انشائیہ معطوف اول، فاء عاطفہ لِيَنْظُرْ فعل امر ہو مستتر فاعل هَلْ حرف استفہام يَذْهِبَنَّ فعل کیدہ ہ مرکب اضافی فاعل مَا موصول یَغِيظُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفعولاً منصوب لِيَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صَہ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہو۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ⑦

آیت نمبر ۱۶: واو استینافیہ كَذَلِكَ جار باجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر بواسطہ اَنْزَلْنَا موصوف مخدوف کے مفعول مطلق مقدم ہے اَنْزَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ اول، آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم يَهْدِي فعل ہو مستتر فاعل مَنْ اسم موصول يُرِيدُ فعل ہو مستتر

فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ یقیناً کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، اَنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر اَنْزَلْنَاهُ کی ضمیر معطوف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اَنَّ اللہ جملہ الامر مبتدا محذوف کی خبر ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالتَّصْرِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ هَادُوا معطوف اول، واو عاطفہ الصَّابِقِينَ معطوف ثانی، واو عاطفہ التَّصْرِي معطوف ثالث، واو عاطفہ الْمَجُوسَ معطوف رابع، واو عاطفہ الَّذِينَ أَشْرَكُوا موصول باصلہ معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ اِنَّ کا اسم، اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم یَفْصِلُ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی اول یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فی ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ پہلے اِنَّ کی خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم علی حرف جار کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے، شَهِيدٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ
النُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
العَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم یَسْجُدُ فعل ہو مستتر فاعل لہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَن اسم موصول فی السَّمَوَاتِ ظرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن اسم موصول فی الْأَرْضِ ظرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کہ صلہ، موصول باصلہ معطوف اول، واو عاطفہ الشَّمْسُ معطوف ثانی، واو عاطفہ الْقَمَرُ معطوف ثالث، واو عاطفہ النُّجُومُ معطوف رابع، واو عاطفہ الْجِبَالُ معطوف خامس، واو عاطفہ الشَّجَرُ معطوف سادس، واو عاطفہ الدَّوَابُّ معطوف سابع، واو عاطفہ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ موصوف ظرف مستقر کَثِيرٌ کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف با صفت معطوف ثامن، واو عاطفہ كَثِيرٌ موصوف حَقَّ فعل عَلَيَّهِ ظرف لغو متعلق ہوئے الْعَذَابُ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف تاسع، معطوف علیہ با معطوفات تسعہ یَسْجُدُ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق اَنَّ کی خبر، اَنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

واو استینا فی مَن اسم شرط مفعول بہ مقدم یُهِنِ فعل مضارع لفظ اللہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لہ جار با مجرور ظرف مستقر کَثِيرٌ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم مَن حرف جر زائد مُكْرِمٍ لفظاً مجرور مَعْلَمٌ مرفوع مبتدا، وخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم یَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل مَن موصول یَشَاءُ فعل ہو مستتر فاعل سے

مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔
هٰذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوْا فِي رِبْتِهِمْ قَالَ ذٰلِكَ نَفْسٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصْبِتُ
مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمْ الْحَيِّمُ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: هٰذَانِ اسم اشارہ مبتدأ، خَصْمَيْنِ موصوف اِخْتَصَمُوْا فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جر رِبْتِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔
 قَاءَ تفریعیہ الذین کَفَرُوْا موصول باصلہ مبتدأ، قَطَّعَتْ فعل مجہول لَھُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے ثیباب موصوف مِنْ نَّارٍ ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اول، یُصْبِتُ فعل مجہول مِنْ حرف جر فَوْقِ رُءُوْسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، الْحَيِّمُ نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی، یا لَھُمْ کی ضمیر سے حال ہے، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِي بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: يُصْهَرُ فعل مجہول بِهٖ جار با مجرور متعلق ہوئے، مَا موصولہ فی بُطُوْنِهِمْ ظرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْجُلُوْدُ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الْحَيِّمُ سے حال ہے۔

وَلَھُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِیْدٍ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: واو عاطفہ لَھُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَّقَامِعٌ موصوف مِنْ حَدِیْدٍ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یُصْبِتُ پر معطوف ہے۔

كَلِمًا اَرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْدُوْا فِيْهَا مَلٌ وَّذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِیْقِ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: كَلِمًا ظرفیہ متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَرَادُوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَّخْرُجُوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهَا جار با مجرور مبدل مِنْ غَمٍّ جار با مجرور مبدل، مبدل مِنْہ بادل یَّخْرُجُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتاویل مصدر اَرَادُوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اَعِيْدُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فِيْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واو عاطفہ ذُوْقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل عَذَابَ الْحَرِیْقِ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر تَقْوُلُ لَھُمْ السَّلَاٰتِکُمْ کا مقولہ ہے، قول با مقولہ اَعِيْدُوْا کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے۔

● رکوع نمبر ۳ ●

اِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الذّٰلِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُدْخِلُ فعل ہو مستتر قائل الذین اسم موصول اَمْتُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصلیحۃ بواسطہ موصوف مخدوف الاعمال کے مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ یُدْخِلُ کا مفعول بہ، جَنَّتِ موصوف تجرئی فعل مِنْ تَحْتِهَا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الاَنْهَرُ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

يُحَلِّونَ فعل مجہول واو ضمیر ہد ز نائب فاعل فِيهَا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مِنْ حرف جر اَسَاوِرَ موصوف مِنْ ذَهَبٍ جاد باجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لُؤْلُؤًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِبَاسَهُمْ مرکب اضافی مبتدا، فِيهَا جاد باجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم حَرِيرٌ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَنَّتِ سے حال ہے، يَا الذِّينَ اَمْتُوا سے حال ہے۔

وَ هُدًى وَ اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ مَلِجٌ وَ هُدًى وَ اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: واو عاطفہ هُدًى فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَى حرف جر الطَّيِّبِ ذوالحال مِنَ الْقَوْلِ جاد باجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ هُدًى فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَى حرف جر صِرَاطِ الْحَمِيدِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يُحَلِّونَ ہر معطوف ہے۔

اِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوْآءٍ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِیَ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: اِنْ حرف تحقیق الذین اسم موصول كَفَرُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَصُدُّونَ فعل واو ضمیر فاعل عَنِ حرف جر سَبِيلِ اللّٰهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمَسْجِدِ موصوف الْحَرَامِ صفت اولیٰ، الَّذِی اسم موصول جَعَلْنَا فعل تا ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ لِلنَّاسِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمَسْجِدِ کی صفت ثانیہ، موصوف باصفتین معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے يَصُدُّونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اِنْ کا اسم، اور اس کی خبر مخدوف ہے هَالِكُونَ یا مُعَاقَبُونَ وغیرہ اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

سَوَاءٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ فَاعِلٍ أَوْ مَسْتَرَفَاعِلٍ فِيهِ اس کے متعلق، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ البناد معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، اسم فاعل با فاعل جَعَلْنَاهُ کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔ واو استینا فیہ مَن اسم شرط مبتدأ، یُرِيدُ فاعل ہو مستر فاعل فیہ جار باجرور متعلق ہوئے بِالْحَادِ جار باجرور مبدل منہ بِظُلْمٍ جار باجرور بدل، مبدل منہ بادل طرف مستر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَعَدِّيًّا کے مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نُذِيقُ فاعل نَحْنُ مستر فاعل و ضمیر مفعول بہ مین حرف جر عَذَابِ الْيَوْمِ مرکب توصیفی مجرور، جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ① وَآذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ②

آیت نمبر ۲۶، ۲۷: واو استینا فیہ اذ طرف زمان مضاف بَوَّأْنَا فعل نا ضمیر فاعل لِإِبْرَاهِيمَ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے مَكَانَ الْبَيْتِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذ کُرِّرَ کا مفعول بہ ہے، اَنْ حرف تفسیر لَا تُشْرِكْ فاعل اَنْتَ مستر فاعل فی جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے شَيْئًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ طَهِّرْ فاعل امر اَنْتَ مستر فاعل بَيْتِيَ مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، لام حرف جر الطَّائِفِينَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْقَائِمِينَ معطوف اول، واو عاطفہ الرُّكَّعِ مبدل منہ السُّجُودِ بدل، مبدل منہ بادل معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار باجرور طرف لغو طَهِّرْ کے متعلق ہوئے، طَهِّرْ فاعل امر اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ آذِنْ فاعل امر اَنْتَ مستر فاعل فی النَّاسِ جار باجرور متعلق اول ہوئے بِالْحَجِّ جار باجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بَوَّأْنَا کی تفسیر ہے۔ یَأْتُوكَ فاعل واو ضمیر ذوالحال رِجَالًا معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلٰی حرف جار کُلِّ ضَامِرٍ مرکب اضافی موصوف یَأْتِينَ فاعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل مین حرف جر کُلِّ مضاف فَجٍّ عَمِيقٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار باجرور یَأْتِينَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ کُلِّ ضَامِرٍ کی صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جار باجرور کُنَّا اَنْتَا کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَأْتُوكَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، کاف ضمیر مفعول بہ یَأْتُوكَ فاعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط محذوف اَنْ تَوَدُّنَّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی جزاء ہے کیونکہ یَأْتُوكَ کا جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَاطِنَ الْفَقِيرَ ③

آیت نمبر ۲۸: لام حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّر ہے یَشْهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل مَنَافِعِ موصوف لَهْمُ جاد باجرور ظرف مستقر کَانَتْہُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَدُ کُوُوا فعل واو ضمیر فاعل اِسْمَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فی حرف جرایم مَعْلُومَتِ مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور یَدُ کُوُوا کے متعلق اول ہوئے علی حرف جر مَاسَم موصول دَرْزَقِ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اور مفعول بہ ثانی اِیَّاهُ محذوف ہے، من حرف جر بَہِیْمَۃِ الْاَنْعَامِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کَانَتْہَا کے متعلق ہو کر دَرْزَقِ کے مفعول بہ ثانی جو کہ محذوف ہے سے حال ہے، دَرْزَقِ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور یَدُ کُوُوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ یَشْهَدُوا بہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف بتادل مصدر مجرور، جاد باجرور ظرف لغو ہو کر یَأْتُوا فعل کے متعلق ہے فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا ذَکَرْتُمْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَیْہِ (فقیر) یا اِذَا صَحَّ الْاَکْلُ، کُوُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مِنْہَا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطْعَمُوا فعل واو ضمیر فاعل الْبَآئِسِ الْفَقِیْرِ مرکب توصیفی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَيَلِظُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

آیت نمبر ۲۹: ثُمَّ عاطفہ لِيَقْضُوا فعل امر واو ضمیر فاعل تَفَثَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيُوفُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نُدُورَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لِيَلِظُوا فعل واو ضمیر فاعل بِنَاء حرف جر الْبَيْتِ الْعَتِيقِ مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَطْعَمُوا بہ معطوف ہے۔

ذٰلِكَ مِمَّنْ يَعْظُمُ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّہٖ ۭ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

آیت نمبر ۳۰: ذٰلِكَ اسم اشارہ خبر ہے مبتدا محذوف الْاَمْرُ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استینافیہ مِّنْ اسم شرط مبتدا، يَعْظُمُ فعل ہو مستتر فاعل حُرْمَتِ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدا، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو ضمیر فاعل لَہُ جاد باجرور متعلق ہوئے عِنْدَ رَبِّہٖ مرکب اضافی مفعول فیہ ہے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مِّنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استینافیہ اُحِلَّتْ فعل مجہول لَكُمْ جاد باجرور متعلق ہوئے الْاَنْعَامُ مستثنیٰ مِّنْ الْاَوْثَانِ حرف استثناء مَاصُولِ يَتْلٰى فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل عَلَيْكُمْ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ منقطع ہے عند البعض، اور عند البعض متصل ہے، مستثنیٰ مِّنْہَا اُحِلَّتْ کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں

فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَرَدْتُمْ الْخَيْرَ اَجْتَنِبُوا فعل واو ضمیر فاعل الرِّجْسِ ذوالحال مِّنْ الْاَوْثَانِ جاد باجرور

ظرف مستقر کا نونا کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اِجْتَنِبُوا
فعل واو ضمیر فاعل قَوْلِ الرَّؤُوفِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط
مخذوف کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

حُنْفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ طَوْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهَا

الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝۳۱

آیت نمبر ۳۱: حُنْفَاءَ صیغہ صفت اَنْتُمْ مستقر فاعل اللہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر
اِجْتَنِبُوا کی ضمیر فاعل سے حال اولیٰ ہے، غَيْرَ مضاف مُشْرِكِيْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستقر فاعل بہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل
و متعلق شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ اِجْتَنِبُوا کی ضمیر فاعل سے حال ثانیہ ہے۔ واو عاطفہ مِّنْ اسم شرط مبتدأ، يُشْرِكْ
فعل ہو ضمیر فاعل بِاللّٰهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ کَانَ حرف تشبیہ مَا کافہ خَرَّ
فعل ہو ضمیر فاعل مِنَ السَّمَآءِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ فَتَخْطَفُ فعل
ضمیر مفعول بہ الطَّيْرُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اولیٰ، او عاطفہ تَهْوِيْ فعل بہ جاد با مجرور متعلق اول
ہوئے الرِّيحُ فاعل فی حرف جر مَكَانٍ سَحِيْقٍ مرکب توصیفی مجرور، جاد با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ
ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مَن
یُعَظَّمُ معطوف ہے۔

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنْ يُعَظَّمُ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ۝۳۲

آیت نمبر ۳۲: ذٰلِكَ اسم اشارہ ملامر فوع خبر ہے مبتدأ مخذوف الآمرو کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہو واو استینافیہ مِّنْ اسم شرط
مبتدأ، يُعَظَّمُ فعل ہو ضمیر فاعل شَعَابِرَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ
اِنَّ حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم مِّنْ حرف جر تَقْوٰی الْقُلُوْبِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کا نونا کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ
با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازع ہوں۔

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳: لَكُمْ جاد با مجرور ظرف مستقر کا نونا کے متعلق ہو کر خبر مقدم فیہا جاد با مجرور ظرف مستقر کا نونا کے متعلق
ہو کر حال مقدم مَنَافِعُ موصوف اِلٰى حرف جَر اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کا نونا کے متعلق ہو کر صفت،
موصوف با صفت ذوالحال مؤخر بذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ مَحِلُّهَا مرکب اضافی مبتدأ،
اِلٰى حرف جَر الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ مرکب توصیفی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کا نونا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،
معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازع ہوں۔

● رکوع نمبر ۵ ●

وَلِكِنَّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا طَوْ بَشِيرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

آیت نمبر ۳۵، ۳۴: واؤ استینا فی لام حرف جرکن اُمّۃ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ مبنی
مقدم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَنْسَكًا مفعول بہ اول مؤخر، لام حرف جر برائے تعلق اور اس کے بعد اُن مقدر ہے یَذْكُرُوا فعل واؤ
ضمیر فاعل اسْمَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ علی حرف جر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۸ میں گزر چکی ہے
اور یہ صلہ ہے، موصول باصلہ ظرف لغو رَزَقَىٰ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار باجر در جَعَلْنَا کے
متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوا۔ فَاہ استینا فی الْهُكْمِ مرکب اضافی مبتدأ، اِلٰهٌ وَاحِدٌ مرکب توصیفی
خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہوا۔ فَاہ نصیحا اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ طَلَبْتُمْ رِضَى الرَّبِّ، لہٰذا ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے
أَسْلِمُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

واؤ عاطفہ بَشِيرِ فعل امر اَلَّتِ مستتر فاعل الْمُخْبِتِينَ موصوف، الَّذِينَ اسم موصول اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذُكِرُوا فعل مجہول لفظ
اللّٰهُ نایب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جِلَتْ فعل قُلُوبُهُمْ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول با
صلہ الْمُخْبِتِينَ کی صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الصَّابِرِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل علی حرف جر مَا اسم موصول
أَصَابَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در متعلق ہوئے، اسم فاعل
بافاعل و متعلق شبہ جملہ معطوف اول، واؤ عاطفہ الْمُقِيمِي صیغہ صفت مضاف الصَّلَاةِ مضاف الیہ، دونوں مل کر معطوف مبنی، واؤ عاطفہ مِنْ
حرف جر مَا موصولہ رَزَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در
ظرف لغو متعلق مقدم يُنْفِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف عالیہ با معطوفات
بَشِيرِ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر اَسْلِمُوا پر معطوف ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ مَلِے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
صَوَافِحًا فَاذًا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۶: واؤ استینا فی الْبُدْنَ مفعول بہ ہے فعل محذوف جَعَلْنَا کا، جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَقْسَر جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ اول لَكُمْ جار باجر در متعلق ہوئے مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ظرف مستقر کائِنَدَ
کے متعلق ہو کر مفعول بہ مبنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جَعَلْنَا محذوف کیلئے مَقْسَر ہے، لَكُمْ جار باجر در ظرف

مستقر کا تین کے متعلق ہوئے، کا تین اسم فاعل ہو ضمیر اس کا فاعل فیہا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے کا تین کے، کا تین اسم فاعل اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم تھی، مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسبہ خبریہ ہو کر جعلتھا کی ضمیر مفعول بہ اول سے حال ہے۔ فاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ نَحَرْتُمْوهَا، اذْکُرُوْا فَعْل امر واو ضمیر فاعل اِسْمَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، علی حرف جار ہا ضمیر ذوالحال، صَوَّآف اسم فاعل ہی مستقر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور اذْکُرُوْا کے متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

فاء عاطفہ اذ شرطیہ مفعول فیہ مقدم وَجَبَتْ فَعْل جُنُوْا ہا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ کَلُوْا فَعْل امر واو ضمیر فاعل مِنْہَا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطْعِمُوْا فَعْل امر واو ضمیر فاعل الْقَانِعِ وَ الْمَعْتَرِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوا۔ کَذٰلِکَ جار مجرور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر بواسطہ بوصف محذوف تَسْبِيْحًا کے مفعول مطلق مقدم، سَخَّرْنَا فَعْل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَعَلَّ حرف ترحی کُمْ ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فَعْل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ مُطْلَق ہوا یا راجعی شُكْرِكُمْ کی تاویل میں ہو کر سَخَّرْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

لَنْ يَنْتَالِ اللّٰهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا وَ لٰكِنْ يَنْتَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْتَبُرُوْا وَ اللّٰهُ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۳۷

آیت نمبر ۳۷: لَنْ يَنْتَالِ اللّٰهُ لِحُومِهَا مرکب اضافی مفعول بہ مقدم لِحُومِهَا مرکب اضافی مفعول علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّةَ دِمَآؤِهَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لٰكِنْ حرف استدراک مہملہ، يَنْتَالِ فَعْل ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم التَّقْوٰى ذوالحال مِنْكُمْ جار مجرور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانف ہوا۔ کَذٰلِکَ جار مجرور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَسْبِيْحًا کے مفعول مطلق مقدم، سَخَّرْنَا فَعْل ہو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ لَكُمْ جار مجرور متعلق اول ہوئے، لا مر جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَر ہے تَكْتَبُرُوْا فَعْل واو ضمیر فاعل اللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ، علی حرف جار ما موصولہ ہدٰی فَعْل ہو فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور تَكْتَبُرُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو استینافیہ بَشِّرِ فَعْل امر اَنْتَ مستقر فاعل الْمُحْسِنِيْنَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانف ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الدّٰیْنِ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝۳۸

آیت نمبر ۳۸: اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰهُ اس کا اسم یُدْفِعُ فَعْل ہو ضمیر فاعل عَنِ حرف جر الدّٰیْنِ اسم موصول اٰمَنُوْا فَعْل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور یُدْفِعُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ

خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ ان حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم لایحیث فعل ہو ضمیر فاعل کل مضاف حوان کفؤد مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہو۔

● رکوع نمبر ۶ ●

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

آیت نمبر ۳۹: اذین فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل لام حرف جر الذین اسم موصول یقتلون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق اول، بناء حرف جر ان حرف تحقیق هم ضمیر اس کا اسم ظلموا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مجرور، جاد باجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ ان حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم علی حرف جاد نصرہم مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لام نہ حلقہ قدیر صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اذین للذین پر معطوف ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۗ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ۖ وَسَجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَكَيْنُصْرَةَ اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

آیت نمبر ۴۰: الذین اسم موصول اخرجوا فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال بغیر حق جاد باجرور متکلیسین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل من دیارہم جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر ہے مبتدا مخدوف ہم کی، یا آیت نمبر ۳۸ میں مذکور الذین امنوا سے بدل ہے۔ الا حرف استثناء ان حرف مصدری و نصب یقولوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول ربنا مرکب اضافی مبتدا، اللہ اسم الجلالہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول، قول با مقولہ مشتق منقطع ہے۔ واو استینافیہ لولا امتناعیہ دفع مصدر مضاف لفظاً اللہ مضاف الیہ معنی فاعل الناس مبدل منہ بَعْضُهُمْ مَرْكَب اضافی بدل، مبدل منہ بادل دفع کا مفعول بہ ببعض جاد باجرور دفع کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، اور خبر مخدوف ہے ہو جوڈ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ هدمت فعل مجہول صوامع معطوف علیہ، واو عاطفہ بیع معطوف اول، واو عاطفہ صلوات معطوف ثانی، واو عاطفہ مسجد موصوف یذکر فعل مجہول فیہا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اسم اللہ مرکب اضافی نائب فاعل کثیرا بواسطہ موصوف مخدوف ذکر موصوف مطلق، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مسجد کی صفت (علامہ آلوسی) موصوف با صفت معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ هدمت کا نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانہ ہو۔

واو استینا فی لام موطنہ لقسم اور قسم محذوف ہے یَنْصُرُونَ فعل لفظاً للهِ فاعل مَن اسم موصول یَنْصُرُ فعل هو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں ان حرف تحقیق لفظاً للهِ کاسم لام نہ حلقہ قوی عَزِيزٌ و خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَتُّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَامْرُؤًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ طَوَّلَهُ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۝

آیت نمبر ۳۱: الَّذِينَ اسم موصول اِنْ حرف شرط مَكَتُّهُمْ فعل قَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی الْاَرْضِ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اَقَامُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتَوْا فعل واو ضمیر فاعل الزَّكٰوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اَمْرًا فعل واو ضمیر فاعل بِالْمَعْرُوفِ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ نَهَوْا فعل واو ضمیر فاعل عَنِ الْمُنْكَرِ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ یا تَوْهَمٌ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یاہلاً مجرد آیت نمبر ۳۸ میں مذکور الَّذِينَ اَمَّنُوا سے بدل ہے۔ واو استینا فی لام جار باجرور طرف مستقر کا ائینہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَاقِبَةُ الْاُمُورِ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَ اِنْ يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ ثَمُودٌ ۝ وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ۝ وَ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۝ وَ كَذَّبَ مُوسٰى فَاَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرًا ۝

آیت نمبر ۳۲، ۳۳، ۳۴: واو استینا فی ان حرف شرط يُكْذِبُوكَ فعل و او ضمیر فاعل كَاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قَدْ علامت فعل، كَذَّبَتْ فعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ قَوْمُ نُوحٍ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ عَادٌ معطوف اول، واو عاطفہ ثَمُودٌ معطوف ثانی، واو عاطفہ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ قَوْمُ لُوطٍ مرکب اضافی معطوف رابع، واو عاطفہ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ مرکب اضافی معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ فاعل، كَذَّبَتْ فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَذَّبَ فعل مجهول مُوسٰى مرفوع تقدیر نائب فاعل، فعل مجهول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

فَاء عاطفہ اَمَلَيْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل لِلْكَافِرِيْنَ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اَخَذْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں فاء استینا فیہ کیف طرف زمان کا ائینا کا مفعول فیہ ہو کر نَكِيْرًا کا حال مقدم نَكِيْرًا اصل میں نَكِيْرًا ہی تھا، مرکب اضافی زوال حال

مؤخر بذوالحال باحال کان فعل تام کا قائل ہے، فعل با قائل جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

فَكَائِنٍ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مَعْظَلَةٌ وَ

قَصْرٍ مَّشِيدٍ ۝

آیت نمبر ۳۵: قائم استینا فیہ کائِن خبریہ میز من قَرْيَةٍ جاد باجرور تمیز، میز یا تمیز مبتدا، اَهْلَكْنَاهَا فعل تام ضمیر قائل ہا ضمیر ذوالحال واو حال ہی ضمیر مبتدا، ظَالِمَةٌ اسم قائل ہی مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بذوالحال باحال اَهْلَكْنَاهَا کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قائم عاطفہ ہی ضمیر مبتدا، خَاوِيَةٌ اسم قائل ہی مستتر قائل علی حرف جر عُرُوشِهَا مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق، اسم قائل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں واو عاطفہ یَبُرُّ موصوف مَعْظَلَةٌ اسم مفعول ہی مستتر نائب قائل بدو نوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ قَصْرٍ موصوف مَشِيدٍ اسم مفعول ہو مستتر نائب قائل، بدو نوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَرْيَةٍ پر معطوف ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

آیت نمبر ۳۶: ہمزہ حرف استفہام قائم عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے عَقَلُوا (محمود صانی) کَلِمَ يَسِيرُوا فعل واو ضمیر قائل فی الْأَرْضِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں قائم عاطفہ سَبِيْرٌ تَكُوْنُ فعل ناقص لَهِمْ جاد باجرور ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم قُلُوبٌ موصوف يَعْقِلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل بِهَا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہا صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ آذَانٌ موصوف يَسْمَعُوْنَ فعل واو ضمیر قائل بِهَا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہا صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَكُوْنُ کا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر سَبِيْرٌ مصدر پر معطوف ہے جو لَمْ يَسِيرُوا سے حاصل کیا گیا ہے۔ قائم تطلیق ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم لا تَعْيَى فعل الْأَبْصَارُ قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكِنْ حرف استدراک مہملہ تَعْيَى فعل الْقُلُوبُ موصوف الَّتِي اسم موصول فی الصُّدُورِ جاد باجرور ظرف مستقر فعل مخدوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ صفت، موصوف ہا صفت قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہوں۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ط وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

آیت نمبر ۳۷: واو استینا فیہ یَسْتَعْجِلُونَ فعل واو ضمیر قائل کاف ضمیر مفعول بہ بِالْعَذَابِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے،

فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں و او حالیہ یا اعتراضیہ (علامہ آلوسی) لَنْ يُخْلِفَ فعل لفظاً للهِ فاعل وَعَدَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ الْعَذَابِ سے حال ہے یا آگے کیلئے معطوف علیہ ہے و او عاطفہ اِنْ حرف تحقیق یَوْمًا موصوف عِنْدَ رَبِّكَ مرکب اضافی کائِنًا کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت اِنْ کا اسم کاف حرف جر اَلْفِ سَنَةٍ مرکب اضافی موصوف مِنْ حرف جر موصولہ تَعْدُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معترضہ ہے یا الْعَذَابِ کا حال ہے۔

وَ كَايِّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ لَهَا ۖ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَالْيَاصِيِرُ ﴿٣٨﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینا فیہ کائِنَہ خبریہ میز من قَرْيَةٍ جار باجر در تیز، میز یا تیز مفعول بہ ہے فعل مخذوف أَمَلَيْتُ کا، أَمَلَيْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، أَمَلَيْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل لام حرف جرہا ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہی ضمیر مبتدا، ظَالِمَةٌ اسم فاعل ہی مستقر فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار باجر در ظرف لغو أَمَلَيْتُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر با مفسر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ أَخَذْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوں و او اعتراضیہ یا استینا فیہ اِلَیَّ جار باجر در ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْيَاصِيِرُ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ یا متانفہ ہوں۔

﴿ ۳۸ ﴾ رکوع نمبر ۷

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كُفْرٌ مِّنْ قَوْمٍ مِّثْلِي ۚ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس کی ترکیب اس سورت کی پہلی آیت میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، اِنْ حرف تحقیق کفر، مَا کافہ اَنَا ضمیر مبتدا، کُفْرٌ جار باجر در ظرف لغو نَذِيرٌ کے متعلق ہوئے نَذِيرٌ صیغہ صفت اَنَا مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر موصوف مُبِينٌ صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

قَالُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي

اٰيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴿٤٠﴾

آیت نمبر ۴۰: فاء تفریحہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول اَمَنُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف مخذوف اَلْعَمَالِ کے مشمول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لَهُمْ جار باجر در ظرف مستقر کائِنان کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ رِزْقٌ کَرِيْمٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اَوَّلِ کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر

معطوف علیہ، واو عاطفہ اللذین اسم موصول سَعَوْا فعل واو ضمیر ذوالحال مُعْجِزِينَ اسم فاعل هُم مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل فی حرف جرائتتا مرکب اضافی مجرد، جار باجور سَعَوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتداء، اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدائی، اَصْحَابُ الْجَحِيمِ مرکب اضافی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدائی کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

آیت نمبر ۵۲: واو استینا فی مانا فیہ اَرْسَلْنَا فعل تا ضمیر فاعل مِنْ قَبْلِكَ جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے مِنْ حرف جر لاندہ رَسُولٍ معطوف علیہ، واو عاطفہ لاندہ نَبِيٍّ معطوف، معطوف علیہ با معطوف موصوفِ الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تَمَنَّى فعل هُوَ مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اَلْقَى فعل الشَّيْطَانُ فاعل فی حرف جرائتتا مرکب اضافی مجرد، جار باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاءُ عَاطِفَةٌ يَنْسَخُ فعل لفظا اللَّهُ فاعل مَا اسم موصول يُلْقِي فعل الشَّيْطَانُ فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ يَنْسَخُ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ يُحْكُمُ فعل لفظا اللَّهُ فاعل آيَتِهِ مرکب اضافی مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف فیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صفت، موصوفِ اَرْسَلْنَا کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول ہے و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ واو استینا فی لفظا اللَّهُ مبتداء، عَلِيمٌ حَكِيمٌ دو خبر، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

آیت نمبر ۵۳: لام حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّم ہے يَجْعَلَ فعل هُوَ مستتر فاعل مَا اسم موصول يُلْقِي فعل الشَّيْطَانُ فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے اِذْ فِتْنَةٌ موصوفِ لَامِ حرف جرائتتا الذین اسم موصول فِي قُلُوبِهِمْ جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتداء مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْقَاسِيَةِ اسم فاعل قُلُوبُهُمْ مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر فِتْنَةٌ کی صفت، موصوفِ مفعول ہے ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جار باجور طرف لغو يَنْسَخُ يُلْقِي الشَّيْطَانُ کے متعلق ہوئے۔ واو استینا فیہ اِنَّ حرف تحقیق الظالمین اس کا اسم لام مذ حلقہ فی حرف جرائتتا بَعِيدٍ مرکب توصیفی مجرد، جار باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

آیت نمبر ۵۳: وَاَوْعَظْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس کے بعد اُن مقدّم ہے يَعْلَمَهُ فَعَلُ الَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٍ اَوْتُوا فَعْلُ مَجْهُولٍ وَاَوْضَمِيرُ نَائِبٍ فاعِلُ الْعِلْمِ مفعول به تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ يَعْلَمَهُ كَا فاعِلُ اَنْ حرف تَحْقِيقِ كَا ضمير اس کا اسْمُ الْحَقِّ ذُو الْحَالِ مِنْ رَبِّكَ جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَانَتْ كَا کے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ بِحَالِ خَبْرٍ اَنْ بِاسْمِ وَخَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر يَعْلَمَهُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فَعْلُ بِا فاعِلٍ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاَوْ عَاطِفٌ يُؤْمِنُوا فَعْلُ وَاَوْضَمِيرُ فاعِلٍ بِه جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعَلَّ متعلق ہوئے، فَعْلُ بِا فاعِلٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَاَوْ عَاطِفٌ تُخْبِتُ فَعْلُ لَه جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعَلَّ متعلق ہوئے، قُلُوْبُهُمْ مَرْكَبِ اِضَائِي فاعِلٍ، فَعْلُ بِا فاعِلٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بِا معطوفین بتاویل مصدر مَجْرُورٍ، جَدِّ بَا مَجْرُورٍ بِوِاسِطَةِ عَطْفِ يَنْسَخُ کے متعلق ہوئے يٰ اَيُّكُمْ کے متعلق ہوئے۔ وَاَوْ اِسْتِثْنَاءٌ فِى اَنْ حرف تَحْقِيقِ لَفْظًا اَللّٰهُ اس کا اسْمُ لَامٌ مَذْهَبَةٌ هَا اِسْمُ فاعِلُ الَّذِينَ اَمَنُوا مَوْصُولٌ بِا صلہ مضاف الیہ مَعْلُومٌ بِا فاعِلٍ حَرْفِ جَرِّ صِدَاقِ مُسْتَقْبَلِ مَرْكَبِ تَوْصِيفِي مَجْرُورٍ، جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعَلَّ کے متعلق ہوئے، اسْمُ فاعِلٍ مضاف اپنے مضاف الیہ معنی مفعول بہ و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيبِهِ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۵: وَاَوْ اِسْتِثْنَاءٌ فِى لَا يَزَالُ فَعْلُ نَاقِصِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْصُولٌ بِا صلہ اس کا اسْمُ فِى حَرْفِ جَرِّ مِرْيَةٍ مَوْصُوفٌ مِنْهُ جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَانَتْ كَا کے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَجْرُورٍ، جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَانَتْ كَا کے متعلق ہو کر خَبْرٌ حَقُّ حَرْفِ غَايَةِ وَجَرِّ اِسْمِ كَيْفِ اَنْ كَا فاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ يَأْتِي فَعْلُ هُمْ ضمير منصوب مفعول بہ السَّاعَةُ ذُو الْحَالِ بَغْتَةً حَالٌ بِوَدُونِ مَلِكِ فاعِلٍ، فَعْلُ بِا فاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ يَأْتِي فَعْلُ هُمْ ضمير منصوب مفعول بہ، عَذَابٌ مضاف يَوْمَ عَقِيبِهِ مَرْكَبِ تَوْصِيفِي مضاف الیہ، پھر مَرْكَبِ اِضَائِي يَأْتِي كَا فاعِلٍ، فَعْلُ بِا فاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِا معطوف بتاویل مصدر مَجْرُورٍ، جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ لَعَلَّ متعلق ہوئے، فَعْلُ نَاقِصِ اسْمِ وَخَبْرٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

اَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ بَيْنَهُمْ اَفَالَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۶، ۵۷: اَلْمَلِكُ مبتدأ، يَوْمَئِذٍ مَرْكَبِ اِضَائِي كَانَتْ كَا مفعول فیہ ہوا، يَلِيهِ جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَانَتْ كَا کے متعلق ہوئے، كَانَتْ كَا اسْمُ فاعِلٍ هُوَ ضمير اپنے فاعِلٍ و مفعول فیہ و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا، يَخْلُقُ فَعْلُ هُوَ مُسْتَقَرِّ فاعِلٍ يَبْنِيهِمْ مَرْكَبِ اِضَائِي مفعول فیہ تینوں مل کر جملہ مستانفہ بیانیہ ہے یا اَللّٰهُ اسْمُ الْجَلَالِ سے حال ہے فَاَوْ عَاطِفُ الَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٍ اَمَنُوا فَعْلُ بِا وَاَوْضَمِيرُ فاعِلِ جَمْلَةٍ بِوِاسِطَةِ مَوْصُوفٍ مَخْرُوفِ الْأَعْمَالِ کے مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِا معطوف صلہ، مَوْصُولٌ بِا صلہ مبتدأ، فِى حَرْفِ جَرِّ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مَرْكَبِ اِضَائِي مَجْرُورٍ، جَدِّ بَا مَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَانَتْ كَا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْ عَاطِفُ الَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٍ كَفَرُوا فَعْلُ وَاَوْضَمِيرُ فاعِلٍ سے مل کر معطوف علیہ، وَاَوْ عَاطِفُ كَذَّبُوا فَعْلُ وَاَوْضَمِيرُ فاعِلِ بَاءِ حَرْفِ جَرِّ اَيَّتِنَا مَرْكَبِ اِضَائِي مَجْرُورٍ، جَدِّ

باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، فاعل جزائیہ یا زندہ اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، لَهُمْ جاد باجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ مُّهِينٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَلَّذِينَ کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَحْكُمُ معطوف ہے۔

﴿ ۸ ﴾ رکوع نمبر ۸ ﴿ ۸ ﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واؤ عاطفہ اَلَّذِينَ اسم موصول هَاجَرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال فِي سَبِيلِ اللَّهِ جاد باجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف قُتِلُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، اَوْ عاطفہ مَاتُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ، لَآه موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے يَرْزُقَنَّهُمُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، اَللَّهُ اسم الجلالہ فاعل رِزْقًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر اَلَّذِينَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے اَلَّذِينَ معطوف ہے۔ واؤ اعتراضی ان حرف تحقیق اَللَّهُ اسم الجلالہ اس کا اسم لَآه مذ حلقہ ہو ضمیر مبتدأ، خَيْرُ الرَّازِقِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر ان کی خبر، ان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

لَيْدٌ خَلَتْهُمْ مَدْخَلًا يَرِضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: لَآه موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے يَدْخُلْنَ فعل هُوَ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول مَدْخَلًا موصوف يَرِضُونَ فعل هُوَ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر لَيَرْزُقَنَّهُمُ سے بدل ہے واؤ استینافِ اِنَّ حرف تحقیق اَللَّهُ اس کا اسم لَآه مذ حلقہ عَلِيمٌ حَلِيمٌ دو خبر، ان اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغْنِي عَلَيْهِ لَيْئَصْرَتَهُ اللَّهُ ۗ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ

عَفُوٌّ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: ذٰلِكَ خبر ہے مبتدأ محذوف اَلْأَمْرُ بِالشَّانِ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔ واؤ استینافیہ مَنْ موصولہ عَاقَبَ فعل هُوَ مستقر فاعل بِمَا حرف جر مِثْلٍ مضاف ما اسم موصول عُوِّقَ فعل مجہول هُوَ مستقر نائب فاعل یہ جاد باجرور طرف متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی باجرور، جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے عَاقَبَ کے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يُغْنِي فعل مجہول هُوَ مستقر جامع بسوئے مصدر نائب فاعل عَلَيْهِ جاد باجرور طرف متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ

فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لامر موطئہ للقسم اور قسم محذوف ہے یَنْصُرَنَّ فعل ہضمیر منصوب مفعول بہ، اللہ اسم الجلالہ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، دونوں مل کر خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لامر مذکر لَعَفُوْا غَفُوْا و خبر، اِنَّ بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ یا مستانفہ ہوں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ النّٰهَارَ فِي النّٰهَارِ فِي الْبَيْلِ وَ يُوَلِّجُ النّٰهَارَ فِي الْبَيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝۱۰

آیت نمبر ۶۱: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا، بَاء حرف جر اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم یُوَلِّجُ فعل ہو مستتر فاعل الْبَيْلِ مفعول بہ فی الْبَيْلِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُوَلِّجُ فعل ہو مستتر فاعل الْبَيْلِ مفعول بہ فی الْبَيْلِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ دو خبر، اَنَّ بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْكَبِيْرُ ۝۱۱

آیت نمبر ۶۲: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا، بَاء حرف جر اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم ہو ضمیر مبتدا، الْحَقُّ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق مَا اسم موصول يَدْعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ہضمیر منصوب مقدر ذوالحال مِنْ دُوْنِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال يَدْعُوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اَنَّ کا اسم ہو الْبَاطِلُ مبتدا با خبر اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم ہو ضمیر مبتدا، الْعَلِيْمُ الْكَبِيْرُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝۱۲

آیت نمبر ۶۳: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم اَنْزَلَ فعل ہو ضمیر فاعل مِنَ السَّمَاءِ جار مجرور متعلق ہوئے مَاءً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ تُصْبِحُ فعل ناقص الْاَرْضُ اس کا اسم مُخْضَرَّةً خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ دو خبر، اِنَّ بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝۱۳

آیت نمبر ۶۳: لَہُ جَادٌ بِأَجْرٍ زَرْفٍ مُسْتَقَرٌّ كَائِنٌ كَے متعلق ہو کر خبر مقدم ما موصولہ فی حرف جر السُّنُوتِ مجرور، جاد با مجرور زرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما موصولہ فی الأَرْضِ جاد با مجرور فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم لاہ مذ حلقہ ہو ضمیر مبتدا، الْغَيْثُ الْحَمِيمُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

﴿ ۹ ﴾ رکوع نمبر ۹ ﴿ ۹ ﴾

الْمُ تَرَانَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط وَ يُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَوُفٌ رَحِيمٌ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: ھمزہ حرف استفہام لَمْ تَرُ فعل آنت ضمیر مستتر قائل اَنْ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم سَخَّرَ فعل ہو مستقر ضمیر فاعل لَكُمْ جاد با مجرور زرف لغو متعلق ہوئے ما اسم موصول فی الْأَرْضِ جاد با مجرور زرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْفُلْكَ ذوالحال تَجْرِي فعل ہی ضمیر مشترک ذوالحال بِأَمْرِهِ زرف مستقر مُتَكَلِّبَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال تَجْرِي کا فاعل فی الْبَحْرِ جاد با مجرور زرف لغو تَجْرِي کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف سَخَّرَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد لَمْ تَرُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

واو استینافیر يُنْسِكُ فعل ہو مستقر قائل السَّمَاءَ مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نصب تَقَعَ فعل ہی مستقر قائل عَلَى الْأَرْضِ جاد با مجرور زرف لغو متعلق اذل ہوئے اَلَا حرف استثناء بآء حرف جرائذیہ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور زرف لغو مستثنیٰ مفرغ متعلق مبنی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر بواسطہ مضاف محذوف خَشِيَّةٌ کے يُنْسِكُ کا مفعول لہ ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم بِالنَّاسِ جاد با مجرور زرف لغو عَوُفٌ کے متعلق ہوئے لاہ مذ حلقہ عَوُفٌ رَحِيمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ یا مغللہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: واو استینافیہ ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول أَحْيَا فعل ہو مستقر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يُمِيتُ فعل ہو مستقر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، ثُمَّ عاطفہ يُحْيِي فعل ہو مستقر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق الْإِنْسَانَ اس کا اسم لاہ مذ حلقہ كَفُورٌ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لِكُنْ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَإِنَّكَ

لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: لام حرف جر کے امیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کا ایتنا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَنْسَكًا موصوف ہُمْ ضمیر مبتدا، نَاسِكُوهُ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ نَاقَشُوكَ فِي اَمْرِ الشَّرِيعَةِ، لَا يُنَازِعُنَ فعل واؤ محذوفہ لاتقاء الساکنین فاعل کاف ضمیر مفعول بہ فی الامر جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واؤ عاطفہ اُدْعُ فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل الی حرف جر رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ لَا يُنَازِعُنَ عَنْہُ بمعطوف ہے اِنْ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لام مذحلہ علی حرف جار هُدًى مُسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کا ایتن کے متعلق ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا

وَإِنْ جُدُّوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: واؤ عاطفہ اِنْ حرف شرط جُدُّوْا فعل واؤ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قُلِ فعل امر آتت مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اللہ مبتدا، اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل بناء حرف جر مَا اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، ما اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرط محذوف اِنْ نَاقَشُوكَ۔ اِنْ کی جزاء ہے۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: اللہ مبتدا، يَحْكُمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فی حرف جر مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم فیہ جار با مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَخْتَلِفُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور طرف لغو يَحْكُمُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: ہمہزہ حرف استفہام لَمْ تَعْلَمْ فعل آتت ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول فی حرف جر السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور طرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے

متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ تَعْلَمُ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر بآن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر لَمْ تَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق ذلک اس کا اسم فی کِشِب جاد باجر در طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر بآن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَعْلَمٌ ہوں اِنَّ حرف تحقیق ذلک اس کا اسم اشدہ اس کا اسم عَلٰی اللہ جاد باجر در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَسْبِیْہُ صیغہ صفت ہو مستقر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر اِنَّ کی خبر بآن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَّ مَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِن نّٰصِيْرٍ ۝

آیت نمبر ۱۷: واو استینافیہ يَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِن حرف جر دُونَ اللّٰہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجر در طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر حال مقدم ما اسم موصول لَمْ يُنَزَّلْ فعل ہو مستقر فاعل بہ جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے سُلْطٰنًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما موصولہ لَيْسَ فعل ناقص لَهُمْ جاد باجر در طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم بہ جاد باجر در طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر حال مقدم عِلْمٌ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں واو استینافیہ مَا نَافِيَةٌ لِلظّٰلِمِيْنَ جاد باجر در طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِن حرف جر لِلنّٰصِيْرِ لفظا مجرور محلا مرفوع مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرَ ط يَكَادُوْنَ
يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا قُلْ اَفَاَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط النَّارُ ط
وَ عَذَابُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وِ بَسِّ الصّٰصِيْرِ ۝

آیت نمبر ۷۲: واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تُتْلٰی فعل مجہول عَلَيْهِمْ جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے اِیٰتِنَا مرکب اضافی ذوالحال بَيِّنٰتٍ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تَعْرِفُ فعل اَنْتَ مستقر فاعل فی حرف جر وُجُوْہ مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوْا فعل واو ضمیر فاعل ہوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجر در طرف لغو تَعْرِفُ کے متعلق ہوئے الْمُنْكَرَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

يَكَادُوْنَ فعل مقارب واو ضمیر اس کا اسم يَسْطُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جر الَّذِيْنَ اسم موصول يَتْلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے اِیٰتِنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجر در طرف لغو يَسْطُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل مقارب ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ

ہو کر الذین کفروا سے حال ہے۔ قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، ہمیزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَخَاطِبُكُمْ، اُنْتِجِ فعل انا مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، بآء حرف جر شہ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْ ذَلِکُمْ جار مجرور اسم تفضیل کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق بواسطہ موصوف محذوف شئیء کے مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ اَلتَّارُ مبتدأ، وَعَدَّ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، اَوَّل لفظ اللہ فاعل الذین کفروا موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استینا نیر یئس فعل ذم البصیر اس کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے ہی اور ہی کا مرجع التار ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مستانفہ ہوا۔

﴿ ۱۰ ﴾ رکوع نمبر ۱۰ ﴿ ۱۰ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا لَهُ ط إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ط وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ط
صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ ۱۱ ﴾

آیت نمبر ۷۳: بآء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انا ضمیر مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تمبیه النَّاسُ صفت، دونوں مل کر محلاً منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء ضَرْبٌ مَثَلٌ فعل مجہول مَثَلٌ نائب فاعل، دونوں مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَرَدْتُمْ الْعِزَّةَ اسْتَبِعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزء، شرط با جزء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق الذین اسم موصول تَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل ہُم ضمیر منصوب محذوف ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ جار مجرور طرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ اِنْ کا اسم لَنْ يَخْلُقُوا فعل واو ضمیر فاعل ذُبَابًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

واو حالیہ لَوْ حرف شرط اجْتَمَعُوا فعل واو ضمیر فاعل لہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزء محذوف ہے لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا، شرط با جزء جملہ شرطیہ ذُبَابًا سے حال ہے۔ واو عاطفہ اِنْ حرف شرط يَسْلُبُ فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الذباب فاعل شَيْئًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ فعل واو ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ، مِنْهُ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزء، شرط با جزء جملہ شرطیہ ہو کر اِنْ الذین ... الخ پر معطوف ہے، صَعَفَ فعل الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ط إِنَّ اللَّهَ نَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ۱۲ ﴾

آیت نمبر ۷۴: مَا نائیہ قَدَرُوا فعل واو ضمیر فاعل لفظ اللہ مفعول بہ حَقَّ قَدْرِهِ مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل بافاعل

و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لام مذ حلقہ قوی عَزِيْزٌ و خبر ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: اللہ مبتدا، یصطفی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل رُسُلًا مفعول بہ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جار مجرور معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مِنَ النَّاسِ جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم سَمِيعٌ بَصِيْرٌ و خبر ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول بَيْنَ مضاف اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف ثَبَّتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی فعل محذوف ثَبَّتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، يَعْلَمُ اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِلَى اللَّهِ جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تُرْجَعُ فعل مجہول الْأُمُورُ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ یا ان کی خبر ثالث ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: یَا ایاء حرف ندا اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تنبیہ، الَّذِينَ اسم موصول اٰمَنُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مجلّا منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندا، اِرْكَعُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَسْجُدُوا و اٰمَنُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ اَعْبُدُوا و اٰمَنُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل، رَبَّكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ اَفْعَلُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل الْخَيْرَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ ندا کا جواب، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔ لَعَلَّ حرف ترجی کُمہ ضمیر منصوب اس کا اسم تُفْلِحُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر ایچی الْفَلَاحِ کی تاویل میں ہو کر اَفْعَلُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا

الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۵۸﴾

ترکیب سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ
خٰشِعُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فِعْلُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵: قَدْ اَفْلَحَ فعل متعلق مقدم ہوئے الْمُؤْمِنُونَ موصوفِ الَّذِیْنَ اسم موصول ہُمْ ضمیر مبتدا فی حرف جر صَلَاتِهِمْ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے خٰشِعُونَ اسم فاعل اپنے ہُمْ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُونَ کی ترکیب الَّذِیْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ کی مثل ہے اور یہ معطوف اول ہے، واو عاطفہ الَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فِعْلُونَ کی ترکیب الَّذِیْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ کی مثل ہے اور یہ معطوف ثانی ہے، واو عاطفہ الَّذِیْنَ اسم موصول ہُمْ ضمیر مبتدا لامر حرف جار فُرُوْجِهِمْ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے حٰفِظُونَ اسم فاعل اپنے ہُمْ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، معطوفات ثلاثہ الْمُؤْمِنُونَ کی صفت، موصول با صفت فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

اِلَّا عَلٰی اٰزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۶: اِلَّا حرف استثناء علی حرف جار اٰزْوَاجِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، او عاطفہ مَا اسم موصول مَلَكَتْ فعل اَیْمَانُهُمْ مرکب اضافی فاعل بدو نون مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار با مجرد مستثنیٰ مفرغ ظرف لغو حٰفِظُونَ کے متعلق ثانی ہوئے، بقاے برائے تعلیل اِنَّ حرف تحقیق ہُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ مرکب اضافی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَمِنْ اِبْتِغٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

آیت نمبر ۷: فَاوَعَطْفٌ مِّنْ اِسْمِ مَوْصُولِ اِبْتِغٰی فَعْلٌ مُّسْتَرْتَفِعٌ وَرَآءَ ذٰلِكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ تَمِيْنٌ مَلْ كَر صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاصْلٍ مَبْتَدَاً مُتَّفَعٌ مَعْنَى شَرْطٍ بَقَاءِ جَزَائِيَّةٍ اَوْ لَيْكَا اِسْمٌ اَشَدُّ مَبْتَدَاً هُمْ ضَمِيْرُ فَعْلِ الْعٰدُوْنَ خَبْرٌ مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْنَى كِي خَبْرٌ قَامٌ مَقَامَ جَزَاءٍ مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا مُنْتَهٰی لَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رُعُوْبٌ ۝

آیت نمبر ۸: واو عاطفہ الَّذِیْنَ اسم موصول ہُمْ ضمیر مبتدا لامر حرف جر اَمْنَتِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ

عَهْدِهِمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ بِجَرِّ وِرْ، جَارٌ بِجَرِّ وِرْ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ هُوَ، زَعُوْنَ اِسْمُ فَاعِلٍ اِپْنِ هُمْ ضَمِيْرٌ مُشْتَرِكٌ فَاعِلٌ
وَمُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ سَلْ كَرِخِرْ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَاسِطَةِ عَطْفِ الْمُؤْمِنُوْنَ كِي صِفْتٌ هِيَ۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوةِيْهِمْ يٰحَافِظُوْنَ ﴿١٠﴾

آيَتِ نَمْبِرِ ۹: وَاَوْعَاطِفَةُ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُّوَصُوْلٌ هُمْ ضَمِيْرٌ مُّبْتَدَاٌ، عَلٰى حَرْفٌ جَرِّ صَلٰوةِيْهِمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ بِجَرِّ وِرْ، جَارٌ بِجَرِّ وِرْ ظَرْفٌ لِنَفْوِ
مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ هُوَ يٰحَافِظُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، تَمِيْنُوْنَ سَلْ كَرِخِرْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَةٌ، مُوَصُوْلٌ بِاصْلِهِ بِوَاسِطَةِ
عَطْفِ الْمُؤْمِنُوْنَ كِي صِفْتٌ هِيَ۔

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ﴿١١﴾ الَّذِيْنَ يَرِيْثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٢﴾

آيَتِ نَمْبِرِ ۱۰: اُولٰٓئِكَ اِسْمٌ اَشَدُّهُ مُبْتَدَاٌ، هُمْ ضَمِيْرٌ بَرَاۓِ فِعْلِ الْوَارِثُوْنَ مُوَصُوْفٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُّوَصُوْلٌ يَرِيْثُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ
ذُو الْاِحَالِ هُمْ ضَمِيْرٌ مُّبْتَدَاٌ، فِيْهَا جَارٌ بِجَرِّ وِرْ ظَرْفٌ لِنَفْوِ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ هُوَ خَلِدُوْنَ اِسْمٌ فَاعِلٍ اِپْنِ هُمْ ضَمِيْرٌ مُشْتَرِكٌ فَاعِلٌ اُوْرٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ سَلْ
كَرِخِرْ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، ذُو الْاِحَالِ بِاِحَالِ يَرِيْثُوْنَ كَا فَاعِلِ الْفِرْدَوْسَ مَفْعُوْلٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَةٌ،
مُوَصُوْلٌ بِاصْلِهِ الْوَارِثُوْنَ كِي صِفْتٌ، مُوَصُوْفٌ بِصِفْتِ خَبْرٍ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٣﴾

آيَتِ نَمْبِرِ ۱۲: وَاَوْاِسْتِيْنَا فِيْهٖ لَآمِرٌ مُّوَطَّءٌ لِّلْقِسْمِ اُوْرٍ قِسْمٌ مَّخْذُوْفٌ هِيَ قَدْ عَلَامَتٌ فِعْلٌ، خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الْاِنْسَانَ مَفْعُوْلٌ بِهِ،
مِنْ حَرْفٌ جَرِّ سُلٰلَةٍ مُوَصُوْفٌ مِنْ طِيْنٍ جَارٌ بِجَرِّ وِرْ ظَرْفٌ سَتَقْرٌ كَاۓِنَةٌ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخِرْ، مُوَصُوْفٌ بِصِفْتِ جَرِّ وِرْ، جَارٌ بِجَرِّ وِرْ ظَرْفٌ
لِنَفْوِ خَلَقْنَا كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قِسْمٌ كَا جَوَابٌ، قِسْمٌ بِاِجَوَابِ قِسْمِ جُمْلَةٌ قِسْمِيَّةٌ مُتَافِرَةٌ هِيَ۔

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٤﴾

آيَتِ نَمْبِرِ ۱۳: ثُمَّ عَاطِفَةٌ جَعَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ اُوْلُ نُطْفَةً مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فِيْ حَرْفِ جَرِّ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ
مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ بِجَرِّ وِرْ، جَارٌ بِجَرِّ وِرْ ظَرْفٌ لِنَفْوِ جَعَلْنَا كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنِ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَلَقْنَا كِي مَعْطُوْفٌ هِيَ۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنُهُ خَلَقًا اٰخَرَ طَفَتَبْرِكُ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٥﴾

آيَتِ نَمْبِرِ ۱۴: ثُمَّ عَاطِفَةٌ خَلَقْنَا بِمَعْنٰى صَيَّرْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ النُّطْفَةَ مَفْعُوْلٌ بِهِ اُوْلُ، عَلَقَةً مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنِ
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، فَاۓ عَاطِفَةٌ خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الْعَلَقَةَ مَفْعُوْلٌ بِهِ اُوْلُ، مُضْغَةً مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنِ جُمْلَةٌ
فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ اُوْلُ، فَاۓ عَاطِفَةٌ خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الْمُضْغَةَ مَفْعُوْلٌ بِهِ اُوْلُ عِظْمًا مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفِيْنِ جَعَلْنَا كِي مَعْطُوْفٌ هِيَ۔ فَاۓ عَاطِفَةٌ كَسَوْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الْعِظْمَ مَفْعُوْلٌ بِهِ اُوْلُ لَحْمًا مَفْعُوْلٌ بِهِ
ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ اَنْشَاْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ ذُو الْاِحَالِ خَلَقًا مُوَصُوْفٌ اٰخَرَ اِسْمٌ

تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوف باصفت حال، بذوالحال باحال اَنْشَأْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خَلَقْنَا الْمُضَعَّفَ پر معطوف ہے۔ فاء استینائیہ تَبْرُکُ فعل اللہ اسم الجلال مبدل من اَحْسَنُ الْخَلِیْقِیْنَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ دعائیہ مستانہ ہو۔

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَتُونَ ۝

آیت نمبر ۱۵، ۱۶: ثُمَّ عَاطِرَانَ حَرْف تَحْقِيقٍ كُمْ ضَمِيرٌ اس کا اسم بَعْدَ ذَلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم لام نہ طلقہ مَيْتُونَ صیغہ صفت اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و مفعول فیہ مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِرَانَ حَرْف تَحْقِيقٍ كُمْ ضَمِيرٌ اس کا اسم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم، تَبْعَتُونَ فعل مجہول وَا الضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْشَأْنَاهُ پر معطوف ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقٍ ۝ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷: وَاوَاثِنَا فِي لَاهِ مَوْطِءٍ لِّلْقِسْمِ اور قِسْمٍ مَّزْدُوفٍ ۝ قَدْ عَامَتِ فِعْلٌ خَلَقْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فَوْقَكُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ سَبْعٌ طَرَآئِقٍ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ يَامِيْزٌ يَامِيْزٌ بِاَمِيْزٍ مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بافاعل و مفعول لِيْنَ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔ وَاوَاثِنَا فِي لَاهِ مَوْطِءٍ لِّلْقِسْمِ اِسْمٌ نَا قِصْ نَا ضَمِيرٌ اس کا اسم عَنِ الْخَلْقِ جَدِ بِاَجْرٍ و ر متعلق مقدم ہوئے غَافِلِينَ اِسْمٌ فَاعِلٌ لِنَحْنُ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ، اِسْمٌ فَاعِلٌ بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقْنَا كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سے حال ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنْتَهُ فِي الْاَرْضِ ۝ وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۸: وَاوَاثِنَا فِي لَاهِ مَوْطِءٍ لِّلْقِسْمِ اور قِسْمٍ مَّزْدُوفٍ ۝ قَدْ عَامَتِ فِعْلٌ خَلَقْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنَ السَّمَاءِ جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف لغو متعلق ہوئے مَاءً مَوْصُوفٌ بِقَدَرٍ جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف مستقر كَاتِبَاتٍ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَر صَفْتٍ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتٍ اَنْزَلْنَا كَا مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاءٌ عَاطِفَةٌ اَسْكَنْتَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ فِيهِ الْاَرْضِ جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف لغو متعلق ہوئے، فِعْلٌ بافاعل، مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خَلَقْنَا پر معطوف ہے۔ وَاوَاثِنَا فِي لَاهِ مَوْطِءٍ لِّلْقِسْمِ اِسْمٌ عَلٰى حَرْفِ جَدِ ذَهَابٍ مَصْدَرٌ فِيهِ جَدِ بِاَجْرٍ و ر مَصْدَرٌ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ، مَصْدَرٌ مَتَلَقٌ مَتَلَقٌ سے مل کر مجرور، جَدِ بِاَجْرٍ و ر متعلق مقدم ہوئے، لَاهِ مَوْطِءٍ قَدِرُونَ اِسْمٌ فَاعِلٌ لِنَحْنُ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ، اِسْمٌ فَاعِلٌ بافاعل و متعلق مقدم مل کر شبہ جملہ ہو کر اِنَّ كِي خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَسْكَنْتَا كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سے حال ہے۔

فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهَ كَثِيْرَةً ۝ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَ صَبِغٍ لِلالِكِلِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹، ۲۰: فَاءٌ عَاطِفَةٌ اَنْشَأْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ لَكُمْ جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف لغو متعلق اول ہوئے، فِيهِ جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف متعلق ثانی ہوئے، جَنَّتِ مَوْصُوفٌ مِنْ حَرْفِ جَرٍ نَخِيْلٍ وَ اَعْنَابٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَجْرُورٍ، جَدِ بِاَجْرٍ و ر ظرف مستقر كَاتِبَاتٍ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَر

صفت اولیٰ، لکن جہ باجر و طرف مستقر ہو کر کائنات کے متعلق ہوئے کائنات اسم فاعل ہی ضمیر مستتر فاعل فیہا جہ باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے کائنات اسم فاعل اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم فوا کیہ کی خبر مقدمہ مرکب تو صیغی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ منہا جہ باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تاکلون فعل واو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جنت کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف علیہ، واو عاطفہ شجرۃ موصوف تخرج فعل ہی ضمیر مستتر ذوالحال تکبث فعل ہی ضمیر مستتر فاعل باء حرف جر الدھن معطوف علیہ، واو عاطفہ صبیغ موصوف لام حرف جر الاکلین مجرور، جار باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجر و تکبث کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال تخرج کا فاعل من حرف جر طور سیناء مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف لغو تخرج کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شجرۃ کی صفت، موصوف با صفت جنت پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف انشائا کا مفعول بہ ہے، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اسکنائہ معطوف ہے۔

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَنْسُقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُوْنِهَا وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۲، ۲۱: واو عاطفہ ان حرف تحقیق لکم جار باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے کائنات اسم فاعل ہی ضمیر مستتر فاعل فی الاعمام جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ خبرۃ اسم مؤخر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لقد خلقنا پر معطوف ہے۔ نسقی فعل نحن ضمیر مستتر فاعل کم ضمیر منصوب مفعول بہ من حرف جر ما اسم موصول فی حرف جر بطونها مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول حاصلہ مجرور، جار باجر و نسقی کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکم جار باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے کائنات اسم فاعل ہی ضمیر مستتر فاعل فیہا جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم منافع کثیرۃ مرکب تو صیغی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ منہا جار باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تاکلون فعل واو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ علیہا جار باجر و معطوف علیہ، واو عاطفہ علی الفلک جار باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تحملون فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجهول با نائب فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوف ہوں۔

﴿۲۲﴾ رکوٰۃ نمبر ۲ ﴿۲۳﴾

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اِقْبِرُوْا اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۳: واؤ استینافیہ لآہ موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَرْسَلْنَا فَعْلًا تَا ضَمِيرُ فاعِلٍ نُوْحًا مفعولٌ بِرِالِي حرف جر قَوْمِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاہ عاطفہ قَالَ فَعْلًا هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ، دونوں مل کر قول، یَاہ حرف اندہ اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فَعْلًا اَنَا ضَمِيرُ فاعِلٍ قَوْمِهِ یہ اصل میں قَوْمِي ہے اور یہ مثالی مضاف منسوب تقدیر مفعول بہ ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ اندہ، اُعْبُدُوا فَعْلًا اَمْرٌ وَاوْ ضَمِيرُ فاعِلٍ لَفْظِ اَللّٰهِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب اندہ، پھر اندہ با جواب مقولہ، قول با مقولہ معطوف، دونوں مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ مستانفہ ہوں مآثانیہ لَکُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں حرف جر زائد اِلٰی لَفْظًا مجرور مَعْلَمٌ مرفوع موصوف غَیْرُ تَا مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ یا مستانفہ مبینہ ہوں لَہْمَا حرف استفہام فَاہ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے عَصَيْتُمْ، لَا تَتَّقُونَ فَعْلًا وَاوْ ضَمِيرُ فاعِلٍ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَاَوْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَانزَلَ مَلٰٓئِكَةً مِّنْ سَمٰٓءٍ مَّيْمٰنٍ سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝۲۴

آیت نمبر ۲۴: فَاہ استینافیہ قَالَ فَعْلًا الْمَلَاُ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوْا فَعْلًا وَاوْ ضَمِيرٌ وَاوْ لِحَالٍ مِنْ قَوْمِهِ جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ قَالَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مآثانیہ هَذَا اسم اشارہ مبتدا، اِلَّا حرف استثناء بَشَرٌ موصوف مِثْلُكُمْ مرکب اضافی صفت اولی، يُرِيْدُ فَعْلًا هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ فاعِلٍ وَنَسْبٌ يَّتَفَضَّلَ فَعْلًا هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فاعِلٍ عَلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر يُرِيْدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بَشَرٌ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مستثنیٰ مفرغ ہو کر هَذَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَوْ حرف شرط غیر لازم سَمَاءٌ فَعْلًا لَفْظًا اَللّٰهُ فاعِلٍ، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآہ جوابیہ برائے تاکید، اَنْزَلَ فَعْلًا هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فاعِلٍ مَلٰٓئِكَةً مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں مآثانیہ سَمِعْنَا فَعْلًا تَا ضَمِيرُ فاعِلٍ بِهٰذَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے فی حرف جر اَبَائِنَا مرکب اضافی موصوف الْاَوَّلِيْنَ صیغہ صفت ہُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حٰجِبِيْنَ ۝۲۵

آیت نمبر ۲۵: اِنْ نَافِيَةٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مُبْتَدَا، اِلَّا حرف استثناء رَجُلٌ موصوف بِهٖ جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّةٌ مُبْتَدَا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں فَاہ نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَرْذَلْتُمْ مَعْرِفَةً حَقِيْقَةً هَذَا الرَّجُلِ، تَرَبَّصُوْا فَعْلًا اَمْرٌ وَاوْ ضَمِيرُ فاعِلٍ بِهٖ جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، حَتّٰى حٰجِبِيْنَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۲۹، ۲۸: فاء عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم استوویت فعل تاء مفتوحہ ضمیر مؤکد، انت ضمیر مرفوع متصل تاکید، مؤکد بتاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول معک مرکب اضافی فعل محذوف ثبتت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف استوویت کا فاعل علی الفلک جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء عاطفہ قل فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ ہو کر قول، الحمد مبتدا، لام حرف جر اللہ موصوف الذی اسم موصول نتیجی فعل هو ضمیر مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، من حرف جر القوم الظالمین مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور طرف لغو نتیجی کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قل فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، و بت یہ اصل میں یا ربی ہے اور یہ ندا ہے انزل فعل امر انت مستتر فاعل نون برائے و قایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ منزل مصدر یہی موصوف مبذول کا اسم مفعول هو مستتر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف باصفت انزل کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ندا کا جواب، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف اذا استوویت کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر اذا جاء۔ الخ پر معطوف ہے واو حالیہ انت ضمیر مرفوع مبتدا، خیر المیزلین مرکب اضافی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انزل کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: ان حرف تحقیق فی ذلک جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ آیت منصوب بالکسرہ اسم مؤخر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان محذوف من الشکک ضمیر شان مقدر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم لام فارقہ مُبْتَلِينَ اسم فاعل نحن مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ثم عاطفہ انشأنا فعل تا ضمیر فاعل من حرف جر بعدہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے قرنا آخرین مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کُنَّا پر معطوف ہے۔

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعبُدوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: فاء عاطفہ أرسلنا فعل تا ضمیر فاعل فیہم جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے رسولاً موصوف منہم جار

مجروح طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت اوستلنا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انشائیہ معطوف ہے۔ ان حرف مصدری و نصب اُعْبُدُوا و فعل امر واو ضمیر فاعل لفظاً اللہ مفعول بہ، تینوں مل کر تاویل مصدر مجروح ہے حرف جر مخذوف بآء کے لئے، جار مجروح طرف لغواً اوستلنا کے متعلق ہوئے، مانا فیہ لکنہ جار مجروح طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں حرف جر زائد الیہ لفظاً مجروحاً مفعول غیرہ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ اَفَلَا تَتَّقُونَ کی ترکیب اسی سورت کی آیت نمبر ۲۳ میں گزر چکی ہے۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استینا فی قَالَ فعل التلاذ وال حال میں حرف جر قومه مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول کَفَرُوا و فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَذَّبُوا و فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جر لِقَاءِ الْآخِرَةِ مرکب اضافی مجروح، جار مجروح طرف لغواً کَذَّبُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتَرَفْنَاهُمْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ فی حرف جر الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مجروح، جار مجروح طرف لغواً متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ قَوْمِهِ کی صفت ہے، موصوف ہفت مجروح، جار مجروح طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قَالَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مانا یہ ہذا اسم اشارہ مبتدا، الا حرف استثناء بَشَرٌ موصوف مِثْلُكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

يَأْكُلُ فعل هُوَ مستتر فاعل میں حرف جر مَا اسم موصول تَأْكُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْهُ جار مجروح طرف لغواً متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ میں جار مجروح، جار مجروح طرف لغواً يَأْكُلُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَشْرَبُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل میں حرف جر مَا اسم موصول تَشْرَبُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجروح، جار مجروح طرف لغواً يَشْرَبُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہے یا يَشْرَبُ کا حال۔

سوال: آپ نے کہا بَشَرٌ موصوف اور مِثْلُكُمْ اس کی صفت ہے، حالانکہ بَشَرٌ مکرمہ ہے اور مِثْلُكُمْ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے تو موصوف اور صفت کے درمیان تعریف اور تکمیل کے اعتبار سے مطابقت نہ ہوئی حالانکہ مطابقت ضروری ہے

جواب: لفظ مثل ان اسامیٰ سے ہے جو متوغل فی الابهام ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں بنتے۔ لہذا لفظ مثل بھی مکرمہ ہے لہذا موصوف اور صفت دونوں مکرمہ ہوئے۔ (فلا اعتراض)

وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤ عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے۔ ان حرف شرطاً أَطَعْتُمْ فعل کُم ضمیر فاعل بَشْرًا موصوف
مِثْلَكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ان حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم اِذَا
حرف جواب وجزاء مہمل، لام مذہلقہ خُسِرُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ
خبریہ ہو کر قسم محذوف کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر بواسطہ
عطف قال کا مقولہ ہے۔

اَيَعِدُّكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: ہمزہ حرف استفہام یَعِدُّ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اول اَنْ حرف تحقیق کُم ضمیر
منصوب اس کا اسم اِذَا ظرف زمان مضاف مِتُّمْ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کُنْتُمْ فعل ناقص کُم ضمیر مرفوع اس
کا اسم تُرَابًا وَّ عِظَامًا معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف ملامجر و اِذَا
کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مُخْرَجُونَ کا مفعول فیہ مقدم ہے، اَنْتُمْ یہ پہلے اَنْتُمْ کی تاکید ہے مُخْرَجُونَ اسم مفعول اَنْتُمْ
ضمیر مستتر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر
یَعِدُّ کا مفعول بہ ثانی ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

هِيَ هَاتِ هِي هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: هِيَ هَاتِ اسم فعل ماضی بمعنی بَعْدُ مَوَكَّدٌ هِيَ هَاتِ ثانی اس کی تاکید ہے لام حرف جر زائد مَا مصدر یہ تُوْعَدُونَ
فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر تاویل مصدر هِيَ هَاتِ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: اِنْ حرف نفی ہی ضمیر مبتدا، اِلَّا حرف استثناء حَيَاتُنَا مرکب اضافی موصوف الدُّنْيَا صفت، موصوف باصفت
مستثنیٰ مفرغ ہو کر ہی کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ نَمُوتُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،
واؤ عاطفہ نَحْيَا فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ مَا نَا نایہ مجازیہ نَحْنُ ضمیر منفصل مبتدا، اِنَّمَا
حرف جر زائد مَبْعُوْثِيْنَ اسم مفعول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل، اسم مفعول با نائب فاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، مَا مجازیہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ
خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین یا تَوَحَّيَاتُنَا کی ضمیر ناک سے حال ہے یا جملہ متانفہ ہے۔

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرَىٰ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا وَّ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: اِنْ حرف نفی ہو ضمیر مرفوع مبتدا، اِلَّا حرف استثناء رَجُلٌ موصوف اِفْتَرَىٰ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل عَلٰى اللّٰهِ
جاء مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے کَذِبًا شَيْئًا مَكْذُوبًا کی تاویل میں ہو کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،

واو عاطفہ ما مجازیہ نَحْنُ ضمیر منفصل اس کا اسم لہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بئاء حرف جر زائد مؤمِنِينَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم لفظا مجرور عملاً منصوب شبہ جملہ ہو کر خبر، ما مجازیہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف رَجُل کی صفت ہے، موصوف بہ صفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ⑤

آیت نمبر ۳۹: قَالَ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یا رَتَبِ ہے اور یہ نداء ہے، انصُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، بئاء حرف جر زائد ما مصدریہ كَذَّبْتَنِي فاعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء محذوف ضمیر مفعول بہ ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو انصُرْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر نداء کا جواب، پھر نداء کا جواب مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحَ نَادِمِينَ ⑥

آیت نمبر ۴۰: قَالَ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، عَمَّا حرف جر ما زائد قَلِيلٍ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو نَادِمِينَ کے متعلق مقدم ہوئے، لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے يُصْبِحُ فاعل ناقص واو محذوف لالتقاء الساکنین اس کا اسم نَادِمِينَ اسم فاعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر قسم محذوف کا جواب، قسم کا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متنازعہ ہوں۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑦

آیت نمبر ۴۱: فَاء استینافیہ اَخَذَتْ فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم الصَّيْحَةُ ذوالحال، بِالْحَقِّ جار با مجرور ظرف مستقر مُتَلَكِّسَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ جَعَلْنَاهُمْ فاعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، غُثَاءً مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازعہ ہوں۔ فَاء تسمیہ بَعْدًا مفعول مطلق فعل محذوف اُبْعُدُوا کا، اُبْعُدُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل، لام حرف جر القَوْمِ الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف کے، فعل با فاعل و متعلق مطلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

ثُمَّ اَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِيْنَ ⑧

آیت نمبر ۴۲: ثُمَّ عاطفہ اَنْشَانَا فاعل نا ضمیر فاعل مِنْ حرف جر بَعْدِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قُرُونًا اٰخَرِيْنَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَخَذَتْهُمْ معطوف ہے۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ⑨

آیت نمبر ۴۳: مَا نافیہ تَسْبِقُ فاعل مِنْ حرف جر اُمَّةٍ لفظا مجرور عملاً مرفوع فاعل اَجَلَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نافیہ يَسْتَاخِرُونَ فاعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْشَانَا معطوف ہے یا قُرُونًا اٰخَرِيْنَ کی صفت ہے۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَ
جَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: ثُمَّ حرف عطف اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل رُسُلْنَا مرکب اضافی ذوالحال تَتْرًا مصدر بمعنی اسم فاعل حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْشَأْنَا پر معطوف ہے۔ کُلَّمَا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل اُمَّةٌ مفعول بہ مقدم رَسُولَهَا مرکب اضافی فاعل مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، کَذَّبُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل ؤ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاء عاطفہ اَتَّبَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل بَعْضَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول بَعْضًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول اَحَادِيْثٍ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَرْسَلْنَا پر معطوف ہے۔ فَاء عاطفہ بَعْدًا مصدر مفعول مطلق ہے فعل محذوف اُبْعُدُوْا کا، اُبْعُدُوْا فعل امر واؤ ضمیر اس کا فاعل، لام حرف جار قَوْمٍ موصوف لَآ يُؤْمِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَوْمٍ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور فعل محذوف کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول مطلق و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قُلْنَا محذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَاهُمْ معطوف ہے۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِآيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۵﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِئِهٖ
فَاَسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا عٰلِيْنَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۵، ۳۶: ثُمَّ حرف عطف اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مُوسٰى منصوب تقدیر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَخَاهُ مرکب اضافی مبدل منہ، هٰرُوْنَ بدل، مبدل منہ بادل معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف ذوالحال، بَاء حرف جر اَيٰتِنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر مُتَكَبِّرِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اَرْسَلْنَا کا مفعول بہ، اِلٰى حرف جر فِرْعَوْنَ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَلٰٓئِئِهٖ مرکب اضافی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور اَرْسَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَرْسَلْنَا پر معطوف ہے۔ فَاء عاطفہ اَسْتَكْبَرُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ كَانُوْا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم، قَوْمًا موصوف عٰلِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَرْسَلْنَا مُوسٰى پر معطوف ہے۔

فَقَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ لِّبَشَرِيْنَ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِّنْ
الْمُهْلِكِيْنَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۷، ۳۸: فَاء عاطفہ قَالُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزه حرف استفہام اَنْتُمْ مِّنْ فعل

تَجْنُ مُسْتَرَزِدًا لِحَالٍ، وَاَوْ حَالِيَةً قَوْ مَهْمَا مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ مَبْتَدَاً لِنَا جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْ مُتَعَلِّقٍ مُقَدَّمٍ هُوَ عَيْدٌ وَنَ اسْمِ فَاعِلٍ هُمَا ضَمِيرٌ مُسْتَرَزِدٌ
 فَاعِلٌ، اسْمِ فَاعِلٍ بِاِضَافَةٍ مُتَعَلِّقٍ مُقَدَّمٍ سَلْ كَرِشِبَةٍ جَمَلَةٍ هُوَ كَرِشِبَةٍ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ حَالٍ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالٍ نُوْمِنٌ كَا فَاعِلٍ لَامٍ حَرْفِ جَرٍ
 بِشَمْرَيْنِ مَوْصُوفٍ مِثْلِنَا مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ صِفَتِ، مَوْصُوفٍ بِاِصْفَتِ مَجْرُورٍ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْ نُؤْمِنُ كَيْ مَتَعَلِّقٍ هُوَ، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ مُتَعَلِّقٍ
 جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ اِسْتِفْهَامِيَّةٍ مَقُولَةٍ، قَوْلٍ بِمَقُولَةٍ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، فَاءٌ عَاطِفَةٌ كَذَبُوا فِعْلٍ وَاَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُمَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ
 وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اِسْتِغْبَاؤُ وَاَوْ مَعْطُوفٌ هُوَ۔ فَاءٌ عَاطِفَةٌ كَانُوا فِعْلٍ نَا قِصِّ وَاَوْ ضَمِيرٌ اسْمِ كَا اسْمِ، مِثْلِ
 اَلْمُهَلِّكِينَ جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَرَزِدٌ كَانُوا كَيْ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِشِبَةٍ، فِعْلٍ نَا قِصِّ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ كَذَبُوا هُمَا بِمَعْطُوفٍ هُوَ۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾

آیت نمبر ۵۹: وَاَوْ اِسْتِغْبَاؤُ لَامٍ مَوْصُوفٍ لِقِسْمٍ اَوْ قِسْمٍ مَحْذُوفٍ هُوَ قَدْ عَلَمَاتِ فِعْلٍ، اَتَيْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مُوسَى مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ،
 الْكِتَابُ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ وَمَفْعُولِينَ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ قِسْمٍ كَا جَوَابٍ، قِسْمٍ بِاِجَوَابِ جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ قِسْمِيَّةٍ هُوَ لَعَلَّ حَرْفٌ تَرْجِيٌّ هُمَا ضَمِيرٌ اسْمِ كَا
 اسْمِ تَهْتَدُونَ فِعْلٍ وَاَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، دُونِ مَلْ كَرِشِبَةٍ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ كَرِشِبَةٍ، حَرْفٌ تَرْجِيٌّ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ تَرْجِيَّةٍ هُوَ كَرِشِبَةٍ اِلِ اِلْهْتَدَا اَوَّلِ كَا
 تَاوِيلِ مِثْلِ هُوَ كَرِشِبَةٍ كَيْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ حَالٍ هُوَ۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ آيَةً وَاَوْ اِيْنَهُمَا اِلَى رَبُّوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَاَوْ مَعِينٍ ﴿٥٠﴾

آیت نمبر ۵۰: وَاَوْ عَاطِفَةٌ جَعَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اِبْنَ مَرْيَمَ مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اُمَّهُ مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ
 مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلِ آيَةٍ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ وَمَفْعُولِينَ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اُوَيْنَا فِعْلٌ نَا
 ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُمَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِرَالِي حَرْفِ جَرٍ رَبُّوَةٍ مَوْصُوفٍ ذَاتِ مَضَافٍ قَرَارٍ وَاَوْ مَعِينٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، پھر مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ
 رَبُّوَةٍ كَيْ صِفَتِ، مَرْكَبِ تَوْصِيفِيٍّ مَجْرُورٍ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْ اُوَيْنَا كَيْ مَتَعَلِّقٍ هُوَ، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَاَوْ مَعِينٍ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٍ،
 مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اَتَيْنَا مُوسَى بِمَعْطُوفٍ هُوَ۔

﴿٥٠﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ٣ ﴿٥١﴾

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

آیت نمبر ۵۱: يَا حَرْفٌ نِدَاءٌ اَدْعَاؤُ كَيْ قَائِمٌ مَقَامِ، اَدْعَاؤُ فِعْلٌ اِنَّا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اِنَّا مَوْصُوفٍ بِاِمْبَدَلٍ مِنْهُ هَا اِبْرَائِيْمُ تَعْبِيَةُ الرُّسُلِ
 صِفَتِ يَابَدَلِ، مَوْصُوفٍ بِصِفَتِ مَعْلَا مَنْصُوبٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ هُوَ كَرِشِبَةٍ، كَلُّوا فِعْلٌ اِمْرَاؤُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، فِعْلٍ بِاِضَافَةٍ وَمَتَعَلِّقٍ جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اَعْمَلُوا فِعْلٌ اِمْرَاؤُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ صَالِحًا بِاِسْمِ
 مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ عَمَلًا كَيْ مَفْعُولٍ مُطْلَقٍ هُوَ، يَا صَالِحًا مَفْعُولٌ بِهِ هُوَ، تَيْنِ مَلْ كَرِشِبَةٍ اِنشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نِدَاءِ كَا
 جَوَابِ، نِدَاءِ بِاِجَوَابِ جَمَلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ نِدَائِيَّةٍ هُوَ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ يَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ اسْمِ كَا اسْمِ نِدَاءِ حَرْفِ جَرٍ مَوْصُوفٍ تَعْمَلُونَ فِعْلٍ اِبَادَاؤُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ
 جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٍ، مَوْصُوفٍ بِاصْلَةٍ مَجْرُورٍ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْ مُتَعَلِّقٍ مُقَدَّمٍ هُوَ عَلِيمٌ صِفَتِ اِنَّا مُسْتَرَزِدٌ فَاعِلٌ صِيغَةُ صِفَتِ بِاِضَافَةٍ
 وَمَتَعَلِّقٍ مُقَدَّمِ اِنَّ كَيْ خَبْرٍ اِنَّ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ هُوَ۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: واؤ استینا فیہ یا عطف قرآن حرف تحقیق ہذا اسم اشارہ اس کا اسم اُمَّتُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال اُمَّةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی حال بذوالحال باحال خبر، اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف انا ضمیر مبتدا، رَبُّكُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہول یا بواسطہ عطف کے جواب نداء ہے۔ فقاء استینا فیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا تَقِيتُمْ بِكُوفِي رَبِّي (از فقیر) اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ اور یاء محذوفہ لسناسیہ بالقواصل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہول۔

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: فقاء استینا فیہ تَقَطَّعُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال زُبُرًا حال، ذوالحال باحال فاعل أَمْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ مستانف ہول۔ كُلُّ حِزْبٍ مرکب اضافی مبتدا، بَاء حرف جرہ اسم موصول لَدَيْهِمْ مرکب اضافی فعل محذوف ثَبَّتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے فَرِحُونَ صیغہ صفت ہُمْ ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول۔

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: فقاء استینا فیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اِنَّ يَفْرَحُوا بِمَا لَدَيْهِمْ، مَذَّ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال فی حرف جر غَمَرَاتِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر مُتَخَضِّبِينَ کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال مفعول بہ حَتَّىٰ حِينٍ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۵۵﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۵، ۵۶: ہمزہ حرف استفہام أَيَحْسَبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق مَا اسم موصول لُمِدُّ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ حرف جر مَالٍ وَبَنِينَ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاثِرًا کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال اَنْ کا اسم، نُسَارِعُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل لَا حرف جر هُمْ ضمیر ذوالحال فی الْخَيْرَاتِ جار با مجرور ظرف مستقر کَاثِرِينَ کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یَحْسَبُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و متعلقین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہول بَلْ حرف عطف واضراب اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا تَفْعَلْ ذَلِكْ، لَا يَشْعُرُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہول۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۲﴾
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۶۳﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۴﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱: إِنَّ حرف تحقیق الَذِّیْنَ اسم موصول هُمْ ضمیر مبتدا، مِنْ حرف جر خَشِيَةِ مضاف رَّبِّهِمْ مرکب اضافی مضاف الیه، پھر مضاف بامضاف الیه مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُشْفِقُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَذِّیْنَ اسم موصول هُمْ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، بَاء حرف جر آیت مضاف رَّبِّهِمْ مرکب اضافی مضاف الیه، پھر مضاف بامضاف الیه بَاء کا مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے یُؤْمِنُونَ فعل داؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف اَوَّل، واو حرف عطف الَذِّیْنَ اسم موصول هُمْ ضمیر مرفوع مبتدا، بَاء حرف جر رَّبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لَا يُشْرِكُونَ فعل داؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ الَذِّیْنَ اسم موصول یُؤْتُونَ فعل داؤ ضمیر ذوالحال، قُلُوبُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، وَجِلَةٌ صیغہ صفت ہیج مستتر ضمیر فاعل، اَنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم الی حرف جر رَّبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے رَاجِعُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بنا ویل مفرد وَجِلَةٌ کا مفعول بہ، صیغہ صفت با فاعل و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال با حال یُؤْتُونَ کا فاعل مَا اسم موصول اَتَوْا فعل داؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ یُؤْتُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین إِنَّ کا اسم ہے، اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، یُسْرِعُونَ فعل داؤ ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَهَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے سَابِقُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال با حال یُسْرِعُونَ کا فاعل فِي الْخَيْرَاتِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازع ہو۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَكَذَٰلِكَ كَتَبْنَا بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۲: واو عاطفہ لَا تُكَلِّفُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل نَفْسًا مفعول بہ اَوَّل، اِلَّا حرف استثناء وُسْعَهَا مرکب اضافی مشتق مفرغ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَذَٰلِكَ امرکب اضافی کاتین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم کِتَابٌ موصوفہ یَنْطِقُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَتَلَبِّسَا کے متعلق ہو کر یَنْطِقُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يُظْلَمُونَ فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین إِنَّ الَذِّیْنَ مَعطوف ہے یا پھر جملہ متنازع ہے۔

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَ لَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُوْنَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: بَلْ حرف عطف و اضراب قُلُوْبُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، فی حرف جر غَمْرَةٍ موصوفہ موصوفہ مِنْ هَذَا جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لَّهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَعْمَالٌ موصوفہ مِنْ حرف جر دُوْنِ ذٰلِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، هُمْ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، لَهَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَمِلُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَعْمَالٌ کی صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطف جملہ متانفہ ہوا۔

حَتّٰی اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُوْنَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: حَتّٰی حرف ابتدا اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَخَذْنَا فاعل نا ضمیر فاعل مُتْرَفِيْهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ بِالْعَذَابِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اِذَا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم هُمْ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، يَجْعَرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

لَا تَجْعَرُوْا الْيَوْمَ فِدَايِكُمْ مِّمَّا لَا تَنْصَرُوْنَ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: لَا تَجْعَرُوْا فعل واو ضمیر فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم مینا جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لَا تَنْصَرُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

قَدْ كَانَتْ اٰتِي تَتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِيْضُوْنَ ﴿۶۶﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿۶۷﴾

سِيْرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۶، ۶۷، ۶۸: قَدْ علامت فعل كَانَتْ فعل ناقص اٰتِي مرکب اضافی مرفوع تقدیر اس کا اسم تَتْلٰى فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل عَلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق محلاً منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم علی حرف جار اَعْقَابِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَنْكِيْضُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال مُسْتَكْبِرِيْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل یہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال اولیٰ، سِيْرًا حال ثانیہ، تَهْجُرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر حال ثالث، ذوالحال باحوال ثلاث تَنْكِيْضُوْنَ کا فاعل ہے، فعل با فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر كُنْتُمْ کی خبر ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوا۔

عاطفہ ہُمُ ضمیر مبتدا، عَن حرف جرذِ کَرِہِمُ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مَعْرِضُونَ اسم فاعل ہُمُ ضمیر مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝۴۲

آیت نمبر ۴۲: اَمْ حرف عطف تَسْأَلُ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل ہُمُ ضمیر مفعول بہ اول، خَرْجًا مفعول بہ ثانی، فاعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں فاء تطلیق خَرَاجُ رَبِّكَ مرکب اضافی مبتدا، خَيْرٌ اسم تفضیل ہُو مستتر فاعل دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُو ضمیر مبتدا، خَيْرُ الرَّزَاقِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوں۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۴۳

آیت نمبر ۴۳: واو استینافیر اِنَّ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لام مذ حلقہ تَدْعُو فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل ہُمُ ضمیر منصوب مفعول بہ الی حرف جر صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو تَدْعُو کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَادِبًا بِمَجْرورٍ ظَرْفٍ لِّغَوْ

آیت نمبر ۴۴: واو عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل داو ضمیر فاعل بِالْآخِرَةِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم، عَنِ الصِّرَاطِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم، لام مذ حلقہ لَنْكِبُونَ اسم فاعل ہُمُ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اول پر معطوف ہے۔

www.kitabosunnat.com

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۴۵

آیت نمبر ۴۵: واو استینافیر لَوْ حرف شرط رَحِمْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہُمُ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَشَفْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَا اسم موصول بِهِمْ جاد باجرور ظرف مستقر فعل محذوف كَيْتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ ضُرٍّ جاد باجرور ظرف مستقر كَانُوا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال كَشَفْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لام جوائیہ لَجُّوا فعل داو ضمیر ذوالحال فی حرف جر طُغْيَانِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَعْمَهُونَ فعل داو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال لَجُّوا کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝۴۶

آیت نمبر ۴۶: واو استینافی لام موطنہ لَقَدْ اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل أَخَذْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہُمُ ضمیر منصوب

مفعول بہ بِالْعَذَابِ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ صا حرف نفی استنکائوا فعل واؤ ضمیر فاعل، لام حرف جرّ زہمّ مرکب اضافی مجرور، جارِ مجرور ظرف لغو استنکائوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ صا حرف نفی یَتَصَرَّعُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم محذوف کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبَابًا إِذَا عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: حَتَّىٰ حرف ابتداء إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم فَتَحْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمُ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے ابابا موصوف ذّا اسم از اسما سے مضاف عَذَابٌ شَدِيدٌ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ابابا کی صفت، موصوف باصفت فَتَحْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ إذا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم، هُمْ ضمیر مرفوع مبتدا، فِيهِ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُبْلِسُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

﴿ ۷۷ ﴾ رکوع نمبر ۵ ﴿ ۷۷ ﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: واؤ استینا فیہ هُوَ ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول أَنشَأَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل لام جارِ کُم ضمیر مجرور، جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ قَلِيلًا مؤکد مآ زائدہ تاکید، مؤکد با تاکید بواسطہ موصوف محذوف شُكِرُوا کے مفعول مطلق مقدم تَشْكُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: واؤ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول ذَرَأَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ فی الْأَرْضِ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ إِلَيْهِ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے تُحْشَرُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اباناب فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ متانفہ معطوف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واؤ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول يُحْيِي فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يُمِيتُ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَهُ جارِ مجرور ظرف لغو مستقر کَاللَّيْلِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَّذِي کا صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ هَمْزَة حرف استفہام فاء عاطفہ اور

معطوف علیہ محذوف ہے تَعْفُلُونَ، لَا تَعْقِلُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ مستأنف ہوں۔

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: بَلْ حرف اضراب قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل مِثْلَ مضاف مَآسَم موصول قَالَ فعل الأولُونَ فاعل دونوں مل کر صلہ موصول باصلہ مِثْلَ کا مضاف الیہ، مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف قَوْلًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہَمْزِہ حرف استفہام اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مِثْنَا فعل نا ضمیر فاعل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم تَرَابًا وَعِظًا مَآسَم معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، اور جزاء محذوف ہے نُبْعَثُ، نُبْعَثُ فعل مجہول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ ہَمْزِہ حرف استفہام اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لاہر مذحلہ مَبْعُوثُونَ اسم مفعول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء محذوف نُبْعَثُ کی تفسیر ہے۔

لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، وَعِدْنَا فعل مجہول نا ضمیر مؤکد نَحْنُ ضمیر تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ آبَاؤُنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل، هَذَا اسم اشارہ مفعول بہ، مِنْ قَبْلُ جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اِنْ حرف نفی هَذَا اسم اشارہ مبتدا، اِلَّا حرف استثناء اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر قول، لاہر حرف جر مَنْ استفہامیہ مَعْلَمٌ مجرور، جہد با مجرور ظرف مستقر کَاثِنَانِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْأَرْضُ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم موصول فِيهَا جہد با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے فَآخِرُ وَاخِرُ لَيْسَ هُنَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: سین علامت فعل، يَقُولُونَ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَلِلّٰهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُّسْتَقَرٌّ كَانَتْهُ كے متعلق ہو کر خبر اور مبتدا محذوف ہے الْاَرْضُ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تَغْفُلُونَ، لَا تَذْكُرُونَ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، رَبُّ مضاف السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّ مضاف الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ کی ترکیب سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذْكُرُونَ کی مثل ہے۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، بَاءٌ حرف جارِ يَدِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظَرْفٍ مُّسْتَقَرٌّ كَانَتْهُ كے متعلق ہو کر خبر مقدم مَلَكُوتُ مضاف كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، يُجِيْرُ فعل هُوَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُجَارُ فعل مجہول هُوَ ضمیر مستتر نائب فاعل عَلَيْهِ جار با مجرور ظَرْفٍ لَعْنَةٍ متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف هُوَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا اور اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کی ترکیب آیت نمبر ۸۴ میں دیکھیے۔

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنىٰ تَسْحَرُوْنَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: اور سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ کی ترکیب آیت نمبر ۸۵ میں دیکھیے۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، فاء نصیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، يٰ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ هٰذَا، اَنىٰ اسم استفہام كَانِيْنٍ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، تَسْحَرُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال مؤخر، وَذَالْحَالِ بِاِحَالٍ نَائِبِ فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا۔

بَلْ اَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: بَلْ حرف اضراب اَتَيْنَا فعل نا ضمیر ذوالحال بِالْحَقِّ ظَرْفٍ مُّسْتَقَرٌّ مُتَّبِعِيْنِ كے متعلق ہو کر حال، وَذَالْحَالِ بِاِحَالِ فاعل هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال، واو حالیہ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لام مذحلّہ كَذٰبُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل، دونوں مل کر

خبرِ اِنِّ بِاسْمِ وَخبرِ حال، وذلِ الحالِ بِاحالِ مفعولِ بہ، فاعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہِ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾

آیت نمبر ۹۱: مَا حَرَفَ لَمْ يَأْتِخَذَ فَعَلِ اللهُ اسْمُ الْجَلَالِ فاعلِ مِنْ حَرْفِ جَزَلِ وَلَدٍ لَفْظًا مَجْرُورًا مَعْلًا مَنْصُوبٌ مفعولِ بہ، فاعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفِ علیہ، واوِ عاطفہ مَآ نَافِیہ کَانَ فاعلِ ناقصِ مَعَهُ مرکبِ اضافی ظرفِ مستقر کَانِئًا کَا مفعولِ فیہ ہو کر خبرِ مقدم، مِنْ حَرْفِ جَزَلِ اِلٰهِ لَفْظًا مَجْرُورًا مَعْلًا مرفوعِ اسْمِ مَوْخَرٍ، فاعلِ ناقصِ بِاسْمِ وَخبرِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوفِ علیہ بِا مفعولِ بہِ جملہ متانفہ ہوا۔ اِذَا حَرْفِ جَوَابِ مَهْمَلِ لَامٍ جَوَابِیہ ذَهَبَ فاعلِ كُلُّ اِلٰهِ مرکبِ اضافی فاعلِ بَاءِ حَرْفِ جَرِّ مَآ اسْمِ مَوْصُولِ خَلَقَ فاعلِ هُوَ ضمیرِ مستتر فاعلِ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولِ باصلہ مجرور، جارِ مجرور ظرفِ لغو ذَهَبَ کے متعلق ہوئے، فاعلِ بافاعلِ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفِ علیہ، واوِ عاطفہ لَامٍ جَوَابِیہ عَلٰى فاعلِ بَعْضٍ جارِ مجرور ظرفِ لغو متعلق ہوئے، فاعلِ بافاعلِ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوفِ علیہ بِا مفعولِ بہِ جملہ متانفہ ہوا۔ سُبْحٰنَ مصدرِ مضافِ اِلِلَّهِ اسْمُ الْجَلَالِ مضافِ الیہ عَنْ حَرْفِ جَرِّ مَآ اسْمِ مَوْصُولِ یَصِفُوْنَ فاعلِ وَاوِ ضمیرِ فاعلِ، دونوں مل کر صلہ، موصولِ باصلہ مجرور، جارِ مجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے مضافِ الیہ و متعلق سے مل کر فاعلِ مَحذُوفِ نَسْبِیجِ کَا مفعولِ مطلق ہے، فاعلِ بافاعلِ و مفعولِ مطلقِ جملہ متانفہ ہوں۔

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲: عِلْمِ صِيغَةُ سَفْتِ مضافِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَعطُوفٌ عَلَیْہِ بِا مَعطُوفٌ مضافِ الیہ، مضافِ بِا مضافِ الیہ لَفْظًا اِلِلَّهِ کَا بدل ہے فَاوِ عاطفہ اور معطوفِ علیہ مَحذُوفٌ ہے عَلِمَ اللهُ الْغَيْبِ، تَعَلٰى فاعلِ هُوَ ضمیرِ مستتر فاعلِ عَنْ حَرْفِ جَرِّ مَآ اسْمِ مَوْصُولِ يُشْرِكُوْنَ فاعلِ وَاوِ ضمیرِ فاعلِ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولِ باصلہ مجرور، جارِ مجرور ظرفِ لغو تَعَالٰی کے متعلق ہوئے، فاعلِ بافاعلِ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوفِ علیہ مَحذُوفٌ اپنے معطوف سے مل کر جملہ متانفہ ہوں۔

﴿۹۳﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۶ ﴿۹۴﴾

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْتَنِي مَا يُوعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۳، ۹۴: قُلْ فاعلِ اَمْرًا اَنْتَ ضمیرِ مستتر فاعلِ سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قولِ رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ مؤکد ہے، اور دو سر اَرْبٍ تَاکِیْدِہ ہے، مؤکد بَا تَاکِیْدِہ ہے، اِنْ حَرْفِ شَرْطِ مَا زَلَّ وَتُرِيْتَنِي فاعلِ نونِ ثَقِیْلَہِ برائے تَاکِیْدِہ اور یہ نونِ وَقَایِہ مَحذُوفَہ کے قائم مقام ہے، یَا ضمیرِ مَنْصُوبِ مفعولِ بہِ اَوَّلِ، مَآ اسْمِ مَوْصُولِ یُوعَدُوْنَ فاعلِ مضارعِ مَجْہُولِ وَاوِ ضمیرِ نَائِبِ فاعلِ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولِ باصلہ مفعولِ بہِ ثانی، فاعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ فعلیہ خبریہ شَرْطِ، رَبِّ یہ پہلے رَبِّ کی تَاکِیْدِہ ہے، فَاوِ جَزَائِیہ لَا تَجْعَلْ فاعلِ نَمِی اَنْتَ ضمیرِ مستتر فاعلِ نونِ برائے وَقَایِہ یَا ضمیرِ مَنْصُوبِ مفعولِ بہِ اَوَّلِ فِی حَرْفِ جَرِّ الْقَوْمِ مَوْصُولِ الظَّالِمِيْنَ صِفَتِ، مَوْصُولِ بِاصْفَتِ کَانِئًا کے متعلق ہو کر مفعولِ بہِ ثانی، فاعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ انشائیہ جزء، شَرْطِ باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر تَدَاوُجِ کَا جوابِ تَدَاوُجِ ہوا۔

مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ متاخر ہوں۔

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: واوستینا فی ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم علی حرف جہا ان حرف مصدری و نصب نری فعل مضارع معلوم نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، اَوَّلُ مَا اس موصول نَعِدُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لہذا ملحقہ قَدِيرُونَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾

آیت نمبر ۹۶: اذفع فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جر الی اسم موصول ہی ضمیر منفصل مبتداء، أَحْسَنُ اسم تفضیل ہی ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتداء با خبر صلہ، موصول باصلہ بواسطہ موصوف محذوف الْخَصْلَةُ کے مجرور، جار با مجرور ظرف لغو اذفع کے متعلق ہوئے السَّيِّئَةِ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ متاخر ہوں نَحْنُ ضمیر مبتداء، أَعْلَمُ اسم تفضیل نَحْنُ مستتر فاعل بآء حرف جر مَا اسم موصول يَصِفُونَ فعل باء ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

سوال: اس آیت میں أَحْسَنُ اور أَعْلَمُ مبتداء کی خبر ہیں أَحْسَنُ ہی ضمیر کی خبر، اور أَعْلَمُ نَحْنُ ضمیر کی خبر ہے مگر مبتداء اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے اس لئے کہ مبتداء مؤنث اور خبر أَحْسَنُ مذکر ہے اسی طرح نَحْنُ ضمیر مبتداء جمع کی ضمیر ہے اور أَعْلَمُ صیغہ واحد مذکر خبر ہے لہذا مبتداء اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے؟

جواب: أَحْسَنُ اور أَعْلَمُ اسم تفضیل مین کے ساتھ مستعمل ہیں کیونکہ أَحْسَنُ کے بعد مِنْهَا اور أَعْلَمُ کے بعد مِنْ كَلِّ شَيْءٍ مَقْدَر ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جب اسم تفضیل مین کے ساتھ ہو تو وہ ہمیشہ واحد مذکر آیا کرتا ہے خواہ اس کا موصوف یا مبتداء مذکر ہو یا مؤنث، واحد ہو یاثنیہ یا جمع (فلا اشکال)

وَقُلْ رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۷، ۹۸: واوعاطفہ قل فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، رب یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ نداء ہے، اعوذ فعل انا ضمیر مستتر فاعل بِكَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مِنْ حرف جر هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، یاخافا کے متعلق ہو کر اعوذ کی ضمیر فاعل سے حال ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ معطوف علیہ، واوعاطفہ اعوذ فعل انا ضمیر مستتر فاعل بِكَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، ان حرف مصدری و نصب يَحْضُرُونَ فعل اور حالت نصب میں نون اعرابی نون جمع حذف ہو گیا ہے نون برائے وقایہ اور یاء محذوفہ برائے فواصل مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب، بزع الخافض متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ

خبر یہ جواب نداء مقدم، رتبہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء مؤخر ہے، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ پہلے قُلْ رَبِّہ معطوف ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: حتّٰی حرف ابتدا اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل أَحَدَهُمُ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم، الْمَوْتُ فاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے اِرْجِعُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، یَاءَ محذوفہ لرعاۃ الفواصل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب مقولہ، قول با مقولہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

آیت نمبر ۱۰۰: لَعَلِّيْ حرف ترحمی یَاءَ ضمیر منصوب اس کا اسم، أَعْمَلُ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل صَالِحًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل سے مل کر عَمَلًا موصوف محذوف کی صفت اولیٰ، فی حرف جر ما اسم موصول تَرَكْتُ فعل ثناء مضمومہ ضمیر فاعل اور قَائِلُهَا محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مُقَابِلِ مضاف محذوف کا مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرد، جار مجرور ظرف مستقر کَائِنًا کے متعلق ہو کر عَمَلًا محذوف کی صفت ثانیہ، موصوف با مستخین مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلِّيْ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

کَلَّا حرف روع غیر عالِ اِنَّ حرف تحقیق ہَا ضمیر اس کا اسم کَلِمَةٌ موصوف ہو ضمیر مبتدا، قَائِلُهَا مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت خبر اِنَّ ہَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مِنْ حرف جار و آہِمُّ مرکب اضافی مجرد، جار مجرور ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، بَرْزَخٌ موصوف الیٰ حرف جار یَوْمٍ مضاف یُبْعَثُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل دونوں مل کر عَمَلًا مجرد مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرد، جار مجرور ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر بَرْزَخٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: اِنْفِخَ استینا فیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم نُفِخَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر جمع بسوئے مصدر نائب فاعل فی الصُّورِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاءَ جزائیہ لَانفی جنس اَنْسَابِ اس کا اسم بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ اذَل کَائِنَةٌ کا، یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ ثانی، کَائِنَةٌ اسم فاعل ہی مستتر نائب فاعل و مفعولین سے مل کر خبر، اِلَآ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا يَتَسَاءَلُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۰۴﴾

آیت نمبر ۱۰۳، ۱۰۴: فاء تقریبیہ من اسم شرط مبتدا، ثَقُلَتْ فعل موازینتہ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، هُمْ ضمیر برائے فعل الْمُفْلِحُونَ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم شرط مبتدا، خَفَّتْ فعل موازینتہ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، الَّذِينَ اسم موصول خَسِرُوا فعل واو ضمیر فاعل اَنفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر اولیٰ فی جَهَنَّمَ جار باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مشترک فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدا باخبر ثانی جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

تَلَفُّحٌ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: تَلَفُّحٌ فعل وَجُوهَهُمُ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم النَّارُ فاعل مؤخر، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر منفصل مبتدا، فِيهَا جار باجور و طرف لغو متعلق مقدم كَالِحُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مشترک فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خَالِدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

أَلَمْ تَكُنْ أُمَّتِي تَتْلُوَ عَلَيَّكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: ہمدہ حرف استفہام اَلَمْ تَكُنْ فعل ناقص اُمَّتِي مرکب اضافی مرفوع تقدیر اس کا اسم تَتْلُوَ فعل مجہول ہی ضمیر مشترک نائب فاعل عَلَيَّكُمْ جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم بہا جار باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، تُكذِّبُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول، مقدر یَقَالُ لَهُمْ کا مقولہ، قول با مقولہ كَالِحُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل، دو نوں مل کر قول ہوئے، رَبَّنَا یہ اصل میں يَا رَبَّنَا ہے، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر مشترک فاعل، رَبَّنَا متلاوی مضاف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، غَلَبَتْ فعل عَلَيْنَا جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے شِقْوَتُنَا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس کا اسم قَوْمًا موصوف ضَالِّينَ صیغہ صفت هُمْ ضمیر مشترک فاعل، دو نوں مل کر شبہ جملہ ہو کر قَوْمًا کی صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ ندا ہے اَخْرِج فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ، مِنْهَا جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ندا کا جواب، ندا ہا جواب جملہ انشائیہ عداویہ ہوں۔ فاعل عاطفہ اِن حرف شرط عُدْنَا فعل نا ضمیر مرفوع متصل فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاعل جزائریہ اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم ظَلِمُونَ اسم فاعل لَحْن ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اخْسَئُوا فعل امر واو ضمیر فاعل فِيهَا جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تُكَلِّمُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، یَا ضمیر مخذوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

إِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: اِن حرف تحقیق نا ضمیر منصوب اس کا اسم كَانَ فعل ناقص فَرِيقٌ موصوف من حرف جر عِبَادِي مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَالِیْنِ کے متعلق ہو کر فَرِيقٌ کی صفت، موصوف با صفت كَانَ کا اسم يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ ندا ہے آمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ندا کا جواب، ندا ہا جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر، اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہوں۔ فاعل نصیر اور شرط مخذوف ہے اِن تُكاسِبُنَا، اغْفِرْ فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل لَنَا جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْحَمْنَا فعل امر آتت ضمیر مستتر ذوالحال، واو حالیہ اَنْتَ ضمیر مبتدا، خَيْرُ الرَّحِيمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، بذوالحال باحال اَرْحَمْنَا کا فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط مخذوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَاَنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: فاعل عاطفہ اِتَّخَذْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل، اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم مِنْهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَضْحَكُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عملاً مجرور؛ مجرور، جار مجرور ظرف لغو اِتَّخَذْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ يَقُولُونَ، معطوف ہے۔

اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَاِنَّهُمْ هُمُ الْفَايُزُونَ ﴿۱۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱۱: اِن حرف تحقیق یَا ضمیر منصوب اس کا اسم جَزَيْتُ فعل تَا مضمومہ فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، الْيَوْمَ

مفعول فیہ، بئاء حرف جرّما حرف مصدر صَبَرُوا فعل باوای ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور ظرف لغو جَزَيْتُمْ کے متعلق ہوئے اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم هُمْ ضمیر مرفوع منفصل مبتدأ، اَلْ اسم موصول بمعنی الَّذِينَ، فَأَبْرؤُنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر بتاویل فعل ماضی قَاذُوا اصلہ، موصول باصلہ خبر، اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر جَزَيْتُمْ کا مفعول بہ، ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ خبر، اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

آیت نمبر ۱۱۲ : قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كَمْ اسم استفہام ممیز، عَدَدَ سِنِينَ مرکب اضافی تیز، ممیز یا تیز مفعول فیہ مقدم، لَبِئْتُمْ فعل تُم ضمیر ذوالحال فی الْأَرْضِ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

آیت نمبر ۱۱۳ : قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَبِئْنَا فعل نا ضمیر فاعل يَوْمًا معطوف علیہ، او عاطفہ بَعْضَ يَوْمٍ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِنْ شِئْتُمْ، اِسْئَلِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل الْعَادِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قُلْ اِنْ لَبِئْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

آیت نمبر ۱۱۴ : قَالَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف شرط لَبِئْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف عَدَدًا کے مفعول فیہ ہے اور یا بواسطہ موصوف محذوف لَبِئْنَا کے مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ لَوْ حرف شرط اَنْ حرف تحقیق كُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم كُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُوْنَ فعل باوای ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر فعل محذوف تَبَّتْ کا فاعل ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے لَمَّا اَجَبْتُمْ بِهٰذِهِ الْمَدَّةِ (تو تم اس مدت کے ساتھ جواب نہ دیتے)

اَفْحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

آیت نمبر ۱۱۵ : هَمْزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے عَقَلْتُمْ يَا كِبَا هَلْ تُمْ، حَسِبْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق كَفُوْنَ، مَا كَاذِبًا خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ عَبَثًا بمعنی اِسْم فاعل عَابِدِيْنَ کے خَلَقْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق كُمْ ضمیر اس کا اسم اِلَيْنَا جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لَا تُرْجَعُوْنَ فعل مجہول باوای ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حَسِبْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ معطوف، معطوف علیہ مقدر با معطوف جملہ متاثر ہوں۔

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

آیت نمبر ۱۱۶: فاء عاطفہ تَعَلَىٰ فعل اللہ موصوف المَلِكُ صفت اول، الْحَقُّ صفت ثانیہ، موصوف باصغین فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا حرف نفی جنسِ اِلَہِ اس کا اسم اور خبر محذوف مَوْجُود ہے، مَوْجُود اسم مفعول ہو ضمیر مستتر مبدل منہ۔ لا حرف استثناء ہو ضمیر مرفوع منفصل مبدل منہ یا بین رَبُّ مضاف الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل، یا عطف بیان، مبدل منہ بادل مَوْجُود میں ہو ضمیر سے بدل ہے، مبدل منہ بادل نائب فاعل، اسم مفعول ہا نائب فاعل لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اللہ سے حال ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۱۷: واو استینا فیہ مَنْ اسم شرط مبتدا، يَدْعُ فعل ہو مستتر فاعل مَعَ اللہ مرکب اضافی کائناً کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، إِلَهًا آخَرَ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال يَدْعُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لا حرف نفی جنسِ بُرْهَانَ اس کا اسم لہ جاہ با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق اذل ہوئے پہ جاہ با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے کائین اسم فاعل ہو ضمیر فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر إِلَهًا آخَرَ کی صفت ہے، فاء جزائیہ اِنَّ حرف تحقیق کفوف، مَا كَانَتْ حِسَابُهُ مرکب اضافی مبتدا، عِنْدَ مضاف رَبِّہِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لا يُفْلِحُ فعل الْكَافِرُونَ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

آیت نمبر ۱۱۸: واو استینا فیہ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ ندا ہے اِغْفِرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْحَمْ فعل امر، اَنْتَ مستتر ذوالحال، واو حالیہ اَنْتَ ضمیر مبتدا، خَيْرُ الرَّحِيمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَرْحَمْ کا فاعل اَرْحَمْ فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ندا کا جواب، ندا با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔

بِحَمْدِ تَعَالَىٰ

جامعہ سراج العلوم لودھراں کے دارالحدیث میں بروز اتوار بوقت ایک بجے دوپہر ۲۰۱۸ء میں سورۃ المؤمنون کی ترکیب کے لکھنے سے فارغ ہوئے۔

ترکیب سُورَةُ النُّورِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سُورَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱: سُورَةُ موصوفہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ فَرَضْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فیہا جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، آیت بَيِّنٰتٍ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین سُورَةُ کی صفت، موصوفہ بصفت مبتدا محذوف ہذا کی خبر ہے یا فینما یثمل محذوف کا مبتدا ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لعل حرف تہجی کُم ضمیر اس کا اسم تَذَكَّرُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، بدلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تہجی اپنے اسم و خبر سے مل کر تہجی کَذَرُوْنَ کی تادیل میں ہو کر اَنْزَلْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا جملہ انشائیہ متنازعہ ہوا۔

الزَّٰنِیۃُ وَالزَّٰنِیۃُ فَاجْلِدُوْا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۝ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِنَّ رَافَةٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۝ وَلَیْسَ شَہْدَ عَذَابِہُمَا طَٰیْفَةٌ

مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

آیت نمبر ۲: الزَّٰنِیۃُ وَالزَّٰنِیۃُ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ ہے مضاف محذوف حُکْمًا کا، پھر مرکب اضافی مبتدا ہے، فینما یثمل علیکم فینما بعد خبر محذوف ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فاء جزائیہ اجلِدُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل کُلَّ وَاحِدٍ مرکب اضافی موصوفہ جنھما جاد باجور طرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بصفت مفعول بہ مِائَةَ جَلْدَةٍ مینز با تہجیز مفعول مطلق عددی ہے، فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَأْخُذْ فعل نہی کُم ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم بہما جاد باجور طرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر حال مقدم رَافَةٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال و حال مل کر لَا تَأْخُذْ کا فاعل، فی حرف جر دین اللہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجور طرف لغو لا تَأْخُذْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء مقدم، یادال بر جزاء ہے، اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص کُم ضمیر اس کا اسم تُؤْمِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، بقاء حرف جزا اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واؤ حرف عطف الْیَوْمِ الْاٰخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجور طرف لغو تُؤْمِنُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا واؤ عاطفہ لَیْسَ شَہْدَ فعل امر عَذَابِہُمَا مرکب اضافی مفعول بہ، طَٰیْفَةٌ موصوفہ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ جاد باجور طرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بصفت فاعل مؤخر، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جملہ اولیہ معطوف ہے۔

آیت نمبر ۱۶: واؤ عاطفہ الذین اسم موصول یزموون فعل واؤ ضمیر ذوالحال، واؤ حالہ لَمْ یَکُنْ فعل ناقص لَهْمُ جار مجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم شہد آء مبدل منہ الّا حرف استثناء اَلْفُسْهُمُ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یزموون کا فاعل اَزُوْا جہمُ مرکب اضافی اس کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، فاء جزائیہ شہادۃ مضاف اَحَدِهِمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدأ، اَرْبَعٌ مبرز مضاف شہدات مصدر باللہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اِنَّ حرف تحقیق ء ضمیر منصوب اس کا اسم لامر نہ حلقہ من الصّٰدِقِیْنَ جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محلاً منصوب مفعول بہ، مصدر اپنے متعلق و مفعول بہ سے مل کر تمیز مضاف الیہ، تمیز با تمیز خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَلَّذِیْنَ یَزْمُوْنَ کی خبر قائم مقام جزاء ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

سوال: حرف مشبہ بالفعل اِنَّ جب اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بہ واقع ہو تو وہاں اَنْ لفتح الہزہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اِنَّ لَمِنْ الصّٰدِقِیْنَ بھی شہدات کا مفعول بہ واقع ہے تو پھر اَنْ بکسر الہزہ کیوں ہے۔؟

جواب: اِنَّ کی خبر لامر نہ حلقہ داخل ہے اس لئے اَنْ کی جگہ اِنَّ واقع ہوئے۔

وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱۷: واؤ عاطفہ الخامسة بواسطہ موصوف محذوف الشہادۃ کے مبتدأ، اَنَّ حرف تحقیق لَعْنَتَ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کا اسم علیہ جار مجرور ظرف لغو کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اِنَّ حرف شرط کَانَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم من الكذیبین جار مجرور ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللّٰهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَيَذُرُّوا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱۸: واؤ عاطفہ یذروا فعل عنہا جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْعَذَابِ مفعول بہ مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب تَشْهَدُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل اَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ کی ترکیب اَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ کی طرح ہے۔ اور یہ تَشْهَدُ کا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر یذروا کا فاعل ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹: واؤ عاطفہ الخامسة مبدل منہ، اَنَّ حرف تحقیق غَضَبَ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کا اسم علیہا جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ بادل اَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ پر معطوف ہے۔ اِنَّ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ کی ترکیب اِنَّ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ کی مثل ہے اور یہ شرط ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللّٰهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو عاطفہ لو لا حرف امتناع فضل مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ عَلَیْكُمْ جارِ مجرور ظرف لغو مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ رَحْمَتُهُ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم تَوَّابٌ حَكِيمٌ دو خبر، اَنَّ بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدأ اور خبر محذوف مَوْجُودُونَ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط ہے، اور جزاء محذوف ہے لَفَضَحَكُمْ (اللہ تم کو سزا کر دیتا) یا محذوف ہے لَعَا جَلَّكُمْ بِالْعُقُوبَةِ (تم کو جلدی سزا دیتا) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿۱۰﴾ رُكُوعٌ ۲ ﴿۱۰﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط
لَكِنَّ أَمْرِي مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: الزان حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول جَاءُوا فعل واو ضمیر فاعل بِالْإِفْكِ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اَنَّ کا اسم عُصْبَةٌ موصوفٌ مِنْكُمْ جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ لَا تَحْسَبُوهُ فعل نہی واو ضمیر فاعل تُو ضمیر مفعول بہ اول، شَرًّا موصوفٌ لَكُمْ جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہی ہوں۔ بَلْ حرف اضراب ہو ضمیر مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو ضمیر مستقر فاعل لَكُمْ جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لام حرف جر لَكِنَّ امری مرکب اضافی موصوفٌ مِنْهُمْ جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول لا كَتَسَبَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل تُو ضمیر منصوب محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال، مِنَ الْإِثْمِ جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال ملامر فروع مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ الَّذِي اسم موصول تَوَلَّى فعل ہو ضمیر مستقر ذوالحال مِنْهُمْ جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل كِبْرَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدأ لَكُم جارِ مجرور ظرف مستقر كَاتِنٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

﴿۱۱﴾ مَبِينٌ ﴿۱۱﴾

خبر یہ ہوا۔ ان حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم مؤمِنِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے فَلَا تَعُوذُوا لِيْثْلِهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: واو عاطفہ يَبَيِّنُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ جار باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے الْآيَاتِ منصوب بالجر مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اولیہ معطوف ہے۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، عَلِيمٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول حَكِيمٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: اِنَّ حرف تحقيق الَّذِينَ اسم موصول يُحِبُّونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَشِيعَ فعل الْفَاحِشَةُ فاعل فی حرف جر الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار باجر در ظرف لغو تَشِيعَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدری يُحِبُّونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم لَهُمْ جار باجر در ظرف مستقر كَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ موصوفِ الْيَوْمِ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت اولیہ، فی حرف جر الدُّنْيَا تقدیر مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ الْآخِرَةِ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجر در ظرف مستقر كَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، لَا تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: واو استینافیہ لَوْلَا حرف امتناع فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ کی ترکیب فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ کی ترکیب کی مثل ہے جو کہ اسی سورت کی آیت نمبر ۱۰ میں گزر چکی ہے۔

﴿ ۱۸ ﴾ رُكُوعُ نَمْبَرِ ۳ ﴿ ۱۹ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: یاہ حرف نداہ اذعوا کے قائم مقام اذعوا فعل انکا ضمیر مستتر فاعل ائی موصوف یا بدل منہ ہا برائے تشبیہ، اللذین اسم موصول اذعوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت یا بدل، موصوف باصفت مجازاً منصوب اذعوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداہ، لا تکبوا فعل نبی واو ضمیر فاعل خُطوات مضاف الشیطن مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداہ کا جواب، نداہ باجواب جملہ انشائیہ نداہیہ ہوں۔ واو استینافیہ من اسم شرط مبتدأ یتبع فعل ہو مستتر فاعل خُطوات الشیطن مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء مخدوف ہے فقد ضل، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فاء تعلیل ان حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم یا مؤ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بئاء حرف جرائف حشآء و المنکر معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغوی یا مؤ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لا تکبوا کی تعلیل ہے یا من یتبع کی تعلیل ہے واو استینافیہ لولا حرف امتناع فاضل مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ، علیکم جار مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے، مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ رخصتہ مرکب اضافی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، خبر مخدوف ہے مؤجودان، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، ما تانیہ زکی فعل منکم جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، من حرف جر زائد احد لفظا مجرور مجازاً مرفوع ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال زکی کا فاعل اکبنا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یذکی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل من اسم موصول یشاء فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یذکی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لکن اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، سبغ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر اول علیکم صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر ثانی، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَلَا يَأْكُلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ
 الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَعْفُوا وَ لِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۲۲: واو استینافیہ لا یأکل فعل نبی (یہ اصل میں یأکل ہے) اؤلوا الفضل مرکب اضافی ذوالحال منکم جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، و السعة کا الفضل پر عطف ہے ان حرف مصدری و نصب یؤتوا فعل واو ضمیر فاعل اولی القربى مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ المسکین معطوف اول، واو عاطفہ المہاجرین اسم فاعل هم ضمیر مستتر فاعل فی حرف جر سبیل اللہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین یؤتوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بزعم الخافض (یہ اصل میں فی ان یؤتوا ہے) جار مجرور ظرف لغوی لا یأکل کے متعلق ہوئے، فعل نبی بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لیعفووا فعل

امرؤا ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لِيَصْفَحُوا فعل امرؤا ضمیر فاعل، ودو لول مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہوں لہذا حرف استفہام لَا تُحِبُّونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری ونصب یَغْفِرُوْا فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ جارہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، غَفُوْرٌ خبر اول، رَحِيْمٌ خبر ثانی، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

اِنَّ الَّذِيْنَ يَزْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلَاتِ لُعُنُوْا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ سَوْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول يَزْمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الْمُحْصَنَاتِ موصوف الغفلات صفت اولی المؤمنات صفت ثانیہ، موصوف باصفتین مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم لُعُنُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فی حرف جر الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جارہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ جارہا مجرد طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ عَظِيْمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: يَوْمَ مضاف تَشْهَدُ فعل عَلَيْهِمْ جارہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے اَلْسِنَتُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ اَرْجُلُهُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تَشْهَدُ کا فاعل بآء حرف جر مَا حرف مصدری کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَعْمَلُوْنَ فعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جارہا مجرد طرف لغو تَشْهَدُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ عملاً مجرد و يَوْمَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی لَهُمْ کے متعلق ہو کر کائین کا مفعول فیہ ہے۔

يَوْمَذِيْ يُؤْفِكُهُمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْخَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: يَوْمَذِيْ مرکب اضافی يَوْمَذِيْ کا مفعول فیہ مقدم ہے يُؤْفِكُهُمُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول اللہ اسم الجلالہ فاعل دِيْنَهُمْ مرکب اضافی موصوف الخَقَّ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم هُوَ ضمیر فصل بالحَقِّ الْمُبِيْنُ مرکب توصیفی خبر، اَنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر يَعْلَمُوْنَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: الْخَبِيثَاتُ مبداء لام حرف جاد الخبيثين مجرد، جاد با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الخبيثون مبتدا الخبيثات جاد با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ کی ترکیب الخبيثات للخبيثين وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ کی ترکیب طرح ہے اُولَئِكَ اسما اشارہ مبتدا، مَبْرُؤُونَ اسم مفعول هُمْ ضمیر مستقر نائب فاعل، مبرون حرف جر ما اسم موصول يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرد، جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لَهِمْ جاد با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَعْفُوفًا معطوف علیہ، واو عاطفہ رِزْقٌ كَرِيمٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

● رکوع نمبر ۴ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ⑤

آیت نمبر ۲۷: يَأْتِ حرف مداد ادْعُوا کے قائم مقام، ادْعُوا فعل انا ضمیر مستقر فاعل ائى موصوف یا مبدل منہ ہا برائے تمیہ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت یا بدل، موصوف با صفت عملاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر مداد، لَا تَدْخُلُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل بُيُوتًا موصوف غَيْرَ مضاف بُيُوتِكُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت لَا تَدْخُلُوا کا مفعول فیہ، حَتَّى حرف غایت و جر تَسْتَأْنِسُوا فعل ہا واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَسَلِّمُوا فعل واو ضمیر فاعل علی حرف جاد اهلها مرکب اضافی مجرد، جاد با مجرد طرف لغو تَسَلِّمُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرد، جاد با مجرد طرف لغو لَا تَدْخُلُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ انشائیہ مداد کا جواب، مداد با جواب جملہ انشائیہ نداسیہ ہوں ذَلِكُمْ اسما اشارہ مبتدا خَيْرٌ اسم تفضیل هُوَ ضمیر مستقر فاعل لَكُمْ جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لَعَلَّ حرف تہنئی كُمْ ضمیر اس کا اسم تَذَكَّرُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ مطلق ہو اور جملہ مطلق مخدوف ہے اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْاَمْرَ۔

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزكى لَكُمْ ۗ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ⑥

آیت نمبر ۲۸: فَأَمَّا عاطران حرف شرط لَمْ تَجِدُوا فعل واو ضمیر فاعل فِيهَا جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے أَحَدًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَأَمَّا جزائیہ لَا تَدْخُلُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ حَتَّى حرف غایت و جر

اور اس کے بعد اُن ہاں مصدر ہے یُوْدَنْ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو لا تَدْ خُلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف شرط قیل فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِزْجِعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِزْجِعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ جواب نداء، معطوف ہے ہو ضمیر منفصل مبتداء، اِزْجِعُوْا اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتداء باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں واو استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتداء، تاء حرف جار ما اسم موصول تَعْمَلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، عَلَیْكُمْ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتداء باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

مَا تَبَدُّوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۹: لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَاحٌ موصوف اَنْ حرف مصدری و نصب تَدْخُلُوْا فعل واو ضمیر فاعل بُيُوْتًا موصوف غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ مرکب اضافی صفت اولیٰ، فِيْهَا جار مجرور طرف مستقر کائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَتَاعٌ موصوف لَكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائِنٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتداء مؤخر، مبتداء باخبر جملہ اسمیہ خبریہ بُيُوْتًا کی صفت ثانیہ، موصوف باصفتین مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر منصوب بنزع الخافض مجرور اصل میں فی اَنْ ہے، جار مجرور طرف مستقر کائِنٌ کے متعلق ہو کر جُنَاحٌ کی صفت، موصوف باصفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

واو استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتداء، يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ما اسم موصول تَبَدُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول تَكْتُمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ لِلّٰهُ مِّنْیْنَ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوْا قُرُوْبَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْکٰی لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ

خَبِيْرٌۢ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِلّٰهُ مِّنْیْنَ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مقولہ مخدوف ہے غَضُّوا اَبْصَارَهُمْ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہوں یَغْضُوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ حَرْفِ جَرِ اَبْصَارِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار

باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یحفظوا فعل واو ضمیر فاعل فُرُوْ جِهَتْھُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مخذوف ان تَقُلَّ لَھُمْ غَضُوْا الْبَصَارَ کُمْ کی جزاء ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا ذلک اسم اشدہ مبتدأ، از کی اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل لَھُمْ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم خبیثہ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جر ما اسم موصول یضننوں فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار باجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، ان بآء اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِھِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوْجَھُنَّ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ
اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْهَا وَلَا یَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلٰی جُیُوْبِھِنَّ سِوَا لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلَّا
لِبُعُوْلَتِھِنَّ اَوْ اَبَائِھِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِھِنَّ اَوْ اَبْنَائِھِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِھِنَّ اَوْ اِخْوَانِھِنَّ
اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِھِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخْوَاتِھِنَّ اَوْ نِسَائِھِنَّ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُھُنَّ اَوِ التَّبَعِیْنَ غَیْرِ
اُولٰٓئِکَ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ یَظْہَرُوْا عَلٰی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ سِوَا لَا
یَضْرِبْنَ بِاَزْجُلِھِنَّ لَیَعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِھِنَّ ط وَ تُوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ جَمِیْعًا اٰیة
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تَقْلِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ قُلْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل، لِّلْمُؤْمِنَاتِ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے یہ جملہ انشائیہ قول، اور، مقولہ مخذوف ہے اَعْضُضْنَ اَبْصَارَ کُنَّ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا یَغْضُضْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل مِنْ حرف جر اَبْصَارِھِنَّ مرکب اضافی مجرد، جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یحفظن فعل نون مفتوحہ ضمیر متصل فاعل فُرُوْ جِهَتْھُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مخذوف ان تَقُلَّ لَھُمْ اَعْضُضْنَ کی جزاء ہے، کیونکہ یہ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عاطفہ لَا یُبْدِیْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر متصل فاعل زِیْنَتَھُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ اول، اِلَّا حرف استثناء ما اسم موصول ظہَرَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل مِنْهَا جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ اولیہ معطوف ہے۔ واو استیناف لَیَعْلَمَ فی لَیَضْرِبْنَ فعل امر نون مفتوحہ ضمیر فاعل بآء حرف جر خُمُرِھِنَّ مرکب اضافی مجرد، جار باجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے، علی حرف جر جُیُوْبِھِنَّ مرکب اضافی مجرد، جار باجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل امر بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یُبْدِیْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل زِیْنَتَھُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ، اِلَّا حرف استثناء لام حرف جر بُعُوْلَتِھِنَّ مرکب اضافی معطوف علیہ، او عاطفہ اَبَائِھِنَّ مرکب اضافی معطوف اول، او حرف عطف اَبَاءِ مضاف بُعُوْلَتِھِنَّ مرکب اضافی

مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ثانی، اَوْ حرف عطف اَبْتَأْتِهِنَّ مرکب اضافی معطوف ثالث، اَوْ حرف عطف اَبْتَأْتِهِنَّ مضاف
 يُعْوَلْتِهِنَّ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مضاف با مضاف الیہ معطوف رابع، اَوْ حرف عطف اِخْوَانِهِنَّ مرکب اضافی معطوف خامس، اَوْ
 حرف عطف یَقِی مضاف اور یہ اصل میں یَقِیْن ہے جو کہ ابن کی جمع ہے بوجہ اضافت کے نون ساقط ہو گیا ہے، اِخْوَانِهِنَّ مرکب اضافی
 مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف سادس، اَوْ عاطفہ یَقِی مضاف اِخْوَانِهِنَّ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف سابع، اَوْ
 حرف عطف نِسَاءِهِنَّ مرکب اضافی معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف مَا اسم موصول مَلَكَتْ فَعْل اَیْمَانِهِنَّ مرکب اضافی فاعل بدو نون مل کر
 صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف ثامن، اَوْ حرف عطف التَّبِیْعِیْنَ موصوف غیر مضاف اُولِی الْاِزْدِیَّةِ مرکب
 اضافی مضاف الیہ، غیر اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال، مِنْ حرف جر الزَّجَالَ موصوف معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف
 الطِّفْلِ موصوف اَلَّذِیْنَ اسم موصول لَمْ یَظْهَرُوا فَعْل واؤ ضمیر فاعل عَلٰی حرف جر عَوْرَاتِ النِّسَاءِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف
 لَعَوْلَمَ یَظْهَرُوا کے متعلق ہوئے، فَعْل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الطِّفْلِ کی صفت، موصوف با صفت معطوف،
 معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاذِبِیْنَ کے متعلق ہو کر اِحْوَاجِیْنَ کا حال، ذوالحال با حال معطوف تاسع، معطوف علیہ با
 معطوفات تعد لآہر کا مجرور، جار با مجرور ظرف مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لَعَوْلَمَ یَظْهَرُوا کے متعلق ہوئے، فَعْل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ
 معطوف اَوَّلِ، واؤ عاطفہ لَا یَضْرِبْنَ فَعْل نون مفتوحہ ضمیر فاعل بِنَاءِ حرف جر اَزْجُلِهِنَّ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق اَوَّلِ
 ہوئے، لآہر حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ نمبرہ مقدّم ہے، یُعَلِّمَنَّ فَعْل مجهول مَا اسم موصول یُخْفِیْنَ فَعْل مضارع نون مفتوحہ
 ضمیر متصل فاعل اَوْ ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال، مِنْ حرف جر یَتَّبِعْنَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاذِبَاتِ کے متعلق ہو
 کر حال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فَعْل مجهول ہاتھ نائب فاعل بتا ویل مصدر مجرور، جار با مجرور لَا یَضْرِبْنَ کے متعلق بیانی ہوئے، فَعْل با فاعل
 و متعلقین جملہ انشائیہ لَا یَضْرِبْنَ یُخْفِیْنَ کا معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہوں۔

واو استینا فیہ تَوْبُوا فَعْل امر واؤ ضمیر ذوالحال جَمِیْعًا حال، ذوالحال با حال فاعل اِلٰی اللّٰہِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فَعْل با فاعل
 و متعلق جملہ انشائیہ جواب مدہ مقدم، اِنِّهَا... اِنْج اصل میں یَا اِنِّهَا ہے، یَا حرف ندا اَدْعُوا کے قائم مقام، اَدْعُوا فَعْل اَتَا مستتر فاعل اَنْی
 موصوف ہا برائے تحمیل اَلْمُؤْمِنُوْنَ صفت، موصوف با صفت محلّا منصوب مفعول بہ، فَعْل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر مدہ مؤخر، مدہ
 با جواب مدہ جملہ انشائیہ مدائیہ ہوں لَعَلَّ حرف ترقی کُمْ ضمیر اس کا اسم ثَقَلِحُونَ فَعْل مضارع واؤ ضمیر فاعل، بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
 خبر، حرف ترقی ہا سم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر واو الفلاح کی تویل میں ہو کر تَوْبُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یَا اس کے لئے جملہ مطلقہ ہوں۔

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واو استینا فیہ اَنْكَحُوا فَعْل امر واؤ ضمیر فاعل الْأَيَّامِي ذوالحال مِنْكُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کَاذِبِیْنَ کے متعلق
 ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الصَّالِحِينَ ذوالحال مِنْ حرف جار عِبَادِكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِمَائِكُمْ
 مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاذِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف، معطوف

علیہ با معطوف اَلَّذِیْنَ کَا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ کُوْبُوْا ہر معطوف ہے۔ اِنْ حرف شرطیہ کُوْبُوْا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم فُقِّرَ آءٌ صیغہ مفت ہُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یُغْنِیْ فعل اور یہ اصل میں یُغْنِیْ ہے ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل مِنْ حرف جر فضلیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا و استینافیہ اَللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدا، واسع صیغہ اسم فاعل ہُوْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر اول عَلَیْہُمْ صیغہ مفت ہُوْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر ثانی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوا۔

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَ الَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ط
أَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ط وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُّكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤ عاطفہ لَيْسْتَغْفِرِ فعل امر الَّذِينَ اسم موصول لَا يَجِدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل نِكَاحًا مفعول بہ حَتَّى حرف غایت و جر اور اس کے بعد اَنْ ناصبہ مقدّر ہے یُغْنِیْ فعل ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل مِنْ حرف جر فضلیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو لَا يَجِدُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف بر جملہ اولیٰ ہے۔ ہوا و استینافیہ الَّذِينَ اسم موصول يَبْتَغُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، مِنْ حرف جر مَّا اسم موصول مَلَكَتْ فعل اَيْمَانُكُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال يَبْتَغُونَ کا فاعل الْكِتَابَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فاء جزائیہ کَاتِبُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر خبر قائم مقام جزاء ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرف شرط عَلِمْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل فِيْہُمْ ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم خَيْرًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے فَكَاتِبُوهُمْ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

واؤ عاطفہ اَتَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، مِنْ حرف جر مَالِ اللَّهِ مرکب اضافی موصوف الَّذِينَ اسم موصول اَتَى فعل ہُوْ ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مَالِ اللَّهِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف لغو اَتَوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ کَاتِبُوا ہر معطوف ہے۔ واؤ عاطفہ لَا تَكْرِهُوا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل فَتِيَّتَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ عَلَى الْبِغَاءِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے لآء حرف جر اور اس کے بعد اَنْ ناصبہ مقدّر ہے، تَبْتَغُوا فعل واؤ ضمیر فاعل عَرَضَ مضاف الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب تو صیغی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و

مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار با مجرور لا تکر ہوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ خبریہ

ہوں

ان حرف شرط آرڈن فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل تَحَصَّنَا مفعول بہ، تینوں مل کر شرط ہے، اور جزاء محذوف ہے قَلَّا تَكْرَهُوا فَتَيَّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاقِ جس پر شرط سے پہلے والا جملہ وال ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا و او استثنائیہ مَن اسم شرط مبتدأ، یُکْرَهُوا فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے، اور جزاء محذوف ہے فَإِنَّهُ يُحَاسِبُ وَيَعْفُو اللَّهُ لَهُنَّ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مَن حرف جر بَعْدِ مضاف اِکْرَاهِ مضاف الیہ مضاف هُنَّ مضاف الیہ، اِکْرَاهِ اپنے مضاف الیہ سے مل کر بَعْدِ کا مضاف الیہ، پھر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَفُوًّا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِذْ رَحِمْتُمْ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، اِنِّ بِالْأَسْمِ وَخَبْرِنِ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: وَاوَا استثنائیہ لامر موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ مرکب توصیفی معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ مَثَلًا موصوف مَن حرف جر الَّذِينَ اسم موصول خَلَوْا فعل وَاوَا ضمیر فاعل مَن حرف جر قَبْلِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر مَثَلًا کی صفت، موصوف با صفت معطوف اول، وَاوَا عاطفہ مَوْعِظَةً موصوف لِّلْمُتَّقِينَ جار با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب جملہ قسمیہ متانفہ ہوں۔

﴿۳۵﴾ رُكُوعٌ نُّمْبَرٌ ۵ ﴿۳۵﴾

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَّا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْآمِثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، نُورُ مضاف السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں مِثْلُ مضاف نُورِہ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ، کاف حرف جر مِشْكَاةٍ موصوف موصوف زُجَاجَةٍ جار با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِصْبَاحُ موصوف الْمِصْبَاحُ مبتدأ، فی حرف جار زُجَاجَةٍ موصوف الزُّجَاجَةُ مبتدأ، کَانَ حرف تشبیہ ہا ضمیر اس کا اسم کَوْكَبٌ موصوف دُرِّيٌّ اسم موصول ہُو ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر کَوْكَبٌ

کی صفت، موصوف باہفت گان کی خبر، گان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ زُجاجة کی صفت، موصوف باہفت مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر الی مضباح کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مضباح کی صفت، موصوف باہفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر مشکوٰۃ کی صفت، موصوف باہفت مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

یُوَقَّدُ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل میں حرف جار شجرۃ موصوف صُبُوکۃ اسم مفعول ہے مستتر نائب فاعل سے مل کر صفت اولی، زیتونۃ صفت ثانیہ، لازلذہ شرقیۃ صفت ثالثہ، واو عاطفہ لازلذہ غریبۃ صفت رابعہ یکاد فعل مقاب زیتونہا مرکب اضافی اس کا اسم یضیٰ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل مقاب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ صفت خامسہ، موصوف باہفت مجرور، جاد با مجرور ظرف لغوی یوقد کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضباح کی صفت ثانیہ ہے، واو عالیہ نو حرف شرط لَمْ تَمَسَّسْ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ، تازہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے یکاد زیتونہا یضیٰ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر یضیٰ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ نو موصوف علی نو جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باہفت مبتدا مخدوف ہو کر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

یَهْدِیْ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لام حرف جر نو مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے من اسم موصول یشاء فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر، موصول باصلہ یهدی کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تضرِبُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الامثال مفعول بہ للتکسیر جاد با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، بئاء حرف جر کلّی تھی مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغوی متعلق مقدم ہوئے علیہ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہوں۔

فِي بُيُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةَ وَاِتَّأَمَّ الزَّكٰوةَ
يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَاَلْبَصَارُ ۝

آیت نمبر ۳۷، ۳۶: فی حرف جر بیوت موصوف اذین فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل ان حرف مصدری و نصب ترفع فعل مجہول ہے ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یذکر فعل مجہول فیہا جاد با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے اسْمُهُ مرکب اضافی نائب فاعل، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر منصوب بزعم الکافض یہ اصل میں فی ان ہے، جاد با مجرور اذین کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باہفت مجرور، جاد با مجرور ظرف لغوی یسبح کے متعلق مقدم ہوئے یسبح فعل لہ جاد با مجرور ظرف لغوی متعلق ثانی ہوئے فیہا جاد با مجرور فی بیوت کی تاکید ہے، بئاء حرف جار الغدو و الاصال معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق ثالث ہوئے، رجال موصوف لا تلهی فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ تجارة معطوف

علیہ، واو عاطفہ لازلہ بیع معطوف، دونوں مل کر فاعل عن حرف جر ذی کبر اللہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اقامہ الصلوٰۃ
مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ ایتامہ الزکوٰۃ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور طرف لغو
لا تلمیہ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جال کی صفت اولیٰ، یخافون فعل واو ضمیر فاعل یومًا موصوف
تتقلب فعل فیہ جار با مجرور متعلق ہوئے القلوب والابصار معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل و متعلق یومًا کی صفت، موصوف
با صفت مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ جال کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین یستیح کافعال، فعل با فاعل و متعلقات
ملاشہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ

بغیر حساب ۵

آیت نمبر ۳۸: لام حرف جار برائے لتلیل اور اس کے بعد ان ناصبہ مقدّر ہے یجزی فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ
اول، اللہ اسم الجلالہ فاعل احسن مضاف ما اسم موصول عمیلو فاعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، پھر
مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یزید فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہم ضمیر منصوب
مفعول بہ، میں حرف جر فضلیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف لغویہ یزید کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ
خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا، واو استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، یرزق فاعل ہو ضمیر مستتر ذوالحال، تاء حرف جر
غیر حساب مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل من اسم موصول یشاء فعل ہو
ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ یرزق کے مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ
خبریہ متانفہ ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَم

يَجِدُهُ شَيْئًا ۗ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۳۹: واو استینا فی الذین اسم موصول کفروا فاعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، أعمالہم
مرکب اضافی مبتدأ کاف حرف جار سراب موصوف تاء حرف جر قیعة مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ،
یحسب فعل ہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، الظمان فاعل ماء مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف
با صفتین مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر أعمالہم کی خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔
حتیٰ حرف ابتداء إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جاء فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہ ضمیر منصوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط،
لم یجد فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، شیئاً مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط
با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

آیت نمبر ۳۲، ۳۱: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فَعَلْتَ اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم یُسَبِّحُ

فعل لَمْ تَرَ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے ہن اسم موصول فی حرف جِز السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الظَّیْرُ وَاِلْحَالَ صَفَتْ صیغہ اسم فاعل هُنَّ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف یُسَبِّحُ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

کُلُّ مبتدأ، قَدْ حرف تحقیق عَلِمَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل صَلَّاتُہٗ مرکب انشائی معطوف علیہ، واو عاطفہ تَسْبِيْحُہٗ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یُسَبِّحُ کے فاعل سے حال ہے واو استینافیہ اَللّٰہ اسم الجلالہ مبتدأ، عَلِمَ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل بَاء حرف جر صَاحِبِہٖ یَفْعَلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر تاویل مصدر مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَلٰہُ جار باجرور ظرف مستقر کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ مضاف السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اِلٰی اللّٰہ جار باجرور ظرف مستقر کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم التَّصْبِيْحُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ یُرِیْجِی سَحَابًا ثُمَّ یُوَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُہٗ رِکَامًا فَتَرٰی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِہٖ وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْہَا مِنْ بَرَدٍ فِیصِیْبُ بِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَ یَصْرِفُہٗ عَنِ مَنْ یَّشَآءُ مَا یَکَادُ سَنَا بَرْقِہٖ یَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

آیت نمبر ۳۳: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فَعَلْتَ اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم یُرِیْجِی فعل ہو

ضمیر مستتر فاعل سَحَابًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُوَلِّفُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَیْنَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ یَجْعَلُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل رِکَامًا مفعول بہ اول و کَامًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لَمْ تَرَ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

فَاء عاطفہ تَرٰی فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل الْوَدْقِ ذوالحال یَخْرُجُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل مِنْ جِبَالٍ مفعول بہ اول و کَامًا مفعول بہ

جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال تَرٰی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ لَمْ تَرَ پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ یُنَزِّلُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل مِنَ السَّمَآءِ جار باجرور مبدل منہ مِنْ جِبَالٍ موصوف فیہا جار باجرور ظرف مستقر کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت مجرور، جار باجرور بدل، مبدل منہ بادل یُنَزِّلُ کے متعلق ہوئے، مِنْ بَرَدٍ جار باجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ یُرِیْجِی پر معطوف ہے۔ فَاء عاطفہ یَصِیْبُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بِہٖ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، ہن اسم موصول یَشَآءُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ یَصِیْبُ کا مفعول بہ،

فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُنزَلُ بمعطوف ہے۔

واو عاطفہ یَصْرِفُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ عن حرف جار من اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مجرور، جاد باجور در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُصَيَّبُ بمعطوف ہے۔ یَکَادُ فعل مقارب سننا مضاف بزقہ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَکَادُ کا اسم یَذْهَبُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بِالْأَبْصَارِ جاد باجور در ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل مقارب با اسم و خبر جملہ فعلیہ جملہ انتہائیہ التَّوَقُّیُّ یا بکر سے حال ہے۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳: یُقَلِّبُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق فی ذلک جاد باجور در ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ عبودۃ موصوف لام حرف جاد اولی الابصار مرکب اضافی مجرور، جاد باجور در ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کُلُّ دَابَّةٍ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ مَّاءٍ جاد باجور در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ یُقَلِّبُ بمعطوف ہے۔ فاء تفریعیہ مِنْهُمْ جاد باجور در ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّن اسم موصول یَمْشِي فعل ہو ضمیر مستتر فاعل علی حرف جاد بَطْنِهِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجور در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ کی ترکیب واضح ہے معطوف اول، واو عاطفہ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ کی ترکیب واضح ہے معطوف ثانی، معطوف ثانی با معطوفین جملہ معطوفہ ہوا۔

يَخْلُقُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل مَا اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل و فاعل و مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم علی حرف جار کُلُّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جاد باجور در ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے قَدِيرٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳۴

آیت نمبر ۲۶: لامر موطئہ لقم اور قسم مخدوف ہے۔ قد علامت فعل آذَلْنَا فعل تاضمیر فاعل آیت موصوف مُبَيِّنَاتِ اسم فاعل هُنَّ ضمیر مستتر فاعل بدو نون مل کر صفت، موصوف ہا صفت آذَلْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم مخدوف با جواب جملہ انشائیہ متاخر ہوا و استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتدا یَهْدِي فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل مَن اسم موصول یَشَاءُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل بدو نون مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مفعول بہ، الی حرف جار صِدَاطِ مُسْتَقِيمِ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوا۔

وَيَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۷: واو استینا فیہ یَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَمَنَّا فعل تاضمیر فاعل بَاء حرف جار اللہ اسم الجلالہ مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ بِالرَّسُوْلِ جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَمَنَّا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطَعْنَا فعل تاضمیر فاعل بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف يَتَوَلَّوْا فعل فَرِيقًا موصوف مِنْهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کَائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت ذوالحال، واو حالیہ مَا حَاجِزِيْہِ اُولٰٓئِكَ ملامر فروع اس کا اسم بآء حرف جار زائد الْمُؤْمِنِيْنَ ملامر منصوب خبر، مَا حَاجِزِيْہِ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال يَتَوَلَّوْا کا فاعل مَن حرف جار بَعْدِ ذٰلِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو يَتَوَلَّوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوا۔

وَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۸، ۳۹: واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دُعُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الی حرف جار اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، لامر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَن ماضی مقدّر ہے، يَحْكُمَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اِذَا منافیہ مُّعْرِضُوْنَ کا مفعول فیہ مقدم فَرِيقًا موصوف مِنْهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کَائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مبتدا مُّعْرِضُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم مل کر خبر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ حرف شرط يَكُنْ فعل ناقص لَّهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کَائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحَقُّ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط يَأْتُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال، مُذْعِنِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، بدو نون مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل اِلَيْهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

اَفِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ اَزْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ بَلَلٌ
اَوْ لَيْكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۵۰

آیت نمبر ۵۰: ہمزہ حرف استفہام فی حرف جار قُلُوْبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انتہائیہ معطوف علیہ، اَمْ حرف استفہام اَزْتَابُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذَلْ، اَمْ متعلقہ حرف عطف يَخَافُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَحِيْفَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل عَلَيْهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر يَخَافُوْنَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ہے۔ بَلَلٌ حرف عطف برائے اغراب اَوْ لَيْكَ اسم اشارہ مبتدا، هُمْ ضمیر فصل الظَّالِمُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۷ ●

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۵۱

آیت نمبر ۵۱: اِنْ حرف تحقیق کفوٰ اور معا کا نہ ہے، مگر فعل ناقص قَوْلَ مصدر مضاف الْمُؤْمِنِيْنَ مضاف الیہ، اِذَا ظرف زمان مضاف دُعُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَى حرف جار اللّٰهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ ناصب مقدّم ہے يَحْكُمَ فعل هو ضمیر مستتر فاعل يَبِيْنُهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو دُعُوْا کے متعلق یعنی ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قَوْلَ کا مفعول فیہ مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فیہ سے مل کر گان کی خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب يَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول، سَمِعْنَا فعل نا ضمیر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ بتا ویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو استینافیہ اَوْ لَيْكَ اسم اشارہ مبتدا هُمْ ضمیر فصل الْمُفْلِحُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰرِقُونَ ۵۲

آیت نمبر ۵۲: واو عاطفہ مَنْ اسم شرط مبتدا، يُطِيعُ فعل هو ضمیر مستتر فاعل اللّٰهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلَهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَخْشِ فعل یہ اصل میں يَخْشَى ہے هو ضمیر مستتر فاعل اللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يَتَّقُ فعل یہ اصل میں يَتَّقِي ہے هو ضمیر مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط، فاء جزائیہ اَوْ لَيْكَ اسم اشارہ

مبتدا ہُمُ ضمیر فصل الْقَائِدُونَ اسم فاعل هُمُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَن کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ، معطوف ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا بِطَاعَةِ
مَعْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واو عاطفہ أَقْسَمُوا فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے جَهْدَ مضافاً لَئِنْ اِيْمَانِهِمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی جَاهِدِينَ کی تاویل میں، ہو کر أَقْسَمُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ قسم، لام موطئہ للقسام اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط اَمَرْتُمْ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل هُمُ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ يَخْرُجُنَّ فعل واو محذوفہ لالتقاء الساکنین فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم اول کا جواب، قسم با جواب قسم اِنَّمَا كَانَ، معطوف ہے۔ اور اِنْ اَمَرْتَهُمْ شرط کی جزاء محذوف ہے لَيَخْرُجُنَّ: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، لَا تُقْسِمُوا فعل نبی واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ نہیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں طَاعَةَ موصوفہ مَعْرُوفَةٍ اسم مفعول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوفہ با صفت مبتدا، اور محذوف ہے خَيْرٌ مِنْ قَسْمِكُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق اَللَّهِ اسم الجلالہ اس کا اسم خَيْرٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جار ما مصدریہ تَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنْ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، أَطِيعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل، اَللَّهِ اسم الجلالہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ فَاء استینافیہ اِنْ حرف شرط تَوَلَّوْا فعل یہ اصل میں تَوَلَّوْا ہے واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق کھونہ، مَا كَانَتْ عَلَيْهِ جَارِ مجرور ظرف مستقر کَائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول حُمِّلَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مَخْلًا مرفوع مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَيْكُمْ جَارِ مجرور ظرف مستقر کَائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول حُمِّلْتُمْ فعل مجہول ثُمَّ ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ حرف شرط تُطِيعُوا فعل واو ضمیر فاعل، ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَهْتَدُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با

معطوف جملہ متانفہ ہوا۔ واؤ استینا فیہ یا حالہ مانا فیہ علی الرسول جاد باجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، بالآخر استینا مبلغ المبین مرکب تو صیغی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا، یا تطیعوا کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَ لِيُكِنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ وَ لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي ۚ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: وَعَدَ لعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الذین اسم موصول آمنوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال منکم جاد باجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال وَعَدَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عمِلُوا فعل واؤ ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الأعمال کے مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اول، اور وَعَدَ کا مفعول بہ ثانی محذوف ہے الاستخلاف والتکنین فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے یسْتَخْلِفَنَّ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، فی الأرض جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کاف حرف جار ما حرف مصدر استخلف فعل ہو ضمیر مستقر فاعل الذین اسم موصول جن حرف جار قبلہم مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر فعل محذوف مَضَوَا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ استخلف کا مفعول بہ، فعل با فاعل مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف استخلاف کا یسْتَخْلِفَنَّ کا مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لاہر موطنہ القسم یُکِنَّنَّ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل لہم جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول و صلہ ل کر دینہم کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب معطوف اول، واؤ عاطفہ لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے یُبَدِّلَنَّ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ اول جن حرف جار بعد مضاف خَوْفِهِمُ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَمْنًا بمعنی اُمینین مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔

یَعْبُدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یُبَدِّلَنَّ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے لا یُشْرِكُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بی جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے شَیْئًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یَعْبُدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ واؤ عاطفہ مَنْ اسم شرط مبتدا کَفَرَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل بَعْدَ ذَلِكَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ اُولَئِكَ محلا مرفوع مبتدا، ہُم ضمیر فصل الْفَاسِقُونَ اسم فاعل ہُم ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ وَعَدَ اللہ معطوف ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: واوستینا فیہ اقیموا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الصلوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اٹوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الزکوٰۃ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اڈل، واؤ عاطفہ اَطِيعُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الرَّسُولِ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ متانفہ ہوں لعل حرف ترقی کُم ضمیر اس کا اسم تَرْحَمُونَ فعل امر واؤ ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، لعل ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ مطلقہ ہوں یا راجعی الرَّحْمِ کی تادل میں ہو کر اَطِيعُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: لَا تَحْسَبَنَّ فعل نہی اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مفعول بہ اڈل مُعْجِزِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل فِي الْأَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔ واؤ عاطفہ مَا لَهُمُ مرکب اضافی مبتدأ، النَّارُ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اور معطوف علیہ محذوف ہے بَلْ هُمْ مَقْهُورُونَ، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانفہ ہوں واؤ استینا فیہ لاہر موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے لَيْسَ فعل ذم المَصِيرُ فاعل، دونوں مل کر خبر، اور مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے ہی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ قسم کا جواب، قسم کا جواب جملہ متانفہ ہوں۔

﴿۵۲﴾ رُكُوعٌ ۸ ﴿۵۱﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدُهَا نَاطُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے لِيَسْتَأْذِنَ فعل امر کُم ضمیر مفعول بہ الَّذِينَ اسم موصول مَلَكَتْ فعل اَيْمَانُكُمْ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول لَمْ يَبْلُغُوا فعل امر واؤ ضمیر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کَائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل الْحُلُمَ مفعول بہ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف اِسْتِئْذَانًا کے مفعول مطلق برائے لِيَسْتَأْذِنَ، لَمْ يَبْلُغُوا فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف لِيَسْتَأْذِنَ کا فاعل مِنْ حرف جار قَبْلِ مضاف صَلَاةِ الْفَجْرِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لِعَوْرَاتٍ لَكُمْ کے متعلق ہوئے، واؤ عاطفہ حِينَ مضاف تَضَعُونَ فعل امر واؤ ضمیر فاعل ثِيَابَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ الظَّهِيرَةِ جار مجرور ظرف لِعَوْرَاتٍ لَكُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بواسطہ عطف لِيَسْتَأْذِنَ کا مفعول فیہ ہے، واؤ عاطفہ مِنْ حرف جار بَعْدِ مضاف صَلَاةِ الْعِشَاءِ مرکب اضافی

مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور بواسطہ عطف متعلق مانی ہوئے، فعل امر اپنے فاعل و مفعولین و متعلقین جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہوں۔

ثَلَاثٌ مِيز عَوَزَاتٍ موصوف لکُم جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت تمیز مضاف الیہ، تمیز با تمیز خبر ہے مبتدا محذوف ہذہ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لیس فعل ناقص عَلَیْکُمْ جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ عَلَیْہُمْ جار با مجرور معطوف، دونوں مل کر ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہوئے، کائِنَاتِ اسم فاعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَعْدَ هُنَّ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ خبر مقدم، جُنَاحٌ اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

طَوَّافُونَ صیغہ مبالغہ ہُمْ ضمیر مستتر فاعل عَلَیْکُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر مبتدا محذوف ہُمْ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبدل منہ بعضکم مرکب اضافی مبتدا، علی بعض جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولی سے بدل ہے۔ کَذٰلِکَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيِّنَاتَا کے مفعول مطلق مقدم، یَبَيِّنُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لکُم جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الایۃ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَلَیْکُمْ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر اول حَکِیْمٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر ثانی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالَ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلِیَسْتَأْذِنُوْا کَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ

کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَلَغَ فعل الاطفال ذوالحال مِنْکُمُ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل الْحُلُمَ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لَیَسْتَأْذِنُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، کاف حرف جار صا حرف مصدری اسْتَاذَنَ فعل الَّذِیْنَ اسم موصول مِنْ حرف جار قَبْلِہُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيِّنَاتَا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ اسْتَاذَنَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اسْتِئْذَانَا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

کَذٰلِکَ جار با مجرور کائِنَاتِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيِّنَاتَا کے مفعول مطلق مقدم یُبَیِّنُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لکُم جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے ایتہ مرکب منصوب بالکسرہ اضافی مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو اعتراضیہ یا حالہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَلَیْکُمْ حَکِیْمٌ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہے یَبَيِّنُ کے فاعل سے حال ہے۔

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِیْ لَا یَزُجُوْنَ نِکَاحًا فَلِیَسَ عَلَیْہِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ

ثِیَابَہُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِیْنَةٍ ؕ وَاَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّہُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۶۰﴾

کرصلہ، موصول باصلہ بواسطہ مضاف یُؤْتِی کے معطوف تاسع، اَوْ عاطفہ صِدِّیْقُکُمْ مرکب اضافی بواسطہ مضاف محذوف یُؤْتِی کے معطوف عاشر، معطوف علیہ با معطوفات عشرہ مِن کا مجرور، جار مجرور طرف لغو تَاکُلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں فی اَنْ... الخ ہے جار مجرور حَرْج کے متعلق ہوئے۔

لَیْسَ فعل ناقص عَلَیْکُمْ جار مجرور طرف مستقر کَانِیْنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَّاحُ موصوف اَنْ حرف مصدری و نصب تَاکُلُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال جَبِیْنًا اَوْ اَشْتَاتًا معطوف علیہ با معطوف حال ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل بتاویل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں فی اَنْ... الخ ہے جار مجرور کَانِیْنَا کے متعلق ہو کر جُنَّاحُ کی صفت ہے، موصوف باصفت اسم مؤخر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَاذ استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دَخَلْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل یُؤْتِی مفعول فیہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاذ جزائیہ سَلِمُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل عَلٰی حرف جار اَنْفِیْسُکُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو سَلِمُوْا کے متعلق ہوئے، تَحِیَّةٌ موصوف مِن حرف جار عِنْدِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کَانِیْنَا کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُدْبِرٌ کَمَا اسم مفعول ہی مستتر نائب فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، کَطِیْبَةٌ صِیْدٌ صفت ہی مستتر فاعل سے مل کر صفت ثالثہ، موصوف باصفات ثلاثہ بواسطہ موصوف محذوف تَسْلِیْمًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ کَذٰلِکَ یُتِیْنُ اللّٰهُ لَکُمْ الْاٰیٰتِیْ کی ترکیب آیت نمبر ۵۸ میں گزر چکی ہے، لَعَلَّ حرف تَرْجِیْ کُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تَرْجِیْ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ مطلقہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۹ ●

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا کَانُوْا مَعَهُ عَلٰی اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ یَذْهَبُوْا حَتّٰی یَسْتَاذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَاذِنُوْنَکَ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِذَا اسْتَاذِنُوْکَ لِبَعْضِ شَاۡئِهِمْ فَاذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ⑩

آیت نمبر ۶۲: اِنْ حرف تحقیق کفوفہ اور مَا کاف الْمُؤْمِنُوْنَ مبتدا، الَّذِیْنَ اسم موصول اَمَنُوْا فعل واو ضمیر فاعل باء حرف جار اللّٰہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم مَعَهُ مرکب اضافی کَانِیْنِیْنَ کا مفعول فیہ علی حرف جار اَمْرٍ جامع مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور کَانِیْنِیْنَ کے متعلق ہوئے کَانِیْنِیْنَ اسم فاعل اپنے ہَمْ ضمیر مستتر فاعل و متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَمَّ یَذْهَبُوْا فعل واو ضمیر فاعل حَتّٰی حرف غایت و جر اور اس کے بعد اَنْ مقدّم ہے یَسْتَاذِنُوْا فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور لَمَّ یَذْهَبُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اِنْ حرف تحقیق الَّذِینَ اسم موصول یَسْتَأْذِنُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ اسم اولیٰ کلام ابتدایہ الَّذِینَ اسم موصول یُؤْمِنُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فَاء عاطفہ اذ اشرطیہ مفعول فیہ مقدم اسْتَأْذِنُوا فعل واؤ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ لام حرف جار بَعْضُ شَأْنِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اَدْخَلْنَا فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لام حرف جار مَنْ اسم موصول شِئْتِمْ فعل ثناء مفتوحہ فاعل بدو مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَانَ تَاکَ متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور ظرف لغو اَدْخَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِسْتَعْفِفُوا فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لَكُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اللّٰہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء تاملہ شرطیہ ہوا اِنْ حرف تحقیق اللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم غَفُورٌ رَحِیْمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متضافہ ہو۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: لَا تَجْعَلُوا فعل نمی واؤ ضمیر فاعل دُعَاءَ الرَّسُولِ مرکب اضافی ذوالحال، بَيْنَكُمْ مرکب اضافی کَانِتَا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ اول کاف حرف جار دُعَاءِ مصدر مضاف بَعْضِكُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ معنی فاعل بَعْضًا مفعول بہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و مفعول بہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہو۔ قَدْ حرف تحقیق يَعْلَمُ فعل اللّٰہ اسم الجلالہ فاعل الَّذِینَ اسم موصول یَتَسَلَّلُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، مِنْكُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ لِوَاذًا بمعنی اسم فاعل حال ثانیہ، ذوالحال باحالین یَتَسَلَّلُونَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَعْلَمُ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

فَاء نصیوہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لِيَحْذَرِ فعل امر الَّذِینَ اسم موصول يُخَالِفُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْ حرف جار أَمْرِهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور يُخَالِفُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول وصلہ مل کر لِيَحْذَرِ کا فاعل، اَنْ حرف مصدری و نصب تُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ فِتْنَةٌ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ يُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی فاعل، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر لِيَحْذَرِ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

ترکیب سُورَةُ الْفُرْقَانِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیْکُوْنَ
لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۝ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ یَکُنْ
لَهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ۝

آیت نمبر ۱: تَبٰرَكَ الَّذِیْ اسم موصول نَزَّلَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل الْفُرْقَانَ مفعول بہ علی حرف جار عَبْدِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق اِذْل ہونے، لام حرف جار اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے یَکُوْنَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم لِلْعٰلَمِیْنَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہونے، نَذِیْرًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور نَزَّلَ کے متعلق ثانی ہونے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین صلہ، موصول با صلہ مبدل منہ، الَّذِیْ اسم موصول لہٗ جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ مضاف السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَتَّخِذْ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل و لَدًا مفعول بہ ثانی اور مفعول بہ اِذْل اَحَدًا محذوف ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، واو عاطفہ لَمْ یَکُنْ فعل ناقص لہٗ جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم شَرِیْکٌ موصوف فی الْمُلْکِ جار با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کُلَّ شَیْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، عَاقِبَ عاطفہ قَدَرٌ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، تَقْدِیْرًا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع معطوف علیہ با معطوفات اربعہ صلہ، موصول با صلہ بدل، مبدل منہ بادل تَبٰرَكَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَ هُمْ یُخْلَقُوْنَ وَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ
ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَ لَا حَیْوَةً وَ لَا نَشُوْرًا ۝

آیت نمبر ۳: واو استینائیہ اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ حرف جار دُوْنِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم اِلٰهَةً موصوف لایَخْلُقُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال، واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، یُخْلَقُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال لایَخْلُقُوْنَ کا فاعل شَیْئًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یَمْلِكُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل لام حرف جار اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہونے ضَرًّا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّةً نَفْعًا معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، واو

عاطفہ لایمکنون فعل واو ضمیر فاعل مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُوْرًا معطوف علیہ ہا معطوفین مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مبنی، معطوف علیہ ہا معطوفین الہیۃ کی صفت، موصوف ہصفت اِتَّخَذُوْا کا مفعول اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَفْكٌ اِفْتَرٰهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ

ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝۵۴ وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فِيْهِ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

آیت نمبر ۵۴: واوستینا فیہ قال فعل الَّذِیْنَ اسم موصول کَفَرُوْا فعل ہاواو ضمیر فاعل صلہ، موصول وصلہ مل کر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِن حرف نفی ہذا اسم اشدہ مبتدأ، اَلْحَرْفِ اسْتِثْنَاءُ اِفْكٌ موصوف اِفْتَرٰی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعَانَ فعل ضمیر مفعول بہ، عَلَیْہِ جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، قَوْمٌ موصوف اٰخَرُوْنَ اسم تفضیل ہُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف ہصفت فاعل، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اِفْكٌ کی صفت، موصوف ہصفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف علیہ، قائم عاطفہ قَدْ علامت فعل، جَاءُوْا فعل واو ضمیر فاعل ظُلْمًا وَّزُوْرًا معطوف علیہ ہا معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول، اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ مرکب اضالیہ اِسْمٌ اِكْتَتَبَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر حال، ذوالحال ہا حال مبتدأ محذوف ہی کی خبر، مبتدأ ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف مبنی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوفہ مستانہ ہوں۔

فائدہ: اِکْتَتَبَ سے پہلے حرف قَدْ محذوف ہے کیونکہ جب ماضی حال واقع ہوتی ہے تو اس پر قَدْ کا ہونا ضروری ہے خواہ لفظ ہو یا مقدر ہو۔

قائم عاطفہ یا تطلیعہ ہی ضمیر مبتدأ، تُمْلٰی فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل عَلَیْہِ جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، بُکْرَةً وَّاَصِيْلًا معطوف علیہ ہا معطوف مفعول فیہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا یا اِکْتَتَبَ ہا معطوف ہے۔

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

آیت نمبر ۱۰: قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، اَنْزَلَ فعل ضمیر مفعول بہ مقدم، الَّذِيْ اسم موصول يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل السِّرِّ مفعول بہ اول، فی حرف جاد السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ ہا معطوف مجرد، جاد ہا مجرد طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اَنْزَلَ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ ہولین حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم عَفُوْرًا رَّحِيْمًا خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

آیت نمبر ۷: واو عاطفہ قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مآ اسم استفہام مبتدا، لام حرف جار، هذا اسم اشارہ موصوف الرسول صفت، موصوف با صفت ذوالحال یَأْكُلُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل الطَّعَامَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَمْشِي فعل ہو ضمیر مستتر فاعل فی الْأَسْوَاقِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ پہلے قَالُوا پر معطوف ہے۔ لَوْلَا حرف تخیض اَنْزَلَ فعل مجہول اِلَيْهِ جار با مجرور متعلق ہوئے مَلَكٌ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قاء برائے سبب یَكُونُ فعل ناقص ہو مستتر ذوالحال نَذِيرًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال با حال اس کا اسم مَعَهُ مرکب اضافی کائینا کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر مصدر کی تاویل میں ہو کر معطوف ہے، اور معطوف علیہ جملہ اولیٰ سے حاصل ہونے والا مصدر ہے کیونکہ جملہ اولیٰ هَلَّا كَانَ اَنْزَالَ مَلَكٌ کی تاویل میں ہے۔

اَوْ يُلْقَىٰ اِلَيْهِ كَنُزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا
رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

آیت نمبر ۸: او عاطفہ یُلْقَىٰ فعل مجہول اِلَيْهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کَنُزٌ نائب فاعل، تینوں مل کر اَنْزَلَ پر معطوف ہے او عاطفہ تَكُونُ فعل ناقص کہ جار با مجرور ظرف مستقر کائینہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جَنَّةٌ موصوف یَأْكُلُ فعل ہو مستتر فاعل مِنْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اَنْزَلَ پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ قَالَ فعل الظَّالِمُونَ فاعل ہو و لو مل کر قول، اِنْ حرف نفی تَتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء رَجُلًا مَّسْحُورًا مرکب توصیفی مشتق مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوا پر معطوف ہے۔

اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

آیت نمبر ۹: اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل كَيْفَ کائینین کا مفعول فیہ ہو کر صَرَبُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، صَرَبُوا فعل واو ضمیر فاعل لَكَ جار با مجرور متعلق ہوئے الْأَمْثَالَ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، قاء عاطفہ ضَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، قاء عاطفہ لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل واو ضمیر فاعل سَبِيلًا مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ملاً منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ
يَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا ۝

آیت نمبر ۱۰: اَتَّبِعْ فِعْلَ الَّذِي اسْمٌ موصول بان حرف شرط شاء فعل هو مستتر فاعل، دونوں مل کر شرط، جعل فعل هو مستتر فاعل لَكَ جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، خَيَّرَ اسْمٌ تفضیل هو ضمیر مستتر فاعل مِنْ ذَلِكَ جار مجرور متعلق ہوئے، اس تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مبدل منہ جَعَلْتِ اسْمٌ موصول تَجَرَّبِي فِعْلٌ مِنْ حرف جار تَحْتَهَا مَرْكَبٌ اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَلَا تَهْتَدُونَ فاعل، تینوں مل کر جَعَلْتِ کی صفت، موصوف بہ صفت بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَجْعَلُ فِعْلٌ هو ضمیر مستتر فاعل لَكَ جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم قُصُورًا مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول باصلہ تَبْرُكٌ كَا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ فَوَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

آیت نمبر ۱۱: بَلْ حرف عطف برائے اضراب كَذَّبُوا فِعْلٌ واو ضمیر فاعل بَاءَ حرف جار السَّاعَةِ ذوالحال، واو حالیہ اَعْتَدْنَا فاعل نا ضمیر فاعل لَامٌ حرف جار مَنْ اسْمٌ موصول كَذَّبَ فِعْلٌ هو ضمیر مستتر فاعل بِالسَّاعَةِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے سَعِيرًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور كَذَّبُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا ۝ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِقًا مَقْرَنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

آیت نمبر ۱۲، ۱۳: إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم رَأَتْ فِعْلٌ هِیْ مستتر فاعل هُمُ ضمیر مفعول بہ، مِنْ حرف جار مَكَانٍ بَعِيدٍ مَرْكَبٌ توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، سَمِعُوا فِعْلٌ واو ضمیر فاعل لَهَا جار مجرور متعلق ہوئے تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَلْقَا فِعْلٌ مَجْهُولٌ واو ضمیر نائب فاعل مِنْهَا جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَكَانًا ضَبِقًا مَرْكَبٌ توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول فیہ مَقْرَنِينَ "اَلْقَا کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، دَعَوْا فِعْلٌ واو ضمیر فاعل هُنَالِكَ ظرف مکان مفعول فیہ ثُبُورًا مفعول بہ، چاروں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝

آیت نمبر ۱۴: لَا تَدْعُوا فِعْلٌ نَهْيٌ واو ضمیر فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ ثُبُورًا وَاحِدًا مَرْكَبٌ توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَدْعُوا فِعْلٌ امر واو ضمیر فاعل ثُبُورًا كَثِيرًا مَرْكَبٌ توصیفی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول محذوف تَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَمَا قَوْلُهُ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيراً ۝

آیت نمبر ۱۵: قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، ہمزة حرف استفہام ذلک اسم اشارہ مبتدا، خیر اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، امر عاطفہ جَنَّةُ الْخُلْدِ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول وُجِدَ فعل مجہول الْمُتَّقُونَ نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت خیر پر معطوف ہے۔ کانت فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اسم لہم جار مجرور ظرف لغو جَزَاءً کے متعلق ہوئے، جَزَاءً وَاصِيراً معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٍ لَنْ يَمُوتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًّا مَسْئُولًا ۝

آیت نمبر ۱۶: لہم جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق اول ہوئے فیہا جار مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے کائن اسم فاعل ہو مستتر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم ما اسم موصول یَشَاءُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال خُلْدٍ اسم فاعل ہم ضمیر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ کانت فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم علی حرف جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم وَعَدًّا مَسْئُولًا مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

آیت نمبر ۱۷: واو عاطفہ یَوْمَ مضاف یَحْشُرُ فعل ہو مستتر فاعل ہم ضمیر منصوب معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول یَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر محذوف ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَحْشُرُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ یَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، ہمزة حرف استفہام اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، اَضَلَلْتُمْ فعل ثم ضمیر فاعل عِبَادِي مرکب اضافی موصوف ہُوْلَاءِ اسم اشارہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، امر عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا، ضَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل السَّبِيلِ مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، مرکب اضافی فعل محذوف اَذْكُرْ کا مفعول فیہ، اَذْكُرْ فعل امر آت مستتر فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ قُلْ پر معطوف ہے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۖ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

آیت نمبر ۱۸: قَالُوا نَحْنُ مُسْتَرَفِعُونَ مطلق فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول سُبْحٰنَكَ مَرَكِبِ اِضَافِي فَعْلٍ مَعْدُوفٍ نَسْبِجٌ مَحْمُولٌ مطلق، نَسْبِجٌ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفِعُونَ مطلق فعل و مفعول مطلق جملہ مقترضہ دعائیہ ہوں مانا فیہ كَانَ زَلَّوْهُ یَنْبَغِی فَعْلٌ لَتَا جَدٍ بِمَجْرُورٍ مطلق ہوئے اَنْ حَرْفٍ مَصْدَرٍ وَنَسْبٌ لَتَّخَذَ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفِعُونَ مطلق فاعل مِنْ حَرْفٍ جَدٍ ذُو نِكَ مَرَكِبِ اِضَافِي مَجْرُورٍ، جَدٍ بِمَجْرُورٍ طَرَفٍ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَةٌ كے معلق ہو کر مفعول بہ ہائی مِنْ حَرْفٍ جَدٍ زَلَّوْهُ اَوَّلِیَاءَ مَعْلًا مَنْصُوبٍ مفعول بہ اَوَّلِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مَصْدَرٍ یَنْبَغِی كَا قَاعِلٍ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ معلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاطِفٌ لِكِنَّ حَرْفِ اسْتِدْرَاكِ مَهْمَلٍ مَتَّعَتْ فَعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحٌ ضَمِیرُ فَاعِلٍ هُمُ ضَمِیرُ مَنْصُوبٍ مفعول بہ، وَاوْ بِمَعْنَى مَعَ اَبَاءَهُمْ مَرَكِبِ اِضَافِي مفعول معہ، حَقَّقِ حَرْفِ غَايَةِ وَجَرَسُوْا فَعْلٌ وَاوْ ضَمِیرُ فَاعِلِ الَّذِیْ كَرَّ مفعول بہ، تَمِيزُ مَلِكٍ مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاطِفٌ كَاوْ فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاوْ ضَمِیرُ اس كَا سَمٍ، قَوَّ مَا بُوْزَا مَرَكِبٍ تَوْصِیْفِی خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ عَلَیْہِ خَبْرِیَّةٌ مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْدُوفٍ مَعْلًا مَجْرُورٍ مَجْرُورٍ، جَدٍ بِمَجْرُورٍ مَتَّعَتْ كے معلق ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین وَ معلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْدُوفٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمْلَةٌ عَلَیْہِ خَبْرِیَّةٌ ہُو۔

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَٰ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَفاً وَ لَا نَصْرًا وَ مَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِیْرًا ۝

آیت نمبر ۱۹: قَامَ اسْتِثْنَائِيَّةٌ قَدْ عَلَامَاتٌ فَعْلٌ كَذَّبُوا فَعْلٌ وَاوْ ضَمِیرُ فَاعِلٍ كُمْ ضَمِیرُ مَنْصُوبٍ مفعول بہ، تَاءٌ حَرْفٌ جَدٍ مَصْدَرٍ یَظْلِمُ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ تَقْوُلُونَ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ تَقْوُلُونَ كے معلق ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعول بہ وَ معلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، تَاءٌ عَاطِفٌ مَّا حَرْفِ نَفِی تَسْتَطِيعُونَ فَعْلٌ وَاوْ ضَمِیرُ فَاعِلٍ صَرَفاً مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاطِفٌ لَا زَلَّوْهُ نَصْرًا مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْدُوفٍ مفعول بہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعول بہ مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْدُوفٍ جَمْلَةٌ مَسْتَفْرِغَةٌ وَاوْ اسْتِثْنَائِيَّةٌ فِی مَنِّ اسْمٍ شَرْطٌ مُّبْتَدَا، یَظْلِمُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفِعُونَ مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، تَاءٌ عَاطِفٌ مِّنْكُمْ طَرَفٍ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَةٌ كے معلق ہو کر حال، ذُو اِحْوَالٍ بِاِحْوَالٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمْلَةٌ عَلَیْہِ خَبْرِیَّةٌ شَرْطٌ، لَذِیْقٌ فَعْلٌ اُورِیَّةٌ اَصْلٌ مِیْنُ لَذِیْقٍ ہُو۔ نَحْنُ مُسْتَرَفِعُونَ ضَمِیرُ مفعول بہ اَوَّلِ، عَذَابًا مَوْصُوفٌ كَبِیْرًا مِیضٌ مَفْتُوحٌ مُسْتَرَفِعُونَ سے مل کر صفت، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مفعول بہ ہائی، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِیَّةٌ مَنِّ كِی خَبْرٌ، مُّبْتَدَا خَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَسْتَفْرِغَةٌ ہُو۔

وَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَیَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ یَمْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ طَوْ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط اَتَصْبِرُونَ ۝ وَ كَانَ رَبُّكَ بِصِیْرَتِكُمْ

آیت نمبر ۲۰: وَاوْ اسْتِثْنَائِيَّةٌ فِی مَنِّ مَا فِی اَرْسَلْنَا فَعْلٌ تَا ضَمِیرُ فَاعِلٍ قَبْلَكَ مَرَكِبِ اِضَافِي مفعول فیہ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ جَدٍ بِمَجْرُورٍ طَرَفٍ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَةٌ كے معلق ہو کر عَدَا مَوْصُوفٌ كِی صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ ذُو اِحْوَالٍ، اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَائِيَّةٌ حَرْفِ تَحْقِیقِ هُمُ ضَمِیرُ اس كَا سَمٍ لَا مَرَدُّ حَلْقَةٍ یَاْكُلُوْنَ فَعْلٌ وَاوْ ضَمِیرُ فَاعِلِ الطَّعَامَ مفعول بہ، تَمِيزُ مَلِكٍ مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاطِفٌ یَمْشُوْنَ فَعْلٌ فِی حَرْفِ جَدٍ اَلْاَسْوَاقِ مَجْرُورٍ، جَدٍ بِمَجْرُورٍ طَرَفٍ لَفْظٌ مَعْلُقٌ ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ معلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْدُوفٍ خَبْرٌ اِنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ حَالٌ ذُو اِحْوَالٍ بِاِحْوَالٍ اَرْسَلْنَا كَا مفعول بہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَسْتَفْرِغَةٌ ہُو۔

واو عاطفہ جَعَلْنَا فاعل نا ضمیر فاعل بَعْضَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اِذْل، لِبَعْضِ جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم فِئْتَنَةٍ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَا اَرْسَلْنَاہِ مَعْطُوف ہے۔ ہمزہ حرف استفہام تَصْبِرُونَ فاعل واو ضمیر ذوالحال، واو حالیہ کان فاعل ناقص رَبِّكَ مرکب اضافی اسم بَصِيْرًا صیغہ صفت ہو مستقر فاعل دونوں مل کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَآ أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اَوْ نَرٰی رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُنُوْا كَبِيْرًا ۱۱

آیت نمبر ۲۱: واو عاطفہ یا استینائیہ قَالَ فاعل الَّذِينَ اسم موصول لَا يَرْجُونَ فاعل واو ضمیر فاعل لِقَاءَنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَوْ لَا حرف تخصیض غیر عامل اُنزِلَ فاعل مجہول عَلَيْنَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْمَلٰٓئِكَةَ نائب فاعل، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف علیہ، اوو حرف عطف نَرٰی فاعل مضارع نَحْنُ ضمیر مستقر فاعل رَبَّنَا مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ لام موطرہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل اسْتَكْبَرُوْا فاعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف علیہ، واو عاطفہ عَتَوْا فاعل واو ضمیر ظاہر فاعل، عَتَوْا موصوف کَبِيْرًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف با صفت مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوف قسم محذوف کا جواب ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰی يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۱۱

آیت نمبر ۲۲: یَوْمَ مضاف یَرَوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل الْمَلٰٓئِكَةَ ذوالحال، لَآ نئی جنس بُشْرٰی مصدر یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، دونوں مل کر لا کلام لِلْمُجْرِمِيْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ قَائِلِيْنَ محذوف کا مقولہ ہو کر الْمَلٰٓئِكَةَ کا حال ہے، ذوالحال باحال یَرَوْنَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف علیہ، واو عاطفہ يَقُولُوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، حِجْرًا مَّحْجُوْرًا موصوف کہ ہائے کید فعل محذوف حِجْرًا کا مفعول مطلق ہے، فعل مجہول ہائے فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اَذْكُرْ کا مفعول مطلق ہے، اَذْكُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل، فعل امر با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاً مِّنْثُوْرًا ۱۱

آیت نمبر ۲۳: واو استینائیہ قَدْ مَنَّآ فیہ قَدْ مَنَّآ فاعل نا ضمیر فاعل اِلٰی حرف جار مَا اسم موصول عَمِلُوْا فاعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مِنْ عَمَلٍ جار با مجرور ظرف لغو مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور ظرف لغو قَدْ مَنَّآ کے

متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاؤ عاطفہ جَعَلْنَا فاعل نا ضمیر نا اعلیٰ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، هَبَاءٌ موصوف مَثْبُوتُ اسم مفعول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مرکب اضافی مبتدأ، يَوْمَئِذٍ مَبْدِيٌّ مرکب اضافی خَيْرٌ کا مفعول فیہ مقدم، خَيْرٌ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر فاعل مُسْتَقَرًّا تَمِيزُ اسم تفضیل اپنے فاعل اور تَمِيزُ مفعول فیہ مقدم سے مل کر شبہ جملہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ أَحْسَنُ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر فاعل مَقِيلًا تَمِيزُ اسم تفضیل بافاعل و تَمِيزُ شبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

سوال: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مبتدأ جمع ہے اور خبر خَيْرٌ اور أَحْسَنُ مفرد ہے حالانکہ افراد، ثننیہ اور جمع کے اعتبار مبتدأ اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔؟

جواب: جب اسم تفضیل مین کے ساتھ مستعمل ہو تو یہ ہمیشہ واحد آتا ہے اس کا مبتدأ اور موصوف جو بھی ہو اور یہاں بھی خَيْرٌ اور أَحْسَنُ مین کے ساتھ مستعمل ہے اس لئے کہ یہ اصل میں خَيْرٌ مِّنَ الْكَافِرِينَ وَأَحْسَنُ مِّنَ الْكَافِرِينَ ہے اس لئے اسم تفضیل مفرد لایا گیا ہے۔

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واؤ استینا فیہ يَوْمَ مضاف تَشْقُقُ فعل السَّمَاءُ ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تُزَلُّ فعل مجہول الْمَلَائِكَةُ نائب فاعل تَنْزِيلًا مفعول مطلق، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَوْمَ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل مخدوف اذْ كُرُّ کا مفعول فیہ ہے، اذْ كُرُّ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل، فعل امر اپنے فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ اذْ كُرُّ يَوْمَ يَرَوْنَ بہ معطوف ہے یا جملہ متانہ ہے۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ ط وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: الْمَلِكُ مصدر يَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، دونوں مل کر موصوف الْحَقُّ صفت، موصوف ہفت مبتدأ، لِلرَّحْمَنِ جار مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم یَوْمًا موصوف عَلَى الْكَافِرِينَ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَسِيرًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم يَوْمًا کی صفت، موصوف ہفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: واؤ عاطفہ یوم مضاف یَعْضُ فعل الظَّالِمُ فاعل علی حرف جار یَدَّیْہِ یہ اصل میں یَدَّیْنِ ہے، مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذْکُرُ کا مفعول فیہ ہے، یَقُولُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بدو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یَاء حرف نداء برائے تنبیہ، لَیْتَ حرف تمنی نون برائے وقایہ یَاء ضمیر منصوب اس کا اسم اَتَّخَذْتُ فعل ثناء مضمومہ ضمیر متصل فاعل مَعَ الرَّسُولِ مرکب اضافی کَاثِمًا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، سَبَّیْلًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تمنی اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ الظَّالِمُ کا حال ہے۔

یُوْیَلِّتِ لَیَّتِنِیْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیْلًا ۝

آیت نمبر ۲۸: یَاء حرف نداء اذْعُوْا کے قائم مقام، اذْعُوْا فعل انا ضمیر مستتر فاعل و یَلِّتِ یہ اصل میں و یَلِّتِیْ ہے یَاء کے عوض الف لائی گئی ہے یہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، لَیْتَ حرف تمنی نون برائے وقایہ یَاء ضمیر منصوب اس کا اسم، لَمْ اَتَّخِذْ فعل انا ضمیر مستتر فاعل فُلَانًا مفعول بہ اول، خَلِیْلًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تمنی با اسم و خبر جملہ انشائیہ تمنیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

لَقَدْ اَصْلَبْنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِیْ طَوْكَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۝

آیت نمبر ۲۹: لام موطئہ للکسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَصْلَبَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ، عَنِ الذِّکْرِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے بَعْدَ ظرف زمان مضاف اِذْ ظرف زمان مضاف جَاءَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بَعْدَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَصْلَبَ کا مفعول فیہ ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ واؤ استینا فیہ کَانَ فعل ناقص الشَّیْطٰنُ اس کا اسم لِلْاِنْسٰنِ جار مجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم خَدُوْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ لِلْاِنْسٰنِ "خَدُوْلًا کے متعلق مقدم ہوں۔

وَ قَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ اَتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝

آیت نمبر ۳۰: واؤ استینا فیہ قَالَ فعل الرَّسُوْلُ فاعل، بدو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یَاء حرف نداء اذْعُوْا کے قائم مقام، اذْعُوْا فعل انا ضمیر مستتر فاعل رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ منادی مضاف منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، اِنَّ حرف تحقیق قَوْمِیْ مرکب اضافی منصوب تقدیر اس کا اسم اَتَّخَذُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل هٰذَا اسم اشارہ موصوف یا سبب منہ یا مبین، الْقُرْاٰنِ صفت یا بدل یا عطف بیان، موصوف با صفت مفعول بہ اول مَهْجُوْرًا اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل بدو نوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝۳۱

آیت نمبر ۳۱ : واوستینا فیہ کذلیک جہ باجر در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جعلاً کے مفعول مطلق مقدم جعلنا فعل نا ضمیر فاعل لام حرف جار کن نبی مرکب اضافی مجرور، جار باجر در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ مبنی مقدم، عدا و موصوف من المجرمین جہ باجر در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہ صفت مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا و اوستینا فیہ کفی فعل بآء حرف جار ذلک و ربک مرکب اضافی لفظاً مجرور عملاً مرفوع فاعل ہادی و نصیرا معطوف علیہ با معطوف تیز، فعل بافاعل و تیز جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ۝۳۲

آیت نمبر ۳۲ : واوستینا فیہ قال فعل الذین اسم موصول کفرؤا فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لو لا حرف تخصیض غیر عامل نزل فعل مجہول علیہ جار باجر در طرف لغو متعلق ہوئے القرآن نائب فاعل جملہ و احدہ مرکب توصیفی القرآن کا حال ہے یا فعل کی نسبت سے تیز ہے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ قال الذین لا یذجون ہ معطوف ہے یا جملہ متانفہ ہے

کذلیک جہ باجر در متعلق ہوئے فعل مقدر نزلنا القرآن کے، لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے، لثبتت فعل تحن ضمیر مستتر فاعل بہ جار باجر در طرف لغو متعلق ہوئے فؤادک مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار باجر در نزلنا مقدر کے متعلق مبنی ہوئے، نزلنا فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رتلنا فعل نا ضمیر فاعل مرفوع متصل فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ ترتیلا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

وَ لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳ : واوستینا فیہ لا یأتون فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بمثل جار باجر در طرف لغو متعلق ہوئے الا حرف استثناء جئنا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بآء حرف جار الحق معطوف علیہ، واو عاطفہ احسن اسم تفضیل ہو متتر فاعل تفسیر تیز، تیزوں مل کر معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار باجر در متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستثنی مفرغ عملاً مجرور، اور اس کا مستثنیٰ منہ محذوف ہے، فی کالی من الاحوال، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ متعلق مبنی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ اُولٰٓئِكَ سَرُّ مَكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝۳۴

آیت نمبر ۳۴ : الذین اسم موصول یحشرون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل علی و وجوہہم جار باجر در طرف مستقر ماشین

کے متعلق ہو کر نائب فاعل سے حال ہے، اِلٰی جَهَنَّمَ جارِ باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، شَرُّوا اسم تفضیل اس لئے کہ یہ اصل میں اَشْرُوْا ہے، هُمْ ضمیر مستتر فاعل مَكَانًا تمييز، تینوں مل کر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفَ اَضْلًا اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر فاعل سَبِيْلًا تمييز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ اَلَّذِيْنَ يُخْشَوْنَ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ اٰخَاهُ هٰرُونَ وَزِيْرًا ۙ فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلٰى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۵، ۳۶: وَاَوْعَاطِفَ اَضْلًا موطئہ للقسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، اٰتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل مُوسٰى مفعول بہ اول، الْكِتٰبَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفَ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، اٰخَاهُ مرکب اضافی مبدل منہ، یا مبین، هٰرُونَ بدل یا عطف بیان، مبدل منہ بادل مفعول بہ اول، وَزِيْرًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَاَوْعَاطِفَ قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اذْهَبْ اِلٰى امر الف ضمیر فاعل اِلٰی حرف جار الْقَوْمِ موصوف اَلَّذِيْنَ اسم موصول كَذَّبُوْا فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار اٰتَيْنَا مرکب اضافی مجرور، جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجور و طرف لغو اذْهَبْ اِلٰى کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم مخدوف کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ تسمیہ ہوا۔ فَاَوْعَاطِفَ اور معطوف علیہ مخدوف ہے اصل عبارت ہے ذَهَبْ اِلَيْهِمْ فَدَمَّرْنٰهُمْ اِلَى الْاِيْمَانِ فَكَذَّبُوْهُمَا، دَمَّرْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تَدْمِيْرًا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ متاخر ہوا۔

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرُّسُلَ اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۙ وَاعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ

آیت نمبر ۳۷: وَاَوْعَاطِفَ قَوْمِ نُوْحٍ مرکب اضافی مفعول بہ فعل مخدوف اَذْكُرْ، اَذْكُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لَمَّا شرطیہ، اول فیہ مقدم كَذَّبُوْا فعل واو ضمیر فاعل الرُّسُلَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط اَعْرَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفَ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، لِلنَّاسِ جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، یا کائِنْتَهُ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اٰيَةً مفعول بہ ثانی، یا ذوالحال مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاَوْعَاطِفَ اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل، لِلظّٰلِمِيْنَ جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے عَذَابًا اَلِيْمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝

آیت نمبر ۳۸: واو عاطفہ عَادًا معطوف علیہ، واو عاطفہ ثَمُودًا معطوف اذیل، واو عاطفہ أَصْحَابَ الرَّسِّ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ قُرُونًا موصوف بَیْنَ ذَلِكَ مرکب اضافی کائِنَةً کا مفعول فیہ ہو کر صفت اولیٰ، کَثِیرًا صیغہ صفت ہی ضمیر مستتر فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ فعل محذوف أَهْلُکُمْ کَمَا کَانَ اذْکُرُ فعل امر اَلَّتْ ضمیر مستتر فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَتَّبِعِرًا ۝

آیت نمبر ۳۹: واو عاطفہ کَلَّا مفعول بہ ہے فعل محذوف اَنْذَرْنَا کَا اَنْذَرْنَا فعل نا ضمیر فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ ضَرَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَہُ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَلْأَمْثَالَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوں۔ واو عاطفہ کَلَّا مفعول بہ مقدم تَبَرَّنَا فعل نا ضمیر فاعل تَتَّبِعِرًا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ۝

آیت نمبر ۴۰: واو استینا فی لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل آتَوْنَا فعل واو ضمیر فاعل عَلٰی حرف جار الْقَرْيَةِ موصوف الَّتِي اسم موصول اَمْطَرْنَا فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل مَطَرًا سَوِيًّا مرکب اضافی مفعول مطلق من غیر باب، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الْقَرْيَةِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو آتَوْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔ ہَمْزہ حرف استفہام قَاءَ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ یَكُونُوا یَنْظُرُونَ اِلَيْهَا (روح المعانی) لَمْ یَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، یَرَوْنَ فعل مضارع واو ضمیر اس کا فاعل ہَا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہَا ضمیر اس کا اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔ بَلْ حرف عطف برائے اضراب کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لَا یَرْجُونَ فعل واو ضمیر فاعل نَشُورًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہَا ضمیر اس کا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

آیت نمبر ۴۱: واو استینا فیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَرَأَوْ فعل ماضی واو ضمیر فاعل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اِنْ حرف نفی یَتَّخِذُونَ فعل واو ضمیر فاعل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اِلَّا حرف استثناء هُزُوًا مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔ ہَمْزہ حرف استفہام هَذَا اسم اشارہ مبتداء، الَّذِي اسم موصول بَعَثَ فعل ہَا ضمیر منصوب محذوف ذوالحال، رَسُوْلًا بمعنی مَرْسَلًا حال، ذوالحال با حال مفعول بہ اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل،

فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یَقُولُونَ محذوف کا مفعول، قول با مفعول جملہ مستانفہ ہوا، یَتَّخِذُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝

آیت نمبر ۲۲: اِنْ كَادَ محذوف من الضمیر مشان محذوف اس کا اسم اصل میں اِنَّہ ہے کَادَ فعل مقارب ہو ضمیر مستتر اس کا اسم لام فارقہ يُضِلُّ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، عَنْ حرف جاد الہیتنا مرکب اضافی مجرد، جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل مقارب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ اِنْ محذوف کی خبر، اِنْ محذوف با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لَوْ لَا حرف امتناع اَنْ مصدر یہ صَبَرْنَا فعل تا ضمیر فاعل عَلَيْهَا جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و ایل مصدر مبتدا، اور خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے لَا ضَلُّنَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا و اوستینا فی سَوْفَ علامت فعل، يَعْلَمُونَ فعل و اُو ضمیر فاعل حِينَ مضاف يَرَوْنَ فعل و اُو ضمیر فاعل الْعَذَابَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَعْلُومٌ مضاف الیہ پھر مرکب اضافی يَعْلَمُونَ کا مفعول فیہ ہے، مَنْ اسم استفہام مبتدا، أَضَلَّ اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر اس کا فاعل، سَبِيلًا تیز با اسم تفضیل بافاعل و تیز شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ يَعْلَمُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝

آیت نمبر ۲۳: أَرَأَيْتَ بمعنى أَخْبِرْنِي، أَخْبِرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لَنْون برائے و قایہ یَاہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مَنْ اسم موصول اتَّخَذَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل إِلَهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ اول، هَوَاهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ أَخْبِرْ کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین لَنْقلاً جملہ انشائیہ استفہامیہ، اور معنی انشائیہ امریہ ہوا ہمزہ حرف استفہام قائم استینا فیہ (روح المعانی) اَنْتَ ضمیر منفصل مبتدا، تَكُونُ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اس کا اسم عَلَيَّہ جاد با مجرد طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، وَكَيْلًا صیغہ صفت اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مستانفہ ہوا۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

سَبِيلًا ۝

آیت نمبر ۲۴: أَمْ متعلقہ بمعنی بَلْ تَحْسَبُ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَكْثَرَهُمْ مرکب اضافی اَنْ کا اسم يَسْمَعُونَ فعل و اُو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، أَوْ عاطفہ يَعْقِلُونَ فعل با و اُو ضمیر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا و ایل مصدر تَحْسَبُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین لَنْقلاً

جملہ انشائیہ، معنی جملہ خبریہ ہو لہذا حرف لہی ہُم ضمیر منفصل مبتدأ، اَلَا حرف استثناء کاف حرف جارا لَا تَعَاوَرُ مجرور، جادہ باجرور ظرف مستقر کَاکْتُوْنَ کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، اِنّ حرف عطف ہُم ضمیر مبتدأ، اَصْلُ اسْم تفضیل ہُم ضمیر مستتر فاعل سَبَّيْلًا تمييز، تینوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہو۔

● رکوع نمبر ۵ ●

اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلِيْهِ دَلِيْلًا ۙ

آیت نمبر ۳۵: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل اَلَمْ ضمیر مستتر فاعل اِلَى حرف جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کَيْفَ ظرف زمان کَاکْتُبَا کا مفعول فیہ ہو کر الظِّلَّ کا حال مقدم، مَدَّ فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل، الظِّلُّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو لہذا واو اعتراضیہ یا حالیہ لَوْ حرف شرط شَاءَ فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر شرط، لَمْ جوابیہ جَعَلَ فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل، ضمیر مفعول بہ اول، سَاكِنًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معترضہ ہو، اِلَى رَبِّكَ سے حال ہے۔ ثُمَّ عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الشَّمْسُ مفعول بہ اول عَلِيْهِ جادہ باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے دَلِيْلًا صیغہ صفت ہُو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَدَّ الظِّلَّ پر معطوف ہے۔

ثُمَّ قَبْضُنْهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۶: ثُمَّ عاطفہ قَبْضُنَا فعل نا ضمیر فاعل، ضمیر مفعول بہ اول اِلَيْنَا جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قَبْضًا موصوف یَّسِيْرًا صیغہ صفت ہُو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف ہ صفت مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَدَّ الظِّلَّ پر معطوف ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ وَ النَّوْمَ سُبَاتًا ۚ وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۙ وَ هُوَ

الَّذِي اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۷، ۳۸: واو استینا فیہ ہُو ضمیر مبتدأ، الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل لَكُم جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اللَّيْلَ مفعول بہ اول، لِبَاسًا مفعول بہ ثانی، واو عاطفہ النَّوْمَ سُبَاتًا بواسطہ عطف جَعَلَ کے دو مفعول بہ، جَعَلَ فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل النَّهَارَ مفعول بہ اول، نُشُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ ہُو کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُو ضمیر مبتدأ، الَّذِي اسم موصول اَرْسَلَ فعل الرِّيحَ ذوالحال بُشْرًا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنَ السَّمَاءِ جادہ باجرور ظرف لغو

متعلق ہوئے، ماءً طَهُورًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

لِنُحْيِي بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا ۝

آیت نمبر ۴۹: لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان ناصبہ مقدر ہے نُحْيِي فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل بہ جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، بَلَدًا مَيِّتًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نُسْقِيهِ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مِنْ حرف جار ما موصولہ خَلَقْنَا فعل نَا ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کاؤنہ کے متعلق ہو کر حال مقدم، أَنْعَامًا معطوف علیہ، واو عاطفہ أَنْآسِي كَثِيرًا مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال نُسْقِيهِ کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف لغو انزلنا کے متعلق ہوئے۔

سوال: بَلَدًا مَيِّتًا موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت مَيِّتًا نہ کر کیوں ہے؟

جواب: بَلَدًا "مکانا کی تاویل میں ہونے کی وجہ سے مذکر ہے اس لئے اس کی صفت نہ کر لائی گئی ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

آیت نمبر ۵۰: واو استینافیہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل، صَرَّفْنَاهُ فعل نَا ضمیر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَذَّكَّرُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ آئی فعل اَكْفَرُوا النَّاسِ مرکب اضافی فاعل اَلْا حرف استثناء كُفُورًا مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ متانفہ ہوا۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝

آیت نمبر ۵۱: واو عاطفہ لو حرف شرط شِئْنَا فعل نَا ضمیر فاعل اور مفعول بہ محذوف ہے بَعَثْنَا الرِّسُولِ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ بَعَثْنَا فعل نَا ضمیر فاعل فی حرف جار كُلِّ قَرْيَةٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، نَذِيرًا بواسطہ موصوف محذوف نَبِيًّا کے مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوا۔

فَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

آیت نمبر ۵۲: فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ يَا اِنْ اَرْسَلْنَاكَ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لَا تُطِيعُ فعل نِي اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل الْكٰفِرِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاهِدْ فعل اَمْرًا تَ مستتر فاعل هُمْ

ضمیر منصوب مفعول بہ بیہ جار باجرور متعلق ہوئے جہاں ادا کیے اور مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول مَرَجَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل الْبَحْرَيْنِ موصوف کیونکہ اس پر داخل ہونے والا الف لام عہد ذہنی کا ہے اور یہ کمرہ کے حکم میں ہے ہَذَا اسم اشارہ مبتدا، عَذْبٌ فُرَاتٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہَذَا اسم اشارہ مبتدا، مِلْحٌ أُجَاجٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال مَزْدَا لِحَالِ بِالْحَالِ مَرَجَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَيْنَهُمَا مرکب اضافی مفعول فیہ، بَرْزَخًا مَحْجُورًا مؤکد ہا تاکید یا موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَعَلَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو الَّذِي آرسل ہو معطوف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل مِنَ الْمَاءِ جار باجرور متعلق ہوئے بَشَرًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل نَسَبًا وَ صِهْرًا مؤکد ہا تاکید یا موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف بواسطہ مضاف محذوف ذَا کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو الَّذِي مَرَجَ ہو معطوف ہے۔ واو حالیہ یا عاطفہ كَانَ فعل ناقص رَبُّكَ مرکب اضافی اس کا اسم قَدِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقَ کی ضمیر فاعل سے مل کر ہے۔ یا ہو الَّذِي خَلَقَ ہو معطوف ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَ كَانِ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: واو استینا فیرِ يَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَا اسم موصول لَا يَنْفَعُهُمْ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَضُرُّهُمْ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر بذوالحال بِالْحَالِ يَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔ واو استینا فیرِ كَانَ فعل ناقص الْكَافِرُ اس کا اسم عَلَىٰ حرف جار رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق مقدم ظَهِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

آیت نمبر ۵۶: واوستینا فی مانایہ ارسَلْنَا فعل تاضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، اَلَا حرف استثناء مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا معطوف علیہ بالمعطوف مستثنیٰ مفرغ حال ہے عموم احوال سے اور یہ اصل میں فی حَالٍ مِّنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا مُبَشِّرًا ہے، جار باجر در متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

آیت نمبر ۷۷: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، مانایہ اَسْأَلُ فعل اَنَا مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اول، عَلَیْهِ جار باجر در کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِّنْ حرف جار زائد اَنْجِر لفظًا مجرور مَعْلًا منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ اَلَا حرف استثناء بمعنی لٰكِنْ "مَنْ" اسم موصول شَاءَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَتَّخِذُ فعل ہو مستتر فاعل اِلَىٰ حرف جار یہ تہ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، سَبِيلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتا ویل مصدر شَاءَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتداء اور خبر اور جزاء مخدوف ہے فَلْيَفْعَلْ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكَفَىٰ بِهِ بَذُنُوبٍ عِبَادَةَ خَيْرًا ۝

آیت نمبر ۵۸: واوستینا فی تَوَكَّلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل عَلٰی حرف جار الْحَيِّ موصوف الَّذِي اسم موصول لَا يَمُوتُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجر در ظرف لغو تَوَكَّلْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبِّحْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر ذوالحال بَاء حرف جار حَمْدِهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف مستقر مُتَلَكِّئِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال سَبِّحْ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متانفہ ہوں، واوستینا فی كَفَىٰ فعل بَاء جارہ زائد ہ ضمیر مَعْلًا مرفوع فاعل بَاء حرف جر ذُنُوبٍ عِبَادَةَ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در متعلق مقدم ہوئے، خَيْرًا صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر كَفَىٰ کے فاعل سے حال ہے، یا فعل کی نسبت سے تمیز ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اور یا الْحَيِّ سے حال ہے (مظہری)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝

الرَّحْمٰنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا ۝

آیت نمبر ۵۹: الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل السَّمَوَاتِ منصوب بالكسره معطوف علیہ، واو عاطفہ الْأَرْضِ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل مخدوف تَبَّتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین خَلَقَ کا مفعول بہ، فی حرف جار سِتَّةِ أَيَّامٍ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف لغو خَلَقَ کے متعلق ہوئے، فعل

باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفًا سَتَوَىٰ لَعْلُ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ عَلَى الْعَرْشِ جاد باجہر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، الرَّحْمٰنُ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور الرَّحْمٰنُ کی ترکیب میں دیگر احتمالات اَنْظُرُوا فِي التَّفْسِيْرِ الْمَطْهَرِي، فقاء نصیحا اور اس کی شرط محذوف ہے (روح المعانی) اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، یا شرط محذوف اِنْ شِئْتُمْ تَفْصِيْلًا مَا ذَكَرْتُمْ، اِسْتَلَّ فاعِلٌ اَمْرًا تٌ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ بِه جاد باجہر در متعلق مقدم ہوئے خَبِيْرًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدْوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْسُجِدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: واِذَا اسْتِئْتَفِيْرًا اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ قِيْلَ فَعْلٌ مَجْهُوْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ اور اس ضَمِيرٌ كَامِرٌ جَمْعٌ قِيْلَ كَامِرٌ قَوْلٌ هُوَ، لَهُمْ جاد باجہر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَنْسُجِدُ وَا فَعْلٌ اور واؤ ضَمِيرٌ فاعِلٌ لِلرَّحْمٰنِ جاد باجہر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ شرط، قَالُوْا فَعْلٌ واؤ ضَمِيرٌ فاعِلٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، واؤ زائدہ، مَا اسْتِئْتَفِيْرًا مَبْتَدَأٌ الرَّحْمٰنُ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر الَذِي خَلَقَ بِه مَعْطُوْفٌ هُوَ بِاَجْمَلٍ مُسْتَانَفٍ هُوَ۔ هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِئْتَفِيْرًا نَسْبُجِدُ فَعْلٌ مَضْرَعٌ رَحْمٰنٌ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ لام حرف جار ما موصولہ تَاْمُرُنَا فَعْلٌ اَلَّتْ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ تَاْمُرُنَا ضَمِيرٌ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجہر در نَسْبُجِدُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استغفہامیہ ہوں واؤ اسْتِئْتَفِيْرًا زَادَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مفعول بہ اَوَّلُ نُفُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ بِه مَعْطُوْفٌ هُوَ، یا جملہ مستانفہ ہے

﴿۶۰﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۶ ﴿۶۰﴾

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمٰوٰتِ بُرُوْجًا وَ جَعَلَ فِيْهَا سِيْرًا مَّجٰجًا وَ قَمَرًا مُنِيْرًا ﴿۶۱﴾

آیت نمبر ۶۱: تَبٰرَكَ فَعْلٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُوْلٌ جَعَلَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ فِي السَّمٰوٰتِ جاد باجہر در ظرف مستقر كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، بُرُوْجًا مفعول بہ اَوَّلٌ مَوْخِرٌ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عَاطِفٌ جَعَلَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ فِيْهَا جاد باجہر در ظرف مستقر كَائِنَاتٍ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، سِيْرًا مَجٰجًا مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ، واؤ عَاطِفٌ قَمَرًا مُنِيْرًا مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِمَعْطُوْفٍ مَفْعُوْلٌ بِه اَوَّلٌ مَوْخِرٌ، فعل بافاعل و مفعول بہ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِمَعْطُوْفٍ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاَصْلِهِ تَبٰرَكَ كَافِعٌ، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۲: واؤ عَاطِفٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُوْلٌ جَعَلَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِمَعْطُوْفٍ مَفْعُوْلٌ بِه اَوَّلٌ، خِلْفَةً مَفْعُوْلٌ بِه ثَانِي، لام حرف جار مَنْ اسْمٌ مَوْصُوْلٌ اَرَادَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَصْبٌ يَذَّكَّرُ فَعْلٌ هُوَ

مستتر فاعل، دونوں مل کر بنا ویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ آرَادَ فعل ہو مستتر فاعل
شکورا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور جعل کے
متعلق ہوئے یا خِلْفَةً مصدر کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ
اسمیہ خبریہ ہو کر تَبَيَّنَ الَّذِي، معطوف ہے۔

وَعِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ لَئِنْ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ۝

آیت نمبر ۶۳، ۶۴، ۶۵: واوستینا فی عباد الرحمن مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول یَمْشُوْنَ فعل واو ضمیر
ذوالحال ہوتا ہستی ہتینین حال، ذوالحال باحال فاعل علی الارض جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف
علیہ، واو عاطفہ آرَادَ شرطیہ مفعول فیہ مقدم، مخاطب فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الْجَاهِلُوْنَ فاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
ہو کر شرط، قَالُوْا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، سَلٰمًا مفعول مطلق فعل محذوف نُسَلِّمُ کا پھر یہ قول کا مقولہ ہے، یا
سَلٰمًا بواسطہ موصوف محذوف قَوْلًا مفعول مطلق ہے، قول کا مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف
الَّذِيْنَ کا صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول یَبِيْتُوْنَ فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لآہ حرف
جار رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور سُجَّدًا کے متعلق مقدم ہوئے، سُجَّدًا صیغہ صفت ہُم ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل
کر معطوف علیہ، واو عاطفہ قِيَامًا صیغہ اسم فاعل ہُم ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم
و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف اول، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول يَقُولُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، رَبَّنَا یہ
اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے، اصْرِفْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل عَنَّا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے عَذَابَ جَهَنَّمَ مرکب
اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول کا مقولہ صلہ، موصول با صلہ
معطوف ثانی، اِنْ حرف تحقیق عَذَابُهَا مرکب اضافی اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم عَرَامًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ
فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ کی تعلیل اول ہے۔

اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقْرًا وَّ مَقَامًا ۝

آیت نمبر ۶۶: اِنْ حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم سَاءَتْ فعل ذم ہی مستتر ذوالحال مُسْتَقْرًا وَّ مَقَامًا معطوف علیہ با معطوف
حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے ہی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر اِنْ
کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ کی تعلیل ثانی ہے۔

وَالَّذِيْنَ اِذَا انْفَقُوا الْمٰی سِرْفُوْا وَّلَمْ يَقْتُرُوْا وَّ كَانْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ
فِيهِ مُهَانًا ۖ

آیت نمبر ۶۷، ۶۸، ۶۹: واو عاطفہ الَّذِیْنَ اسم موصول اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَلْفَقُّوا فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لَمْ یُسْرِفُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَقْتُلُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم بَیْنَ ذَلِکَ مرکب اضافی کا مفعول فیہ ہو کر خبر اول، قَوَامًا خبر ثانی، فعل ناقص ہا سم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، واو عاطفہ الَّذِیْنَ اسم موصول لَا یَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَعَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، إِلَهًا آخَرَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یَقْتُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل النَّفْسَ موصوف الَّتِی اسم موصول حَرَّمَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل اِلَّا حرف استثناء بِالْحَقِّ جار مجرور مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت لَا یَقْتُلُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا یَزْنُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَّذِیْنَ کا صلہ، موصول باصلہ معطوف رابع، واو اعتراضیہ (نقیض) مَن اسم شرط مبتدأ، یَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل ذَلِکَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، یَلْقَى فعل یہ اصل میں یَلْقَى ہے، ہو مستتر فاعل اَثَامًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، یُضْعَفُ فعل مجہول لہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْعَذَابُ نایب فاعل یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل مجہول ہا نایب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَخْلُدُ فعل ہو ضمیر مستتر ذوالحال، مَہَانًا صیغہ اسم مفعول ہو ضمیر نایب فاعل و دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل فیہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَلْقَى اَثَامًا کا بدل ہے، مبدل منہ بادل جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَ

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۰: اِلَّا حرف استثناء بمعنی لَکِن اور یہ استثناء منقطع ہے (روح المعانی) اور مستثنیٰ متصل نہ ہونے کی وجہ علیہ محمود آکوسی کی تفسیر میں مرقوم ہے، مَن اسم موصول تَابَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ آمَنَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ عَمِلَ فعل ہو مستتر فاعل عَمَلًا صَالِحًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، فَاء جزائیہ اُولَٰئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، یُبَدِّلُ فعل مضارع اللہ اسم الجلالہ فاعل سَيِّئَاتِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول، حَسَنَاتٍ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ

خبر یہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو اعتراضیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم غفورا رَحِيمًا
دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں۔ (روح المعانی)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

آیت نمبر ۷۱: واو عاطفہ من اسم موصول تَابَ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ
عَمِلَ فعل ہو ضمیر مشترک فاعل صَالِحًا بواسطہ موصوف مخذوف عملاً کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف،
معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مقضن معنی شرط مبتدا، فاء جزائیہ ان حرف مشبہ بالفعل ضمیر اس کا اسم یَتُوبُ فعل ہو ضمیر
فاعل الی حرف جہا اللہ اسم الجلالہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے متاباً مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر،
ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے من تَابَ پر معطوف ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لِأَوْ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

آیت نمبر ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵: واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول لَا يَشْهَدُونَ فعل واو ضمیر فاعل الزُّور مفعول بہ، تینوں مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَرُّوا فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّغْوِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل
بافاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَرُّوا فعل واو ضمیر ذوالحال کِرَامًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ
خبریہ جزاء، شرط با جزاء لَا يَشْهَدُونَ پر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ معطوف خاص، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم
موصول إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذُكِّرُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل بآیاتِ رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف
لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَمْ يَخِرُّوا فعل واو ضمیر ذوالحال صُمًّا وَعُمْيَانًا معطوف علیہ با
معطوف حال، ذوالحال باحال فاعل عَلَيْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ،
موصول باصلہ معطوف سادس، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے
اور یہ نداء ہے هَبْ فعل امر اور یہ اصل میں اَوْ هَبْ ہے اَنْتَ ضمیر مشترک فاعل لَنَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے من حرف جار اَوْ اجنابا
مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ذُرِّيَّتِنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَانِتَةً کے
متعلق ہو کر حال مقدم، قُرَّةَ أَعْيُنٍ مرکب اضافی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال هَبْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ
امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل نَا ضمیر اس کا اسم لِلْمُتَّقِينَ جار با مجرور کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم،
اِمَامًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب

جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ صلہ، موصول باصلہ معطوف صالح، معطوف علیہ یا معطوفات سببہ عِبَادُ الرَّحْمٰن کی صفت ہے، موصوف ہا صفت مبتدأ، اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، يُجْرَوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْغُرْفَةَ مفعول بہ، بناء حرف جادما مصدریہ صَبَّوْا فعل باواو ضمیر فاعل بنا ویل مصدر مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَلْقَوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فیہا جاد باجرور متعلق ہوئے تَحِيَّةً وَسَلَامًا معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ عِبَادُ الرَّحْمٰن کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

خَلِيدِينَ فِيهَا ط حَسَنْتَ مُسْتَقْرًا وَ مُقَامًا ①

آیت نمبر ۷۶: خَلِيدِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل فیہا جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر يُجْرَوْنَ کی واو ضمیر سے حال ہے حَسَنْتَ فعل ہیج ضمیر مستتر ذوالحال مُسْتَقْرًا وَ مُقَامًا معطوف علیہ یا معطوف حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہو یا بتقدیر قَدْ عملاً منصوب الْغُرْفَةَ سے حال ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ②

آیت نمبر ۷۷: قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، مَا نَافِي يَعْبُوا بِكُمْ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے رَبِّي مرکب اضافی مرفوع تقدیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ لَوْلَا حرف امتناع دُعَاؤُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ اور خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزاء اور جواب محذوف ہے لَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اِنَّ اللّٰهَ دَعَاكُمْ اِلَىٰ عِبَادَتِهِ، قَدْ علامت فعل، كَذَّبْتُمْ فعل تَمْ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، یا فَقَدْ پر داخل فَاء حرف تعلیل ہے اور یہ جملہ مطلق ہے، فَاء نصیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ يٰۤاٰمَنُ يُكٰذِبُ، سَوْفَ علامت فعل، يَكُوْنُ فعل ناقص هُوَ ضمیر مستتر اس کا اسم لِزَامًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

بِحَمْدِهِ تَعَالَىٰ وَتَوْفِيْقِهِ سُورَةُ الْفُرْقَانِ

کی ترکیب کی کتابت ۲۲ اپریل ۲۰۱۸ء بروز اتوار بوقت صبح ۷:۴۵ پر المکہ ہوٹل کراچی کی بالائی منزل پر مکمل ہوئی ہے۔

ترکیب سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طَسَمَ ۝ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝

آیت نمبر ۱: طَسَمَ یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہذا کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتی ہے اس لئے اسم اشدہ مبتدا، ایت مضاف الکتب

المبین مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتی ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳: لَعَلَّ حرف تہجی کان ضمیر منصوب اس کا اسم بَاخِعٌ اسم فاعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نَفْسَكَ مرکب اضافی

مفعول ہے، اَنْ حرف مصدری و نصب لایکونوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، مؤمنین اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتادیل مصدر بواسطہ مضاف محذوف خبیثہ کے مفعول لہ، اسم فاعل با فاعل و مفعولین شبہ جملہ ہو کر خبر، حرف تہجی

با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیحی مستانہ ہوتی ہے۔

اِنْ نَّشَأْنُ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰیَةً فَظَلَّتْ اَعْمَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝

آیت نمبر ۴: اِنْ حرف شرط نشأ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، نَزَّلَ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر

فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مِنَ السَّمَآءِ جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، آیۃ ذوالحال مؤخر،

ذوالحال باحال مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول ہے و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ظَلَّتْ فعل ناقص اَعْمَاقُهُمْ مرکب اضافی

اسم لہا جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے خٰضِعِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص

با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مطلقہ ہوتی ہے۔

وَمَا يٰۤاٰتِيَهُمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحَدِّثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝

آیت نمبر ۵: واو عاطفہ مَا اٰتِيَهُمْ یٰۤاٰتِي فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول ہے، مِّنْ حرف جار ذلذ ذکر موصوف مِّنَ الرَّحْمٰنِ جار مجرور

ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُحَدِّثٍ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین لفظاً مجرور ملامر فاعل، فعل با فاعل و مفعول ہے جملہ

فعلیہ خبریہ جملہ سابقہ کے مضمون پر معطوف ہے، اِلَّا حرف استثناء كَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، عَنْهُ جار مجرور ظرف لغو متعلق

مقدم ہوئے، مُعْرِضِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ

خبریہ یٰۤاٰتِيَهُمْ کی ضمیر مفعول ہے سے حال ہے۔

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسِيْۤاٰتِيَهُمْ اَنْبُوْۤا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

آیت نمبر ۶: فاء تعلیلیہ قَدْ علامت فعل كَذَّبُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوتی ہے فاء نصیحہ اور شرط

محذوف ہے اِنْ یَكْفُرُوْنَ اَسِیْبِیْنَ علامت فعل، یٰۤاٰتِي فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول ہے اَنْبُوْا مضاف ما اسم موصول كَانُوْا فعل ناقص واو

ضمیر اس کا اسم، پہ جادو باجور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَسْتَهْزِئُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَأْتِي كَا فاعل ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

آیت نمبر ۷: ہمزة حرف استفہام واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یَطْلُبُونَ آیةً عَلٰی مَا يَدْعِيْهِ مَحْتَدًا لَمْ يَرَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اِلَى حرف جادو اَرْضٍ مبدل منہ كَمْ خبریہ مَعْلَا منصوب مفعول بہ مقدم، اَنْبَتْنَا فعل فا ضمیر فاعل فِيهَا جادو باجور طرف متعلق اول ہوئے مِنْ حرف جادو مضاف زَوْجٍ كَرِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جادو باجور طرف متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بدل اشتغال، مبدل منہ با بدل مجرور، جادو باجور طرف لَمْ يَرَوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ لِّاُولٰٓئِكَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸: اِنَّ حرف تحقیق فِيْ ذٰلِكَ جادو باجور طرف مستقر كَا ئِنَّہٗ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لا امر مذ حلقہ آیةً اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ اعتراضہ ما مشابہ "بہ لیسس كان زلذہ" (مظہری) اَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی ما مجازیہ کا اسم مؤمنین صیغہ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل بدو لوں مل کر خبر، مَعْلَا ہے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

آیت نمبر ۹: واؤ عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم لا امر مذ حلقہ هُوَ ضمیر مبتدا، الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

www.kitabosunnat.com

رکوع نمبر ۲

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اَنْ اِثْمِ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۰: واؤ استینا فیرا اذ طرف زمان مضاف نَادٰى فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل مُوسٰى منصوب تقدیر مفعول بہ، تینوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذ كَرُ كَا مفعول فیہ ہے، اَنْ حرف مصدریہ اِثْمِ الْقَوْمِ ضمیر مستتر فاعل الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ مرکب اضافی مبدل منہ، قَوْمٍ فِرْعَوْنُ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مجرور، کیونکہ اصل میں اَنْ ہے، جادو باجور نَادٰى کے متعلق ہوئے، ہمزة حرف استفہام لَا يَتَّقُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یَّكْذِبُوْنَ ۝ وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ وَ لَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰی

هُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۲، ۱۳: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

آیت نمبر ۱۲، ۱۳: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

آیت نمبر ۱۲، ۱۳: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

آیت نمبر ۱۴: وَأَوْعَاظُهُ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہوئے علی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے کائن اسم فاعل اپنے ہو ضمیر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم مذکب مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يَا إِنْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ، أَخَافُ فاعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَقْتُلُوا فاعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا محذوف اَنَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبْعُونَ ۝

آیت نمبر ۱۵: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

آیت نمبر ۱۵: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

آیت نمبر ۱۵: قَالَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِشَدَىٰ ذُو الْقُرَىٰ فَخِصْبًا لِّمَنْ حَادِيَٰكَ وَقَالَ أَمَّا حِمْيَرٌ فَمَا ضَمُرُكَ أَنَّكَ وَمَنْ يُضِمُّهُ فَلَا لَدُنَّ حَاسِبٍ مِّمَّنْ لَأُمَلِّئَنَّكَ يُضِمُّهُ كَمَا نُنْفِئُ الْمُضْمِرَ فَسَيْخًا مِّنْ دُونِ الْحَمِيرِ يُضِمُّهُ كَاسًا يَّسْخًا مِّنْ دُونِ الْكَاسِيَّةِ الَّتِي يُضِمُّهَا الْفِرْعَوْنِيُّ يُسَخِّرُهُهَا يُسْخًا فَمَا فَطَّمَهَا فَكَانَتْ مِثْلَ خَبِيرٍ ۚ

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آیت نمبر ۱۶: فَأَوْعَاظُهُ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہوئے علی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے کائن اسم فاعل اپنے ہو ضمیر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم مذکب مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يَا إِنْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ، أَخَافُ فاعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَقْتُلُوا فاعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا محذوف اَنَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

آیت نمبر ۱۶: فَأَوْعَاظُهُ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہوئے علی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے کائن اسم فاعل اپنے ہو ضمیر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم مذکب مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يَا إِنْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ، أَخَافُ فاعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَقْتُلُوا فاعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا محذوف اَنَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

آیت نمبر ۱۶: فَأَوْعَاظُهُ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہوئے علی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے کائن اسم فاعل اپنے ہو ضمیر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم مذکب مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يَا إِنْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ، أَخَافُ فاعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَقْتُلُوا فاعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء محذوف مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا محذوف اَنَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

آیت نمبر ۱۷: اَنْ حَرْفِ تَفْسِيرِ اَرْسَلِ فَعْلٌ اِمْرَانَتْ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ مَعْنَاً مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ يَبْقَى اِسْمٌ اَوْ اَعْرَابٌ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَمَلُهُ اِنشَائِيٌّ سُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كِي تَفْسِيْرُهُ

قَالَ اَلَمْ تُرَبِّكَ فَيُنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فَيُنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝ وَّ فَعَلْتَ فَعَلْتِكَ اَلَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۸، ۱۹: قَالَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ، دُوْنُوں مِلْ كَر جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، هَمْزُهُ حَرْفٌ اِسْتِقْبَامٌ لَمْ تُرَبِّ فَعْلٌ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ كَانِ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ فَيُنَا جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ لَفُوْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ وَّلِيْدًا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ سَعِ حَالٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَتَعَلِّقٌ جَمَلُهُ اِنشَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوْ عَاطِفُهُ لَبِثْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ فَيُنَا جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ لَفُوْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مِنْ حَرْفِ جَدِّ عُمُرِكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ مُسْتَقَرٌّ كَانِ تَاءُ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر حَالٌ مُقَدِّمٌ سِنِيْنَ ذُو اَلْحَالِ مُؤَخَّرٌ ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاُوْ عَاطِفُهُ فَعَلْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ فَعَلْتَكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَوْصُوفٌ اَلَّتِي مَوْصُولٌ فَعَلْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ضَمِيرٌ ذُو اَلْحَالِ وَاُوْ حَالِيَّةٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ مُسْتَقَرٌّ كَانِ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاَخْبَرِ جَمَلُهُ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ فاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ صَفْتٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفْتٍ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ مُطْلَقٌ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفِيْنَ جَمَلُهُ اِنشَائِيٌّ مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِاِمَقْوَلِهِ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

قَالَ فَعَلْتَهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ ۝

آیت نمبر ۲۰: قَالَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر قَوْلٌ، فَعَلْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، اِذَا ظَرْفٌ مَقْطُوعٌ عَنِ الْاِضَافَةِ مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِاِمَقْوَلِهِ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ وَاُوْ حَالِيَّةٌ اَنَا ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مُبْتَدَأٌ مِنَ الضَّالِّيْنَ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ مُسْتَقَرٌّ كَانِ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاَخْبَرِ جَمَلُهُ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ فَعَلْتَكَ كِي ضَمِيرٌ فاعِلٌ سَعِ حَالٌ هُوَ

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

آیت نمبر ۲۱: فَاءٌ عَاطِفَةٌ فَرَزْتُ فَعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ مِنْكُمْ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ لَفُوْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَمَّا ظَرْفٌ مَضَافٌ خِفْتُ فَعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَضَافٌ اِلَيْهِ، پھر مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ فَرَزْتُ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاءٌ عَاطِفَةٌ وَهَبَ فَعْلٌ لِیْ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، رَبِّيْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَرْفُوعٌ تَقْدِيْرٌ فاعِلٌ حُكْمًا مَفْعُولٌ بِهِ، چاروں مِلْ كَر جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاُوْ عَاطِفُهُ جَعَلَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ نُونٌ بَرَاءٌ دَقَائِرُ يَاءٌ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ جَدُّ بِاَجْرٍ وَرُطْبٌ مُسْتَقَرٌّ كَانِ تَاءُ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفِيْنَ جَمَلُهُ مَعْطُوفٌ هُوَ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَّتْهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

آیت نمبر ۲۲: واو عاطفہ تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، نِعْمَةٌ موصوفہ تَمَّتْ فعل آتت ضمیر مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، علی تکجد باجور و ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ باصفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اَنْ حرف مصدری عَبَّدتَّ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل بَنِي إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر عملاً مرفوع مبتدا محذوف ہے کی خبر ہے یا نِعْمَةٌ سے بدل ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

آیت نمبر ۲۳: قَالَ فعل فِرْعَوْنُ فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے آتت الرَّسُولُ، مَا استفہامیہ مبتدا، رَبُّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط ان كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

آیت نمبر ۲۴: قَالَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبُّ السَّمَوَاتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْأَرْضِ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین رَبُّ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا محذوف رَبُّ الْعَالَمِينَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم موقنین اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے فَاسْتَدِلُّوا بِهَا عَلَىٰ خَالِقِهَا (مظہری) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلَا تَسْتَبْعُونَ ﴿٢٥﴾

آیت نمبر ۲۵: قَالَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل لام حرف جہ من اسم موصول حَوْلَهُ مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہَمْزہ حرف استفہام آلَا تَسْتَبْعُونَ فعل با واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

آیت نمبر ۲۶: قَالَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، رَبُّكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّ آبَائِكُمُ مضاف آبَائِكُمُ مرکب اضافی موصوفہ الْأَوَّلِينَ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوفہ باصفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

آیت نمبر ۲۷: قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق رَسُولَكُمْ مرکب اضافی موصوفہ الَّذِي اسم

موصول اُؤسِلَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل اَلْيَكُمُ جاد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق صفت، موصوف ہفت ان کا اسم لام مذ حلقہ برائے تاکید مَجْنُونٌ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ کی ترکیب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنَّ كُنْتُمْ مُؤَقِنِينَ کی طرح ہے جو ابھی گزری ہے۔

قَالَ لِيِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي لَا جَعَلْتَنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، لَام موطئہ للقسم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط اتَّخَذَتِ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل الہاء مفعول بہ اول، غَيْرِي مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَام جوابیہ أَجَعَلَنَ فعل انا ضمیر مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مِنَ الْمَسْجُونِينَ جاد باجر در ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم محذوف کا جواب ہے، قسم محذوف باجواب مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اور شرط کی جزاء محذوف ہے أَجَعَلْتَنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، هَمْزہ حرف استفہام و او حالیہ لَوْ حرف شرط جِئْتِكَ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بَاء حرف جاد شئیء مُّبِينٍ مرکب توصیفی مجرد، جار باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے جِئْتَنِي مِنَ الْمَسْجُونِينَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر حال ہے فعل محذوف تَفَعَّلَ ذَلِكُمْ کی ضمیر فاعل سے۔

قَالَ قَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، قَاتِ جزائیہ اُنْتِ فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل بہ جار باجر در متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء مقدم (روح المعانی) ان حرف شرط كُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم مِنَ الصَّادِقِينَ جاد باجر در ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلْمُنْظِرِينَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۲، ۳۳: فَأَلْقَى عَاطِفٌ (منظری) اور یہ قَالَ پر معطوف ہے، أَلْقَى فعل ہو ضمیر مستتر فاعل عَصَاهُ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَأَلْقَى عَاطِفٌ إِذَا مَنَاجَاتِيہ مُّبِينٌ کا مفعول فیہ مقدم ہی ضمیر مبتدأ، ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ، وَاوُاطِفٌ نَزَعَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل يَدَهُ مرکب

اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اذاً مفاجاتیہ نُظِرَیْنِ کا مفعول فیہ مقدم، ہی ضمیر مبتدہ
بِیْضَاءَ موصوف للظُّرِیْنِ جار مجرور طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ
معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف علیہ اول کا معطوف ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا السَّحْرُ عَلَيْنَا ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بِسِحْرِهِ سِدِّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵، ۳۴: قَالَ لُفعل ہو مستتر فاعل، لام حرف جار لِمَلَاحِقَةِ لِحَالِ حَوْلَهُ مرکب اضافی مُسْتَقَرِّیْنِ کا مفعول فیہ
ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور طرف لُفعل متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق هَذَا اسم اشدہ
مَعْلًا منصوب اس کا اسم لَمَذَ حلقہ سحیر موصوف عَلَيْنَا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف با صفت خبر اول، یُرِيدُ
لُفعل ہو ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یُخْرِجُ لُفعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، مِنْ حرف جار اَرْضِكُمْ مرکب اضافی
مجرور، جار مجرور متعلق اول ہوئے، بناء حرف جار سِحْرِهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین
جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدری یُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر دوم، اِنَّ با اسم و خبرین، جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول
بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء نصیرہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، مَاذَا مَعْلًا منصوب مفعول بہ مقدم تَأْمُرُونَ لُفعل واو
ضمیر فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قَالُوا لُفعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَرْجِهْ لُفعل امریہ اصل میں اَرْجِیْ ہے، اَنْتَ ضمیر
مستتر فاعل و ضمیر منصوب مفعول بہ، واو بمعنی مَعَ "اَخَاهُ مرکب اضافی مفعول معہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ،
واو عاطفہ اَبْعَثْ لُفعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل فِي الْمَدَائِنِ جار مجرور طرف لُفعل متعلق ہوئے، حَاشِرِينَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق
و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: يَأْتُوكَ لُفعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بناء حرف جار كُلِّ مضاف سَحَابٍ عَلِيمٍ مرکب توصیفی
مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لُفعل متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے شرط محذوف
اِنْ تَبَعَتْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ کی، اس لئے کہ یَأْتُوكَ اجواب امر ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے بَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قَدْ هَبُوا، جُمِعَ لُفعل مجهول السَّحَرَةُ
نائب فاعل، لام حرف جار مِيقَاتِ مضاف یَوْمٍ مَّعْلُومٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف متعلق ہوئے، فعل

مجمول ہائے قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف بمعطوف جملہ مستانفہ ہوں

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: واؤ عطفہ قیل لعل نہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل للناس جملہ باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، لعل مجمول ہائے قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، هل حرف استفہام الکتف ضمیر منفصل مبتدا **مُجْتَمِعُونَ** اسم فاعل الکتف ضمیر مستتر قائل دونوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انتظامیہ مقول، قول با مقول جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اولہ معطوف ہے۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ الشَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: لعل حرف ترقی نا ضمیر اس کا اسم تلتبع فعل نحن ضمیر مستتر قائل الشحرة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لعل نا اسم و خبر جملہ انتظامیہ ترجیحیہ جملہ مقدم، یوال بر جملہ ہے، ان حرف شرط کائوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم ہٹ ضمیر برائے لعل الغالبین نام فاعل ہٹ ضمیر قائل دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط با جملہ جملہ شرطیہ ہوں

فَلَمَّا جَاءَ الشَّحْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: فاء استینازیہ لکنا شرطیہ مفعول فی مقدم جاء فعل الشحرة قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کائوا فعل ناقص واؤ ضمیر قائل لفرعون جملہ باجورد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام ان حرف تحقق لکنا جملہ باجورد طرف مستتر کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم لامر نہ ملکہ اجرو اسم مؤخر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ انتظامیہ جملہ مقدم، یوال بر جملہ ہے، ان حرف شرط کائنا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم نحن ضمیر فعل الغالبین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط با جملہ مقولہ، قول با مقول جملہ، شرط با جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِينِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: قال لعل ہو ضمیر مستتر قائل نعم ملّا منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہووا واؤ عطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے، ان لکن اجرو ان حرف تحقق کف ضمیر اس کا اسم إذا حرف جواب و جملہ مہمل لامر نہ ملکہ من المقربین جملہ باجورد طرف مستتر کائون کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف دونوں مل کر جملہ مستانفہ ہوں

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ مَا أَنْتُمْ مَلْفُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: قال لعل لہم جملہ باجورد طرف لغو متعلق ہوئے مؤلفیہ مل ہے م فوج تغویہ، لعل جماع، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، القوم لعل امر واؤ ضمیر قائل ما اسم موصول انتم ضمیر منفصل مبتدا ملقون اسمہ ما انتم مشتق قائل، دونوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ، موصول ہل مفعول بہ، لعل جماع مفعول بہ جملہ انتظامیہ ہوا مقول، قول با مقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَالْقَوْمَ جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بَعْدَ فِئَعُونَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا الْغَالِبُونَ ﴿۳۳﴾

مل کر مبتدا محذوف اَنْتُمْ کی خبر ہے مبتدا باخبر جزاء ہے، لآہر موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے اَقْطَعَنَّ فعل اَنَا مستتر فاعل اَیْدِیْکُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَزْجُلْکُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، مِنْ خِلاَفِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، یا کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر اَیْدِیْکُمْ وَ اَزْجُلْکُمْ سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب معطوف علیہ، واو عاطفہ لآہر موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے اَصْلِبَنَّ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل کُمْ ضمیر منصوب مؤکد اَجْمَعِیْنَ تاکید، مؤکد ہا تکید مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قَالُوا لَا ضَیْرَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: قَالُوا اِنَّا ضَمِیْرُ فاعِلِ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لآئی جنس ضَمِیْرُ اس کا اسم اور خبر محذوف ہے عَلَیْنَا، لآپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم الی حرف جارِ تَنَامُ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق مقدم ہوئے مُنْقَلِبُوْنَ اسم فاعل لَنَحْنُ مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِیْنَا اَنْ کُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نَطْمَعُ فعل لَنَحْنُ ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَغْفِرُ فعل لَنَا جاد با مجرور متعلق ہوئے رَبِّنَا مرکب اضافی فاعل خَطِیْنَا مرکب اضافی مفعول بہ، اَنْ حرف مصدری کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم اَوَّلَ الْمُؤْمِنِیْنَ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں لَانَ کُنَّا ہے، جاد با مجرور یَغْفِرُ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر نَطْمَعُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا یا سابقہ جملہ مطلقہ سے بدل ہوں۔

﴿۵۱﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴿۵۰﴾

وَ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ اِنِّکُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: واو اِستِیْنَا فِیْ اَوْحٰیْنَآ فعل نا ضمیر فاعل اِلٰی مُوسٰی جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْ مصدریہ اَسْرِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بَاءَ حرف جارِ عِبَادِیْ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق بتا ویل مصدر بَاءَ محذوف کا مجرور، جاد با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم مُتَّبِعُوْنَ اسم مفعول اَنْتُمْ مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَاَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: فَاَءَ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَسْرٰی مُوسٰی قَوْمَهُ فَبَلَغَ الْخَبْرُ فِرْعَوْنَ وَ اَرَادَ اَنْ یَّتْبِعَهُمْ، اَرْسَلْنَا فعل فِرْعَوْنَ فاعل فِی الْمَدَآئِنِ جاد با مجرور متعلق ہوئے حٰشِرِیْنَ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

● رکوع نمبر ۵ ●

وَ اِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً اِبْرٰهِيْمَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: واو عاطفہ اِثْلُ فعل امر اَلَّتْ ضمیر مستتر فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے نَبَاً اِبْرٰهِيْمَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ہے اِذْ تَاذٰی رَبِّكَ پر اس لئے کہ اِذْ تَاذٰی فعل محذوف اِذْ كُوْا کا مفعول فیہ ہے۔

اِذْ قَالَ لِاٰيٰتِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: اِذْ ظرف زمان مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل و لام حرف جار اِيْتِيْهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ قَوْمِهِ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، صا استفہامیہ بمعنی اَيُّ شَيْءٍ مِّمَّا مَفْعُولٌ بِهٖ مَقْدَمٌ تَعْبُدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اِذْ كُوْا کا مفعول فیہ ہے، پھر اِذْ كُوْا اِثْلُ عَلَيْهِمْ کا بدل ہے۔

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنٰمًا مَّا فَتَنَلْنٰ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿۷۱﴾

آیت نمبر ۷۱: قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، نَعْبُدُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل اَصْنٰمًا مَّا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء عاطفہ نَفَلْنٰ بمعنی كَدُوْمٌ فعل نَحْنُ مستتر ذوالحال لَهَا جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم، عٰكِفِيْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿۷۲﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿۷۳﴾

آیت نمبر ۷۲، ۷۳: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، هَلْ حرف استفہام يَسْمَعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، اِذْ ظرف زمان مضاف تَدْعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی يَسْمَعُوْنَ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، او عاطفہ يَنْفَعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او حرف عطف يَضُرُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوْا بَلْ وَ جَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۴﴾

آیت نمبر ۷۴: قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، بَلْ حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا يَسْمَعُوْنَ وَلَا يَنْفَعُوْنَ وَلَا يَضُرُّوْنَ، وَ جَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل اٰبَاءَنَا مرکب اضافی مفعول بہ اول، كَذٰلِكَ جار مجرور طرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فِعْلًا کے مفعول مطلق مقدم يَفْعَلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق

ضمیر مبتداء یَشْفِئُہُنَّ کی ترکیب یَسْقِیْنَ کی طرح ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف اول، واو عاطفہ الّٰذِیْ اسْم موصول یُیَسِّتُ فِعْل ہُوَ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ بن کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُحِیْ فِعْل ہُوَ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ الّٰذِیْ اسْم موصول اَطْمَعُ فِعْل اَنَا مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَغْفِرُ فِعْل ہُوَ ضمیر فاعل لِی جار با مجرور متعلق ہوئے حَظِیَّتِیْ مرکب اضافی مفعول بہ یَوْمَ الدِّیْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین بتا ویل مصدر اَطْمَعُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کی صفت ہے

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِیْنِ بِالصّٰلِحِیْنَ ۝ وَاَجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝
وَاَجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ۝ وَاغْفِرْ لِاٰبِیْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَلَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ۝

آیت نمبر ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸: رَبِّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ نماز ہے، هَبْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لِی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے حُكْمًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْحَقِیْنِ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر مفعول بہ، بِالصّٰلِحِیْنَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَجْعَلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لِی جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، لِسَانَ صِدْقٍ مرکب اضافی موصوف فی الْاٰخِرِیْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَجْعَلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مِنْ حرف جار وَّرَثَةِ مضاف جَنَّةِ النَّعِیْمِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واو عاطفہ اَغْفِرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَامر حرف جار اِیْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ مطلق، اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہُوَ مستتر اس کا اسم مِنَ الصّٰلِحِیْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیل، مطلق با تعلیل معطوف رابع، واو عاطفہ لَا تُخْزِنِیْ فِعْل نَمِیْ اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاد ضمیر منصوب مفعول بہ یَوْمَ مضاف یُبْعَثُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ نماز کا جواب، نماز با جواب جملہ انشائیہ نمازیہ ہوں

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اٰتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۝

آیت نمبر ۸۸، ۸۹: یَوْمَ مضاف لَا یَنْفَعُ فِعْل مَالٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّہٗ بَنُوْنَ معطوف، دونوں مل کر فاعل، اِلَّا حرف استثناء مِنْ اسْم موصول اٰتٰی فِعْل ہُوَ مستتر فاعل اللّٰه اسم الجلالہ مفعول بہ، بَاء حرف جار قَلْبٍ سَلِیْمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور ظرف

لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصول ہاصلہ مستثنیٰ مفرغاً ملاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف علیہ، پھر مرکب اضافی یَوْمَ یُبْعَثُونَ کا بدل ہے۔

وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝

آیت نمبر ۹۰، ۹۱: واؤ عاطفہ اَزَلَّتِ فعل مجہول الْجَنَّةُ نائب فاعل لِلْمُتَّقِينَ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائیب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ بُرَزَتِ فعل مجہول الْجَحِيمُ نائب فاعل لِلْغَوِينَ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائیب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا یَنْفَعُ بِر معطوف ہے۔

وَقِيلَ لَهُمْ آئِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَهَلٌ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝

آیت نمبر ۹۲، ۹۳: واؤ عاطفہ قِيلَ فعل مجہول هُوَ ضمیر مستتر نائب فاعل لَهُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، آئِنَ ظرف مکان کَاتِبِينَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَعْبُدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل ہُوَ ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال، مِنْ حرف جار دُونَ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ بُرَزَتِ الْجَحِيمُ معطوف ہے۔ اہل حرف استفہام یَنْصُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یَنْتَصِرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دولوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول کے مقولہ میں داخل ہے۔

فَكَبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝ وَجُنُودُ ابْلِيسَ اجْمَعُونَ ۝

آیت نمبر ۹۴، ۹۵: فَاؤ استینا فیہ کَبِّبُوا فعل مجہول واؤ ضمیر مؤکد هُمْ ضمیر منفصل تاکید، مؤکد ہا تاکید معطوف علیہ واؤ عاطفہ الْغَاوُونَ معطوف اول، واؤ عاطفہ جُنُودُ ابْلِيسَ مرکب اضافی مؤکد اجْمَعُونَ تاکید، مؤکد ہا تاکید معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نائب فاعل فِيهَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائیب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللَّهِ ان كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

آیت نمبر ۹۶، ۹۷: قَالُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال، واؤ حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، فِيهَا جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَخْتَصِمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، تَاللَّهِ جار مجرور طرف مستقر متعلق ہوئے فعل مخدوف اُقْسِمُ کے، اُقْسِمُ فعل اَنَا ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ قسم ہا، تَاللَّهِ من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم، كُنَّا فعل ناقص فا ضمیر اس کا اسم لام فاد تہ فی حرف جار ضَلَالٍ مُبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہا، تَخَفَ ہَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۸: اِذْ ظرف زمان مضاف نُسَوِّی فعل مضارع نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بَاء حرف جار رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی کُنَّا کا مفعول فیہ (مظہری) یا فعل محذوف صَلَّاتُنَا کا مفعول فیہ ہے۔ (روح المعانی)

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: وَاوْ اعترافیہ ما حرف لَمْی أَضَلَّ فعل نَا ضمیر منصوب مفعول بہ، اِلَّا حرف استثناء الْمُجْرِمُونَ مستثنیٰ مفرغ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مقررہ ہوں۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۰، ۱۰۱: فَاوْ عاطفہ مانا فیہ لَنَا جار با مجرور ظرف مستقر کَانِنَانِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں حرف جر لَمْ شَافِعِينَ معطوف علیہ، وَاوْ عاطفہ لازلہ صَدِیقٍ حَمِیْمٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَقَطْنَا مجرور محلاً مرفوع مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کُنَّا معطوف ہے۔

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: فَاوْ عاطفہ کُوْ برائے تمنیٰ اَنَّ حرف تحقیق لَنَا جار با مجرور ظرف مستقر کَانِنَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم کَرَّةً اِسْم مؤخر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَاوْ عاطفہ نَكُونُ فعل ناقص نَحْنُ مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جار با مجرور ظرف مستقر کَانِنِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ کُوْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کی تاویل میں ہو کر جملہ اولیٰ سے جو مصدر سمجھا جاتا ہے فَبُؤْتِ كَرَّةً لَنَا اس پر معطوف ہے، اور اگر کُوْ کو شرطیہ قرار دیا جائے تو فَنَكُونُ کا کَرَّةً پُر عطف ہوگا، پھر اَنَّ با اسم و خبر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل ہو کر شرط ہوگا، اور جزء محذوف ہوگی لکن حَتْمًا، شرط با جزء جملہ شرطیہ ہوں۔

آیت نمبر ۱۰۳: اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیَةٌ طَوَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۴: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

ان آیات کی ترکیب سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں گزر چکی ہے۔

﴿﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: كَذَّبَتْ فعل قَوْمُ نُوْحٍ مرکب اضافی فاعل الْمُرْسَلِيْنَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

سوال: قَوْمٌ نُوحٍ فاعل اسم ظاہر مذ کس ہے لہذا اس کا فاعل مذ کر ہونا چاہیے تھا کذب۔؟

جواب نمبر ۱: الْقَوْمِ مؤنث معنوی ہے اسی لئے اس کی تصریح قَوْمِیۃً آتی ہے (مظہری)

جواب نمبر ۲: قَوْمِ اسم جنس ہے یہ مذ کر اور مؤنث دونوں کیلئے آتا ہے (روح المعانی)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

آیت نمبر ۱۰۶: إِذْ ظرف زمان مضاف قَالَ فعل لہم جہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے أَخُوهُمْ مرکب اضافی بین نُوحٍ عطف بیان، مبین باعطف بیان فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزة حرف استفہام لَا تَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ إِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی کَذَّبَتْ کا مفعول فیہ ہے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۰۷: اِنْ حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم لَكُمْ جہ باجرور طرف مستقر کا نون کے متعلق ہو کر حال مقدم، ورسولٌ امینٌ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۝

آیت نمبر ۱۰۸: فاء نصیحہ اور شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، یا اِنْ صَدَقْتُمْ نُونِ، اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطِيعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یا محذوفہ ضمیر منسوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آیت نمبر ۱۰۹: واو عاطفہ مَا تَأْتِيهِ أَسْأَلُ فعل انا مستتر ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منسوب مفعول بہ عَلَيْهِ جہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار زائد أَجْرٍ مَعْلًا منسوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اِنْ حرف نفی أَجْرِي مرکب اضافی مرفوع تقدیر مبتدأ، إِلَّا حرف استثناء علی حرف جار رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور مستثنیٰ مفرغ طرف مستقر کا نون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۝

آیت نمبر ۱۱۰: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ اس کی ترکیب ابھی ادرہ گزری ہے اور یہ آیت اس پہلی آیت کی تاکید ہے۔

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ۝

آیت نمبر ۱۱۱: قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزة حرف استفہام أَنْتُمْ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل لام حرف جر کاف ضمیر ذوالحال، واو حال اِتَّبَعْ فعل کاف ضمیر منسوب مفعول بہ الْأَرْذَالُونَ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، اور اِتَّبَعْ سے پہلے حرف قَدْ محذوف ہے ذوالحال باحال مجرور، جار باجرور طرف لغو تُوْمِنُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق

جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ وَمَا عَلِيٌّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾

آیت نمبر ۱۱۲: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہوا و زائدہ مآثانیہ علیہ مرکب اضافی مبتدأ، بناء حرف جر مآثم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، يَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾

آیت نمبر ۱۱۳: إِنْ حرف نفی حِسَابُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، إِلَّا حرف استثناء علی حرف جر رَبِّي مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ لَوْ حرف شرط تَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل، بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے لَعَلَّكُمْ ذَلِك (روح المعانی) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾

آیت نمبر ۱۱۴: واو عاطفہ مآثانیہ مجازیہ انا ضمیر مبتدأ، بناء حرف جر زائد ظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی لفظاً مجرور محلاً منصوب خبر، مآثانیہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، إِنْ حِسَابُهُمْ معطوف ہے۔

إِنَّا إِنَّا إِلَّا لَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۵﴾

آیت نمبر ۱۱۵: إِنْ حرف نفی انا ضمیر منفصل مبتدأ، إِلَّا حرف استثناء لَنَذِيرٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوں۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ كُنْتُمْ يَنبُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾

آیت نمبر ۱۱۶: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَئِن حرف شرط، لَئِن لَّمْ موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے، يَنبُوحُ حرف ندا، اذْعُوا کے قائم مقام، اذْعُوا فعل انا ضمیر مستتر فاعل نُبُوحُ منادی مفرد معرفہ محلاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ندا، اذْعُوا فعل ناقص اذت مستتر فاعل بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَئِن لَّمْ جوابیہ لَتَكُونَنَّ فعل ناقص اذت ضمیر مستتر اس کا اسم، مِنَ الْمَرْجُومِينَ جار مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، اور شرط کی جزاء محذوف ہے، پھر قسم با جواب قسم ندا کا جواب مقدم، ندا با جواب ندا مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ﴿۱۱۷﴾

آیت نمبر ۱۱۷: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّي ہے اور یہ ندا ہے، اِنَّ حرف تحقیق قَوْمِي مرکب اضافی منصوب تقدیر اس کا اسم کَذِبُونَ فعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل

و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾

آیت نمبر ۱۱۸: فآء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، يَا إِنْ أَرَدْتَ إِعَانَتِي، افْتَحَ فعل امر آتت مستتر قائل بَيْنِي مَرْكَبِ اِضْطَائِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوْءِ عَاطِفُهُ بَيْنَهُمْ مَرْكَبِ اِضْطَائِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ فِيهِ، فَتَحًا مَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ، فَعَلٌ بِمَقَالٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةُ اِنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوْءِ عَاطِفُهُ نَجَّيْنِي فَعَلٌ اِضْطَائِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ فِيهِ، وَمَنْ مَعِيَ مَوْصُولٌ مَعِيَ مَرْكَبِ اِضْطَائِي فَعَلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَمَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ ذَوِّ الْحَالِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَمْلَةٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتُكَ مَطْلُوقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ بِذَوِّ الْحَالِ بِحَالٍ نَجَّيْنِي كَمَا مَفْعُولٌ مَعَهُ، فَعَلٌ بِمَقَالٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةُ اِنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءٍ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِجَزَاءٍ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾

آیت نمبر ۱۱۹، ۱۲۰: فآء نصیر اور شرط محذوف ہے اِذَا عَاتَى بِنَجَاتِهِ وَنَجَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْجَيْنَاهُ فَعَلٌ تَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ تَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، وَاوْءِ بِمَعْنَى مَعًا مَنْ اِسْمٌ مَوْصُولٌ مَعَهُ مَرْكَبِ اِضْطَائِي فَعَلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَمَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ ذَوِّ الْحَالِ فِي حَرْفِ جِزَاءٍ الْفُلِّ مَوْصُولٌ الْمَشْحُونِ اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَائِلٌ اِسْمٌ مَفْعُولٌ بِتَابِ قَائِلٍ شِبْهُ جَمْلَةٍ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصِفَتِ مَجْرُورٍ، جَمْلَةٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتُكَ مَطْلُوقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ بِذَوِّ الْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ مَعَهُ، فَعَلٌ بِمَقَالٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةُ اِنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَرْفٌ عَطْفٌ أَغْرَقْنَا فَعَلٌ تَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ بَعْدُ ظَرْفٌ زَانٌ مَعْلًا مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ فِيهِ، الْبَاقِينَ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِمَقَالٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةُ اِنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءٍ، شَرْطٌ بِجَزَاءٍ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

آیت نمبر ۱۲۱: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾

آیت نمبر ۱۲۲: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۲﴾

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں گزر چکی ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۷ ﴾

آیت نمبر ۱۲۳: كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

آیت نمبر ۱۲۴: اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

آیت نمبر ۱۲۵: اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۲۵﴾

آیت نمبر ۱۲۶: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۲۶﴾

آیت نمبر ۱۲۷: وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

ان آیات کی ترکیب اس رکوع سے پہلے والے رکوع کے شروع والی آیات کی ترکیب کی مثل ہے۔

اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ اَيَّةٌ تَعْبَثُونَ ﴿۱۰﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۱﴾ وَاِذَا
بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۰، ۱۱، ۱۲: ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸: ہمزة حرف استفہام تَبْنُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، تَعْبَثُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، بذوالحال باحال فاعل بآء حرف جر کُلِّ رِيْعٍ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَيَّةٌ ذوالحال مؤخر بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَتَّخِذُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، لَعَلَّ حرف ترقی کُم ضمیر اس کا اسم تَخْلُدُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف ترقی با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر داعی الخُلُود کی تاویل میں ہو کر حال، بذوالحال باحال فاعل مَصَانِعَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَطَشْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، بَطَشْتُمْ فعل تُم ضمیر ذوالحال، جَبَّارِيْنَ صیغہ مبالغہ اَلْتُمْ ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: ۱۳۱: فات تفسیر یہ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ کی ترکیب اس رکوع سے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِيْۤ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَجَنَّتْ وَّ عِيُوْنَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۳، ۱۴، ۱۵: ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴: واؤ عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الَّذِي اسم موصول اَمَدَّ فعل هو ضمیر مستتر فاعل تُم ضمیر منصوب مفعول بہ، بآء حرف جار ما اسم موصول تَعْلَمُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل تُم ضمیر مخدوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، اَمَدَّ فعل هو ضمیر مستتر فاعل تُم ضمیر منصوب مفعول بہ، بآء حرف جار اَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ وَّ جَنَّتْ وَّ عِيُوْنَ یہ معطوفات علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو اَمَدَّ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بدل، مبدل منہ با بدل صلہ، موصول باصلہ اتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: ۱۳۵: اِن حرف تحقیق اَيَّ ضمیر منصوب مَعْلَا اس کا اسم اَخَافُ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے عَذَابَ مضاف يَوْمٍ عَظِيْمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطَلَّہ ہوں (مظہری)

قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوْ عَظَّتْ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِيْطِيْنَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸: ہمزہ حرف استفہام تُتَكْرَكُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر ذوالحال اَمِنِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل فی حرف جر ما اسم موصول ہُنَا ظرف مکان فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کامفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور مبدل منہ، فی حرف جر جَعَلْتِ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عِيُونِ معطوف اِذْل، واؤ عاطفہ زُرُوعِ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ لَنْحَلِ موصوف کلُّہا مرکب اضافی مبتدا مَقْصِيْمٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جار با مجرور مبدل، مبدل منہ با بدل ظرف لغو تَكْرَكُونَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔

وَ تَنْجِيْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَرِهِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۳۹: واؤ عاطفہ یا حالیہ تَنْجِيْتُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مِنَ الْجِبَالِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بِيُوتًا مفعول بہ فَرِهِيْنَ تَنْجِيْتُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یا تَوَامِنِيْنَ پر معطوف ہے کیونکہ اَمِنِينَ تَأْمِنُوا کے معنی کو متضمن ہے یا اَمِنِينَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۰: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوْنَ اس کی ترکیب ادھر گزر چکی ہے اور یہ معطوف علیہ ہے۔

وَ لَا تُطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۱، ۱۵۲: واؤ عاطفہ لَا تُطِيعُوا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل اَمْرَ مضاف الْمُسْرِفِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول يُفْسِدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل فی الْاَرْضِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا يُصْلِحُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت اَمْرَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ اتَّقُوا پر معطوف ہے۔

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۳: قَالُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول بَانَ حرف تحقیق كَفُوْهُ، مَا كَاذَ اَنْتَ ضمیر منفصل مبتدا، مِنَ الْمُسْحَرِيْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا مِمَّا فَاتَ بِاَيَّةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۴: مَا اَنْتَ ضمیر منفصل مبتدا، اِلَّا حرف استثناء بَشَرٌ موصوف مِثْلُنَا مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ فَاتَ جزائیہ اِنَّتِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بِاَيَّةِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء مقدم، اِنْ حرف شرط كُنْتَ فعل ناقص تَاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم مِنَ الصّٰدِقِيْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کالینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾

آیت نمبر ۱۵۵: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، فعل بافاعل قول، هَذِهِ اسم اشرہ مبتدئہ، نَاقَةٌ موصوفہ لَهَا جادہ باجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہوئے، کائِن اسم فاعل ہو مستتر ذوالحال، وَاوْ حَالِیہ لَکُمْ جادہ باجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، شِرْبٌ مضاف یَوْمِ مَعْلُومِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ حال مذوالحال باحال کائِن کا فاعل، کائِن اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر خبر مقدم، شِرْبٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر نَاقَةٌ کی صفت، موصوفہ بہ صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْدٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵۶﴾

آیت نمبر ۱۵۶: وَاوْ عاطفہ لَا تَمْسُوْا فعل وَاوْ ضمیر فاعل حَا ضمیر منصوب مفعول بہ بِسُوْدٍ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ هَذِهِ نَاقَةٌ پر معطوف ہے (مظہری) فَاوْ عاطفہ فَيَاْخُذْكُمْ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ عَذَابٌ مضاف یَوْمِ عَظِيْمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر (کیونکہ فَاوْ کے بعد اَن مقدر ہے) معطوف ہے جملہ اول سے حاصل ہونے والے مصدر، کیونکہ لَا تَمْسُوْا هَا بِسُوْدٍ "لَا يَكُنْ مَسَّهَا بِسُوْدٍ" کی تاویل میں ہے۔

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا نِدْمِيْنَ ﴿۱۵۷﴾

آیت نمبر ۱۵۷: فَاوْ عاطفہ فَعَقَرُوْا فعل وَاوْ ضمیر فاعل حَا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاوْ عاطفہ فَاصْبَحُوْا فعل ناقص وَاوْ ضمیر اس کا اسم نِدْمِيْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل بدوئوں مل کر خبر، فعل ناقص ہَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ پر معطوف ہے۔

فَاْخَذَهُمُ الْعَذَابُ طَائِفًا فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً طَوَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۸﴾

آیت نمبر ۱۵۸: فَاوْ عاطفہ اَخَذَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الْعَذَابُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَصْبَحُوْا پر معطوف ہے۔ اِنِّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً طَوَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اس آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں گزر چکی ہے۔

آیت نمبر ۱۵۹: وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۵۹﴾

ان آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں گزر چکی ہے۔

﴿ زکوع نمبر ۹ ﴾

آیت نمبر ۱۶۰: كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُّوطًا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۶۰﴾

آیت نمبر ۱۶۱: اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوْطُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

آیت نمبر ۱۶۲: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾

آیت نمبر ۱۶۳: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرًا

آیت نمبر ۱۶۴: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾

ان آیات کی ترکیب اور گزرجگی ہے۔

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ط

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾

آیت نمبر ۱۶۵، ۱۶۶: ہمزہ حرف استفہام تَأْتُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل الذُّكْرَانَ ذوالحال من الْعَالَمِينَ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَذَرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مَا اسم موصول خَلَقَ فعل لکم جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے رَبُّكُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من حرف جراز و اجکم مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف الْآلَمِينَ کابدل ہے (مظہری) بَلْ حرف عطف برائے اضراب الکتب ضمیر منفصل مبتدأ، قَوْمٌ موصوف عَادُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۷﴾

آیت نمبر ۱۶۷: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ کی ترکیب

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ کی طرح ہے جو دو رکوع پہلے گزرجگی ہے۔

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۶۸﴾

آیت نمبر ۱۶۸: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ مستقر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم،

لام حرف جر عَمَلِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے من حرف جر الْقَالِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستقر فاعل،

اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول

بالمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

رَبِّ نَجْنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۹﴾

آیت نمبر ۱۶۹: رَبِّ نَجْنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ میں یا کرتی ہے اور یہ ندا ہے، نَجْج فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل نون برائے و قایہ یاء ضمیر منصوب

مفعول بہ، واؤ بمعنی مَعَ اَهِلِّي مرکب اضافی مفعول مدہ، من حرف جار مِمَّا مصدر یہ يَعْمَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر بتاویل

مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو نَجَّيْنَا کے متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ انشائیہ مداء کا جواب ہے، مداء با جواب جملہ انشائیہ مدائیہ ہو کر قَالَ محذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷۰، ۱۷۱: فَأَاءَ عَاطِفُهُ نَجَّيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ، واؤ بمعنی مَعَ "آهْلُهُ" مرکب اضافی مؤکد أَجْمَعِينَ تاکید، مؤکد با تاکید مستثنیٰ منه، إِلَّا حرف استثناء عَجُوزًا موصوفہ فی الْغَيْرِينَ جار با مجرور ظرف مستقر كَانَتْكَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مستثنیٰ، پھر مستثنیٰ منه با مستثنیٰ نَجَّيْنَا کا مفعول معہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قَالَ محذوف پر معطوف ہے۔ (مظہری)

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۷۲: ثُمَّ حرف عطف دَمَرْنَا فاعل نا ضمیر فاعل الْأَخْرِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نَجَّيْنَا پر معطوف ہے۔ (روح المعانی)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷۳: واؤ عاطفہ أَمْطَرْنَا فاعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَطْرًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ دَمَرْنَا پر معطوف ہے، فَأَاءَ نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا أَهْلَكْنَا هُمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، سَاءَ فعل زَم مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا محذوف مَطْرُهُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

آیت نمبر ۱۷۴: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷۵: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیات میں گزر چکی ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱۰ ﴾

آیت نمبر ۱۷۶: كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷۷: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

آیت نمبر ۱۷۸: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۷۹: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

آیت نمبر ۱۸۰: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے رکوع نمبر ۶ کے شروع کی آیات کی مثل ہے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾

آیت نمبر ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴: اَوْفُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الْكَيْلَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَكُونُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم، مِنَ الْمُخْسِرِينَ جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ زِنُوا فعل امر اور یہ اصل میں اَوْزِنُوا ہے واؤ ضمیر متصل فاعل بآء حرف جر الْقِسْطِ موصوف انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ تَبْخَسُوا فعل امر اور یہ اصل میں اَبْخَسُوا ہے واؤ ضمیر متصل فاعل بآء حرف جر النَّاسِ موصوف انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا تَعْتُوا فعل امر اور یہ اصل میں اَلْعَتُوا ہے واؤ ضمیر متصل فاعل بآء حرف جر الْأَرْضِ جار مجرور ظرف لغو الْمُسْتَقِيمِ صیغہ صفت، ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو تَعْتُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق تمل علیہ انشائیہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ لَا تَبْخَسُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ اول، أَشْيَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واؤ عاطفہ لَا تَعْتُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مُفْسِدِينَ لَا تَعْتُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل نہیں با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف رابع، واؤ عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر ظاہر فاعل الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل كَمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، واؤ بمعنی مَعَ الْحِيلَةَ الْأُولَىٰ مرکب توصیفی مفعول معد، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ اتَّقُوا اللہ کا عطف بیان ہے۔ (مظہری)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾

آیت نمبر ۱۸۵: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف تحقیق کھنوفہ، مَا کافہ اَنْتَ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مِنَ الْمُسَحَّرِينَ جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم فاعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾

آیت نمبر ۱۸۶: واؤ حالیہ یا عاطفہ مَا نافیہ اَنْتَ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اِلَّا حرف استثناء بَشَرٌ مشتق مفرغ خبر اول، مِثْلُنَا مرکب اضافی خبر ثانی، اور یا یہ دونوں موصوف صفت ہے، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِنْ محققہ من الشک ضمیر شان مقدر اس کا اسم نَظُنُّ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول، لَمْ فَارَقَهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ جار مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ محققہ کی خبر، اِنْ محققہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّمَا اَنْتَ بہ معطوف ہے یا کائین کی اَنْتَ ضمیر سے حال ہے۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۸۷﴾

آیت نمبر ۱۸۷: فَأَء جزائیہ اسْقِطْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل عَلَيْنَا جار مجرور متعلق اول ہوئے كِسْفًا مفعول بہ، مِنَ

تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے حال ہے (مظہری)

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۱۹۶: واؤ عاطفہ ان حرف تحقیق ضمیر منصوب اس کا اسم لام مذکورہ حرف جزؤبیر الاولین مرکب اضافی مجرور،

جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ مَعطوف ہے۔

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۱۹۷: ہمزہ حرف استفہام واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَعْرِفُوا سَوْأَهُمْ لَمْ يَكُنْ فعل ناقص

لَهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم آية ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر مقدم، ان حرف مصدری

ونصب يَعْلَمَهُ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ، عَلِمُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل

مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہوں۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿۳۳﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۱۹۸، ۱۹۹: واؤ عاطفہ کو حرف شرط نَزَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ علی حرف جر بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ

مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَرَأَ فعل ہو

ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ عَلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، مَا كَانُوا كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم بہ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، مؤمِنِينَ اسم

فاعل هُمْ مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۲۰۰: كَذَلِكَ جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف سَلَكْنَا کے مفعول مطلق فعل

محذوف سَلَكْنَا کا، سَلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل ومفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، سَلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر

مفعول بہ فی حرف جار قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ

خبریہ ہو کر مفسر ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۶﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۷﴾

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳: لَا يُؤْمِنُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بہ جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، حَتَّىٰ حرف غایت و جرار

اس کے بعد ان مقدم ہے، يَرَوُا فعل واؤ ضمیر فاعل الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَأْتِيهِمْ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَغْتَةً مفعول بہ هُمْ ضمیر ذوالحال، واؤ حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يَشْعُرُونَ فعل واؤ ضمیر

فاعل دونوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ یَقُولُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہَلْ حرف استفہام نَحْنُ ضمیر منفصل مبتدا، مُنْظَرُونَ اسم مفعول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور لا یُؤْمِنُونَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔ (روح المعانی)

أَفَبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۰۲: ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یَوْعِيدُنَا لَا يَسْتَيْقِنُونَ، بناء حرف جار عَدَابِنَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَسْتَعْجِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہوں۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۲۸﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۲۹﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸: ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تَنَزَّلَتْ رَدَائِدُكَ مَفْتُوحہ ضمیر فاعل اِنْ حرف شرط مَتَّعْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، سِنِينَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ جَاءَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، يُوعَدُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، مَا نَافِيَةٌ أَغْنَىٰ فعل عَنْهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، يَمْتَنِعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر رَدَائِدُكَ کے دو مفعول کے قائم مقام اسلئے کہ رَدَائِدُكَ بمعنی عَلِمَتْ کے ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہوں۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۲۰۸: واو استینافیہ (فقیر) مَا نَافِيَةٌ أَهْلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنْ حرف جار قَرْيَةٍ ذوالحال اِلَّا حرف استثناء لَهَا جار مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مُنْذِرُونَ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعلاً منصوب حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔

ذِكْرَىٰ قَوْمًا كَتَبْنَا ظَلِيمِينَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۲۰۹: ذِكْرَىٰ "مُنْذِرُونَ" کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یا اس کی صفت ہے بطور مبالغہ کے، واو عاطفہ مَا نَافِيَةٌ كَتَبْنَا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم ظَلِيمِينَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذِكْرَىٰ معطوف ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

آیت نمبر ۲۱۰، ۲۱۱: واؤ عاطفہ مانا فیہ تَنْزَلَتْ فعل بہ جار مجرور متعلق ہوئے الشَّيْطَانُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مانا فیہ یَنْبَغِي فعل ہو ضمیر فاعل لہُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ مانا فیہ یَسْتَطِيعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اس کا عطف ہے نَزَلَتْ بِهِ الرَّوحُ الْأَيْمَنُ۔

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُؤُونَ ۝

آیت نمبر ۲۱۲: اِنَّ حرف تحقیق ہُمْ ضمیر اس کا اسم عن حرف جار السَّمْعِ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، لاہ مذ حلقہ مَعَزُؤُونَ اسم مفعول ہُمْ ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝

آیت نمبر ۲۱۳: فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لَا تَدْعُ فعل نہی اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل مَعَ اللَّهِ مرکب اضافی کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، اِلٰهًا آخَرَ مرکب توصیفی مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فاء سببیہ اور اس کے بعد اَنْتَ مقدّم ہے تَدْعُ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُعَذَّبِينَ جار مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بنا ویل مصدر جملہ اولی سے مستنبط مصدر پر معطوف ہے اس لئے کہ جملہ اولی لایکُنْ دَعَوْتُكَ مَعَ اللَّهِ... الخ کا تادل میں ہے۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

آیت نمبر ۲۱۴: واؤ عاطفہ اَنْذِرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل عَشِيرَتِكَ مرکب اضافی موصوف الْأَقْرَبِينَ اسم تفضیل ہُمْ ضمیر فاعل، اسم تفضیل بافاعل شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ لَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ مَعْظُوف ہے۔

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۲۱۵: واؤ عاطفہ اِخْفِضْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل جَنَاحَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، لاہ جارہ من اسم موصول اتَّبِعَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال من الْمُؤْمِنِينَ جار مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر لَأَنْذِرْ پر معطوف ہے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّيَ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلِّبُكَ فِي السُّجُودِ ۝

آیت نمبر ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹: فَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ فِرَانَ حَرْفٌ شَرْطٌ عَصَمُوا فَعَلٌ وَادَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمِيضٌ لَمْ يَكِرْ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِشَرَطٌ، فَأَمَّا جَزَائِيَّةٌ قُلْتُ فَعَلٌ أَمَّا أَنْتَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ، وَدُونُ لَمْ يَكِرْ جَمَلَةٌ انشائية هُوَ كَرِشَرَطٌ، إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ يَأْتِي ضَمِيرَ اسْمِ كَرِشَرَطٍ بِرَبِّي ؕ مِيْنَةٌ صِفَتٌ أَتَى ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ مِنْ حَرْفٍ جَدَمًا مَصْدَرِيَّةً تَعْمَلُونَ فَعَلٌ بِادَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ، جَدَمًا مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ رَبِّي ؕ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، مِيْنَةٌ صِفَتٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ خَبْرٌ إِنَّ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادَا عَاطِفَةٌ يَكُنْ فَعَلٌ أَمَّا أَنْتَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ عَلَى حَرْفِ جَدَمٍ الْعَزِيْزِ مَوْصُوفٌ الرَّجِيْمِ مِيْنَةٌ صِفَتٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سَلَّمَ كَرِشَرَطٍ اَوَّلِي، الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ يَزِي فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادَا عَاطِفَةٌ تَقَلَّبَ مَصْدَرٌ مَضَافٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَعْنَى فَاعِلٌ فِي الشُّجْدَيْنِ جَدَمًا مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مَصْدَرٍ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، مَصْدَرٌ مَضَافٌ إِلَى مَضَافٍ إِلَيْهِ مَعْنَى فَاعِلٌ وَتَمَتَّقٌ سَلَّمَ كَرِشَرَطٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ يَزِي كَافٌ مَفْعُولٌ بِهِ جِيْنٌ مَضَافٌ تَقْوَمُ فَعَلٌ أَنْتَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ، وَدُونُ لَمْ يَكِرْ جَمَلَةٌ مَجْرُورٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ، پھر مرکب اضافی يَدَا كَافٌ مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ لِيْنٌ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَمٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ الْعَزِيْزِ كِي صِفَتٌ ثَانِيَّةٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْتِمَالِ مَجْرُورٍ، جَدَمًا مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ يَكُنْ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ جَمَلَةٌ انشائية مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءً، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۱۶﴾

آیت نمبر ۲۲۰: إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَاسْمِ هُوَ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ دُوْخَبْرٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ إِنَّ كِي خَبْرٌ، إِنَّ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطَّلَةٌ هُوَ

هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿۲۲۱﴾

آیت نمبر ۲۲۱: هَلْ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ أَنْتُمْ فَعَلٌ أَنَا ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ تَنْزَلُ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، عَلَى حَرْفٌ جَدَمٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَجْرُورٌ، جَدَمًا مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ تَنْزَلُ مَقْدَمٌ هُوَ تَنْزَلُ فَعَلٌ الشَّيْطَانُ فَاعِلٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ مَقْدَمٌ جَمَلَةٌ انشائية أَنْتُمْ كَافٌ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ لِيْنٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ هُوَ

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲۲: تَنْزَلُ فَعَلٌ اَوَّلِي اَصْلٌ فِي تَنْزَلُ هُوَ، هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ عَلَى حَرْفٍ جَدَمٌ مَضَافٌ آفَاكٍ أَثِيمٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدَمًا مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ تَنْزَلُ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ جَمَلَةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ جَمَلَةٌ اَوَّلِي سَلَّمَ بَدَلٌ هُوَ

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿۲۲۳﴾

آیت نمبر ۲۲۳: يُلْقُونَ فَعَلٌ وَادَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ السَّمْعَ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَتَمَتَّقٌ هُوَ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ أَثِيمٍ كِي صِفَتٌ هُوَ، يَابَجَمَلَةٌ مُسْتَفْهَمَةٌ هُوَ، وَادَا حَالِيَّةٌ أَكْثَرُهُمْ مَرْكَبٌ اَضَافِيٌّ مَبْتَدَأُ كَذِبُونَ اسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، اسْمٌ فَاعِلٌ بِفَاعِلٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ يُلْقُونَ كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلَّمَ حَالٌ هُوَ

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۳﴾

آیت نمبر ۲۲۳: واو استثنائیہ الشعراء مبتداء، يتبع فعل هم ضمیر منصوب مفعول بہ، الغاؤون فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ

جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہوں (مظہری)

الْم تَرَاهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهيمون ﴿۲۲۴﴾ وَ انھم يقولون ما لا يفعلون ﴿۲۲۵﴾

آیت نمبر ۲۲۴، ۲۲۵: ہمزہ حرف استفہام لم تَر فعل انت ضمیر مستتر فاعل ان حرف تحقیق هم ضمیر منصوب اس کا اسم فی

حرف جر كل واد مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہونے یهيمون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ

فعلیہ خبریہ خبر، ان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق هم ضمیر اس کا اسم یقولون فعل واو ضمیر فاعل ما اسم

موصول لا يفعلون فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

خبر، ان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لم تَر کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل ومفعولین جملہ انشائیہ

استفہامیہ مطلقہ ہوں

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

ظَلَمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۲۷﴾

آیت نمبر ۲۲۷: إلا حرف استثناء الذين اسم موصول آمنوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو

عاطفہ عملوا فعل واو ضمیر فاعل الصالحات بواسطہ موصوف محذوف الأفعال کے مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف اول، واو عاطفہ ذکرُوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، کثیرًا بواسطہ موصوف محذوف ذکرُوا کے مفعول مطلق، فعل

بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ انتصروا فعل واو ضمیر فاعل من حرف جار بعد مضاف ما مصدریہ ظلموا فعل

مجهول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر بتا ویل مصدر مضاف، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو انتصروا کے متعلق ہونے،

فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ الشعراء يتبعهم الغاؤون سے

مستثنیٰ ہے۔ واو عاطفہ سيعلم علامت فعل يعلم فعل الذين اسم موصول ظلموا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ

فاعل ایُّ مُنْقَلَبٍ مرکب اضافی مفعول مطلق مقدم ينقلبون فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل ومفعول مطلق مقدم جملہ انشائیہ

استفہامیہ يعلم کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ الشعراء يتبعهم الغاؤون پر معطوف ہے۔

بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

کی ترکیب الکہ ہوٹل کراچی کے مہمان خانہ میں ۲۳ اپریل ۲۰۱۸ء بروز منگل بعد نماز عصر ۱۰:۰۶ بجے مکمل ہوئی ہے

ترکیب سُورَةُ النَّملِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طَسَّسْتَ تِلْكَ اٰیٰتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝

آیت نمبر ۱: طَسَّسْ اس کی ترکیب سورت بقرہ کے شروع میں دیکھیں۔ تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، اٰیٰتِ مضاف القرآن معطوف علیہ، واو عاطفہ، كِتَابٍ مُّبِیْنٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

هُدٰی وَ بُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲، ۳: هُدٰی وَ بُشْرٰی یا تو منصوب تقدیر القرآن سے حال ہے یا مجرور تقدیر القرآن سے بدل ہے یا مرفوع تقدیر تِلْكَ کی دوسری خبر ہے، لام حرف جر الْمُؤْمِنِیْنَ موصوف الذّٰلِیْنَ اسم موصول یُقِیْمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُؤْتُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الزَّكٰوة مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذّل، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، بِالْاٰخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے هُمْ ضمیر یہ پہلی هُمْ ضمیر کی تاکید ہے یُوقِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول با صلہ الْمُؤْمِنِیْنَ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور علی سبیل التنازع هُدٰی اور بُشْرٰی کے متعلق ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَیْنًا لَّهُمْ اَعْمَالُهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُوْنَ ۝

آیت نمبر ۴: اِنَّ حرف تحقیق الذّٰلِیْنَ اسم موصول لَا یُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْاٰخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم زَیْنًا فعل نا ضمیر فاعل لَّهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَعْمَالُهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، یَعْمَهُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمْ الْاٰخَسَرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ، الذّٰلِیْنَ اسم موصول لَّهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم سُوْءُ الْعَذَابِ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، فِی الْاٰخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، هُمْ ضمیر مبتدا، الْاٰخَسَرُوْنَ اسم تفضیل هُمْ متضرر فاعل اسم تفضیل

باقاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔ (مظہری)

وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ①

آیت نمبر ۶: واؤ استینافیہ (روح المعانی) اِنْ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لام مذ حلقہ تُلْقَى فعل مجہول اَنْتَ ضمیر مستتر نائب فاعل الْقُرْآنَ مفعول بہ، مِنْ حرف جر لَدُن مضاف حَكِيمٍ عَلِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں یا اِنَّ الْقُرْآنَ یہ معطوف ہے۔ (مظہری)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا ۚ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ مِّنْ سَمَوَاتٍ مُّصْطَلُونَ ②

آیت نمبر ۷: اِذْ ظرف زمان مضاف، قَالَ فعل، مُوسَى مرفوع تقدیر فاعل لام حرف جار اَهْلِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اِنْ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَنْسْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر متصل فاعل نَارًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اُذْ كُوْ كُوْ کا مفعول فیہ، اُذْ كُوْ فعل امر اپنے اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ سینین علامت فعل، اِنِّي فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، مِنْهَا جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، بَاء حرف جر خبر و الحال مؤخر و الحال با حال بَاء کا مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف اِنِّي فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بَاء حرف جر شہاب مبدل منہ قبس بدل، مبدل منہ بادل مجرور، جار با مجرور اِنِّي کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فعل محذوف اُنْكُمُوكِ تَلِيلٍ ہے۔ لَعَلَّ حرف ترقی كُمْ ضمیر اس کا اسم تَصْطَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ معللہ ہوں۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ③

آیت نمبر ۸: فاء تفصیلی لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نُودِيَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل اَنْ حرف مصدری بُورِكَ فعل مجہول مَن اسم موصول فی النَّارِ جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَن اسم موصول حَوْلَهَا مرکب اضافی فعل محذوف ثَبَّتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بُورِكَ کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے نُودِيَ کے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ

خبر یہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا اور عاطفہ مُبْتَدِئٌ مضاف اللہ اسم الجلالہ موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی صفت، موصوف ہا صفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف نُسَبِخُ کامفعول مطلق، پھر نُسَبِخُ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر قَالَ محذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ نُودِیْ بہ معطوف ہے (روح المعانی)

يُمُوسِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

آیت نمبر ۹: یاء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا ضمیر فاعل مُوسى منادی مفرد معرف منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اِنْ حرف تحقیق ضمیر شان اس کا اسم انا ضمیر منفصل مبتداء، اِنَّهُ موصوف الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دو صفت، موصوف ہا صفتین خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَ كَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفُ فَنَادَى لِأَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ②

آیت نمبر ۱۰: واو عاطفہ اَلْقِ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل عَصَاكَ مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ بُورِكَ بہ معطوف ہے یا جواب نداء بہ معطوف ہے۔

سوال: اَلْقِ عَصَاكَ انشاء ہے اور بُورِكَ خبر ہے اور یہ انشاء کا خبر عطف ہو رہا ہے جو کہ عند النسخة درست نہیں ہے؟

جواب: یہ عطف انشاء علی الخبر کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ عطف المفرد علی المفرد کے قبیل سے ہے اس لئے کہ اصل عبارت اس طرح ہے نُودِیْ هَذَا الْقَوْلُ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ هَذَا الْقَوْلُ اَلْقِ عَصَاكَ، فلا اشکال (منظری)

فاء استینائیہ یا فیصہ اور شرط محذوف ہے اِذَا اَلْقَاهَا، لَمْ تَشْرَطِ مفعول فیہ مقدم راہی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب ذوالحال، تَهْتَزُّ فعل ہی مستتر ذوالحال، كَأَنَّ حرف تشبیہ ہا ضمیر اس کا اسم جَانٌّ خبر، كَأَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تَهْتَزُّ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال راہی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، و لَّى فعل ہو مستتر ذوالحال، مُدْبِرًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ يُعَقِّبُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرط محذوف کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ یا مُوسَى اس کی ترکیب اوپر گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، لَا تَخَفُ فعل نداء ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ قُلْنَا محذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم لَا تَخَفُ فعل لَدَى مرکب اضافی مفعول فیہ الْمُرْسَلُونَ فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لا تَخَفُ کی تعلیل ہے۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ③

آیت نمبر ۱۱: اِلَّا حرف استثناء بمعنی لٰكِنْ اور یہ استثناء منقطع ہے مَنْ اسم موصول ظَلَمَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ

خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ بَدَلِ نَظَرِ هُوَ مستتر فاعل حُسْنًا مفعول بہ یَعْدُ سُوْدٌ مرکب اضافی مفعول فیہ، نَظَرَ بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، اور خبر محذوف ہے فَإِنِّي أَغْفِرُ لَهُ وَأَرْحَمُهُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فاء تلمیذیہ اِنَّ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہوا۔

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْدٍ تَدْفِي تَسْعِ اَيِّتٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ ط انَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ①

آیت نمبر ۱۲: واو عاطفہ اَدْخَلَ نَظَرَ امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل يَدَكَ مرکب اضافی مفعول بہ فی حرف جر جَيْبِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، نَظَرَ بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ اَلْقِيْ بِمَعطوف ہے تَخْرُجُ نَظَرَ ہی ضمیر مستتر ذوالحال بَيْضَاءَ موصوف و مِنْ حرف جر غَيْرِ سُوْدٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت حال، ذوالحال باحال تَخْرُجُ کا فاعل، نَظَرَ بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، اور شرط محذوف ہے اِنَّ تَدْخُلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اس لئے کہ تَخْرُجُ جواب امر میں واقع ہے، فی حرف جار تَسْعِ اَيِّتٍ میز با تمیز مجرور، جار با مجرور متعلق اذل ہوئے نَظَرَ اِذْهَبَ کے، اِلَى حرف جار فِرْعَوْنَ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَوْمِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق تانی ہوئے، اِذْهَبَ نَظَرَ محذوف اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مستانہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم کَانُوا نَظَرَ ناقص واو ضمیر اس کا اسم، قَوْمًا فَسِقِيْنَ مرکب توصیفی خبر، نَظَرَ ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہوا۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ② وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُتُوًّا ط فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ③

آیت نمبر ۱۳، ۱۴: فاء استثنائیہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَتْ نَظَرَ هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اِيْتَانَا مرکب اضافی ذوالحال مُبْصِرَةً اسم فاعل بمعنی اسم مفعول حال، ذوالحال باحال فاعل، نَظَرَ بافاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالُوْا نَظَرَ باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، هٰذَا اسم اشارہ مبتدأ، سِحْرٌ مُّبِيْنٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَحَدُوْا نَظَرَ واو ضمیر ذوالحال واو عالیہ اسْتَيْقَنَتْ نَظَرَ هَا ضمیر مفعول بہ، اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی فاعل، نَظَرَ بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل بَاء حرف جار هَا ضمیر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، ظُلْمًا وَ عُتُوًّا معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ ہے، یا جَحَدُوْا و اکی ضمیر فاعل سے حال ہے، نَظَرَ بافاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا فاء استثنائیہ ہے اَنْظُرْ نَظَرَ امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل كَيْفَ ظرف زمان کَائِنَةٌ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم مکان نَظَرَ ناقص عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ مرکب اضافی اسم، نَظَرَ ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ اَنْظُرْ کا مفعول بہ، نَظَرَ با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ یا جملہ مستانہ

وَلَقَدْ أُتِينَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا ۚ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ

عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: واؤ استینافیہ لامر موطنہ القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، اُتینَا فعل نا ضمیر فاعل دَاوُد و سُلَيْمَانَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اَوَّل عِلْمًا مفعول بہ یعنی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ مستانفہ ہوں واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَعْمَلًا عَلٰی مَا حَسِبَ مَا عَلِمْنَا وَعَرَفْنَا حَقَّ النِّعْمَةِ، قَالَ فعل الف ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلْحَمْدُ مبتدأ لامر حرف جاد اللہ اسم الجلالہ موصوف الذی اسم موصول فَضَّلَ فعل ہو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، عَلٰی حرف جاد کثیر موصوف مِّنْ حرف جاد عِبَادِهِ مرکب اضافی موصوف الْمُؤْمِنِينَ صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر کثیر کی صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جاد با مجرور فَضَّلَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جاد با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر اَلْحَمْدُ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ مستانفہ ہوں

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۚ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِطَانًا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: واؤ عاطفہ و وِثَ فعل سُلَيْمَانُ فاعل دَاوُدَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قَالَ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یَاءَ حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انا ضمیر فاعل اَنْی موصوف ہا برائے تمییہ النَّاسُ صفت، موصوف بہ صفت محلاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، عَلِمْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل مَنطِقَ الطَّيْرِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجہول بہ نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَا ہر معطوف ہے۔ واؤ عاطفہ اُوتینَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل مِّنْ حرف جاد کُلِّ شَیْءٍ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور طرف متعلق ہوئے، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق هَذَا اسم اشارہ اس کا اسم لامر مذ طلغہ ہو ضمیر مبتدأ، الْفَضْلُ الْمُبِينُ مرکب توسیعی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: واؤ عاطفہ حُشِرَ فعل مجہول لِسُلَيْمَانَ جاد با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے جُنُودُهُ مرکب اضافی ذوالانار میں حرف جاد الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاد با مجرور طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالانار، حال، نائب فاعل، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاءَ عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ، يُوزَعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل،

دونوں مل کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر قالا پر معطوف ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّبْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۖ لَا يَخْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: حَتَّىٰ ابتدائیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، آتوا فعل واو ضمیر فاعل علی حرف جر واد النمل مرکب اضافی مجرد، جد با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَتْ فعل نَمَلَةٌ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اَدْعُو کے قائم مقام، اَدْعُو فعل انا ضمیر مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تنبیہ النمل صفت، موصوف با صفت عملاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اَدْخُلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مَسْكِنَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول لَا يَخْطِبَنَّكُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سُلَيْمٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ جُنُودُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل نہی با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متاخر ہول (مظہری)

فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: قائم عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَسَمِعَ سُلَيْمَانُ مَقَالَهَا وَأَذْرَكَ مَعْنَاهَا، تَبَسَّ فعل ہو مستتر ذوالحال صَاحِبًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل مِنْ حرف جار قَوْلِهَا مرکب اضافی مجرد، جد با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یاکرتی ہے اور یہ نداء ہے، اَوْزِعْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اَنْ حرف مصدری و نصب اَشْكُرْ فعل انا مستتر فاعل نِعْمَتِكَ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول اَنْعَمْتَ فعل قائم مفتوحہ فاعل عَلَيَّ جار با مجرد معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَيَّ حرف جار وَالِدَيَّ مرکب اضافی مجرد، جد با مجرد معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو اَنْعَمْتَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت اَشْكُرْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف مصدری و نصب اَعْمَلَ فعل انا ضمیر مستتر فاعل صَالِحًا عملاً موصوف مخدوف کی صفت اولیٰ، تَرْضَىٰ فعل اَنْتَ مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین اَعْمَلَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَوْزِعْ کا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَدْخِلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ ثانیہ حرف جر رَحْمَتِكَ مرکب اضافی مجرد، جد با مجرد ظرف لغو متعلق اول ہوئے، فی حرف جار عِبَادِكَ مرکب اضافی موصوف الصَّالِحِينَ صفت، موصوف با صفت

مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ تکیسہ بہ معطوف ہے، معطوف علیہ محذوف با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى سِوَى الْغَائِبِينَ ①

آیت نمبر ۲۰: واؤ عاطفہ تَفَقَّدَ فعل ہو مستتر قائل الطَّيْرُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا استفہامیہ مبتداء، لام حرف جار یاء ضمیر ذوالحال لَا أَرَى فعل آنا ضمیر مستتر قائل الْهُدًى مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَمْر متقطعہ بمعنی بَلَّ " كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْغَائِبِينَ جار با مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر لفظاً جملہ انشائیہ حقیقۃً جملہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مَا استفہامیہ مبتداء لہنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ تَفَقَّدَ بہ معطوف ہے، تَفَقَّدَ معطوف علیہ با معطوف یہ معطوف علیہ محذوف بہ معطوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے جُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ فَنَزَلَ مِنْهَا لَاقِمٌ يَعِدُ النِّمَارَ الْهُدًى وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔

لَا عَذِيبَةَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذِيبُكَ أَوْ لِيَأْتِيَنَّيْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ①

آیت نمبر ۲۱: لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اَعَذِبَنَّ فعل آنا ضمیر مستتر قائل ضمیر منصوب مفعول بہ، عَذَابًا شَدِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اَذِيبُكَ فعل آنا مستتر قائل ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معطوف اول، اَوْ عاطفہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے يَأْتِيَنَّيَنَّ فعل ہو مستتر قائل نون محذوفہ برائے و تاقیہ، یاء ضمیر مفعول بہ یاء حرف جر سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانہ ہوں۔

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٌ ①

آیت نمبر ۲۲: فقاء عاطفہ مَكَتْ فعل ہو مستتر قائل غَيْرَ بَعِيدٍ مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف وَمَا تَاكَ مفعول فیہ، (روح المعانی) فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَنْ، قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، أَحَطَّتْ فعل تاء منسومہ ضمیر قائل بَاء حرف جر موصول لَمْ تُحِطْ فعل آنت ضمیر مستتر قائل بہ، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سد، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف مَكَتْ بہ معطوف ہے۔ واؤ عاطفہ جِئْتُكَ فعل تاء منسومہ قائل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ سَبَإٍ جار با مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، بقاء حرف جار تَبَإٍ يَقِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ أَحَطَّتْ بہ معطوف ہے۔

اِنِّیْ وَجَدْتُ اِمْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: اِن حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم وَّجَدْتُ فعل ثناء مضمومہ ضمیر فاعل اِمْرَاةً موصوف تَمْلِكُ فعل ہی ضمیر فاعل، هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت وَّجَدْتُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہوا۔ (روح المعانی) واو حالیہ اُوْتِيَتْ فعل مجہول ہی مستتر نائب فاعل مِنْ حرف جدکتی ہی مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تَمْلِكُ کی ہی ضمیر کا حال اولیٰ ہے، واو حالیہ لَهَا جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، عَرْشٌ عَظِيْمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَمْلِكُ کی ہی ضمیر کا حال ثانیہ ہے۔

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: وَّجَدْتُ فعل ثناء مضمومہ ضمیر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ اول، واو بمعنی مَعَ "قَوْمَهَا" مرکب اضافی مفعول معہ، يَسْجُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل لِلشَّمْسِ جار با مجرور متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار دُونَ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مانی ہوئے (روح المعانی) يَا مُتَجَاوِزِيْنَ کے متعلق ہو کر يَسْجُدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے (روح المعانی) يَسْجُدُونَ فعل بافاعل و متعلق وَّجَدْتُ کا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مقابیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوا۔ واو حالیہ زَيْنَ فعل لَهَا جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الشَّيْطٰنُ فاعل اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ صَدَّ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، عَنِ السَّبِيْلِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَسْجُدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ فَاء عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يَهْتَدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ يَسْجُدُونَ پر معطوف ہے۔

اَلَا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَا

مَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: اِن حرف مصدری و نصب لازلہ يَسْجُدُوْا وَا فعل واو ضمیر فاعل لام حرف جر اللّٰہ اسم الجلالہ موصوف الَّذِيْ اسم موصول يُخْرِجُ فعل ہو مستتر فاعل الْخَبْءَ مصدر فی حرف جر السَّمٰوٰتِ وَا الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق يُخْرِجُ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل مَا اسم موصول تُخْفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول تُعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ يُخْرِجُ پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اللّٰہ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور ظرف لغو يَسْجُدُوْا کے

متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر لا یفتنون کا مفعول بہ ہے۔ (مظہری)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

آیت نمبر ۲۶: اللہ مبتدا، لانی جنس الہ اس کا اسم الا حرف استثناء ہو ضمیر مبتدا رب مضاف العرش العظیم مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لای کی خبر مخذوف مؤجود کی ہو ضمیر سے بدل ہے، لای اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ اسم الجلالہ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ یخرج کی تعلیل ہے۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝

آیت نمبر ۲۷: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، سین علامت فعل، نَنْظُرُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، ہمزہ حرف استفہام صَدَقْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عاطفہ کُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم مِنَ الْكٰذِبِينَ جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَنْظُرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

اِذْهَبْ بِكِتٰبِيْ هٰذَا فَالِقَهُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝

آیت نمبر ۲۸: اِذْهَبْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل بقاء حرف جر کِتٰبِيْ مرکب اضافی موصوف ہذا اسم اشدہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فَاَ عطفہ اَلِيْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب منقول بہ، اِلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ تَوَلَّ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل عَنْهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، فَاَ عطفہ اُنظُرْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل مَاذَا کلمہ استفہام مَعْلًا منصوب مفعول بہ مقدم (روح المعانی) يَرْجِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ مَعْلًا منصوب اُنظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثالث، اِذْهَبْ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ مستوف ہو۔ (روح المعانی)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اِنِّيْ اَلْقِيْتُ اِلَيْكُمْ كَرِيْمًا ۝

آیت نمبر ۲۹: قَالَتْ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَا أَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اس کی ترکیب يَا أَيُّهَا النَّبْلِ کی مثل ہے، اور یہ نداء ہے، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَلْقِيْتُ فعل مجهول اِلَى جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے كَرِيْمًا مرکب توصیفی نائب فاعل، فعل مجهول بتائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداءئیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِرِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

آیت نمبر ۳۰: اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم مِنْ سُلَيْمٰنَ جار مجرور ظرف مستقر کَالِيْنِ کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر

جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد لفظ ہو کر مکتوب فیہ کتاب فاعل ہو کر ان کی خبر (تفسیر) ان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف جملہ متاثر ہوں۔

الَّا تَعْلُوا عَلٰی وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ان حرف مصدریہ لَا تَعْلُوا فعل واو ضمیر فاعل عَلٰی جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتُوْا فعل امر واو ضمیر ذوالحال مُسْلِمِيْنَ حال، و ذوالحال باحال فاعل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف ہاویل مصدر کِثْبٌ کَرِيْمٌ کا بدل ہے۔

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿ ۳ ﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُوْنِيْ فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْا ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: قَالَتْ فعل ہیج مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اس کی ترکیب يَا أَيُّهَا التَّمَلُّكُ کی مثل ہے، اور یہ نداء ہے، أَفْتُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ فی حرف جار امری مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے قَالَتْ سے بدل ہے (مظہری) مَا نَانِيْهٌ كُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم قَاطِعَةً اسم فاعل اَنَا مستتر فاعل أَمْرًا مفعول بہ، اسم فاعل بافاعل و مفعول بہ شبہ جملہ خبر، حَتّٰى حرف غایت و جر اور اس کے بعد ان مقدّم ہے، تَشْهَدُوْا فعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہاویل مصدر مجرور، جار مجرور قَاطِعَةً کے متعلق ہوئے، فعل ناقص ہاں خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہوں (تفسیر)

قَالُوْا لَنْحْنُ أَوْ لَوْ أَقْوَةٌ وَاُولُوْا بِأَسْ شَدِيْدِيْنَ وَاَلْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَنْحْنُ ضمیر مبتدا، أَوْ لَوْ أَقْوَةٌ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ أُولُوْا مضاف بآس شَدِيْدِيْنَ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْأَمْرُ مبتدا، إِلَيْكَ جار مجرور ظرف مستقر مَفْقُوْصٌ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہوں۔ فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ، يَا اِنْ عَزَمْتَ عَلٰی أَمْرِيْ، انظُرِيْ فعل امر یاء ضمیر مرفوع متصل فاعل مَاذَا كَلِمَ استفہام مفعول بہ مقدم تَأْمُرِيْنَ فعل یاء ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ محلاً منصوب انظُرِيْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْرَآةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً وَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: قَالَتْ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ آيَاتٌ مِنْ رَبِّي وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيَ لَأَكْفُرَنَّ بِهِ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ۝
 مفعول فیہ مقدم مَحَلُّوا فَعْلًا واؤ ضمیر فاعل قَزِيَّة مفعول فیہ، فعل با فاعل ومفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق الْمُلُوكَ اس کا اسم اذا شرطیہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ جَعَلُوا فَعْلًا واؤ ضمیر فاعل اَعْرَافًا مضاف اهلہا مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ اول، اِذْلَلَةٌ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم وخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو سو واؤ عاطفہ کَذَلِكَ جہد ہا مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخذوف فِعْلًا کے مفعول مطلق مقدم يَفْعَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل ومفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ کلام اولیٰ کی تاکید ہے۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝

آیت نمبر ۳۵: واؤ عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم مُرْسِلَةٌ اسم فاعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل إِلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، بِهَدِيَّةٍ جار مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل با فاعل ومعلقین شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، فَاء عاطفہ نُظِرَةٌ اسم فاعل اَنَا مستتر فاعل بَاء حرف جار مَا استفہامیہ مجرور، جار با مجرور يَرْجِعُ کے متعلق مقدم ہوئے، يَرْجِعُ فعل الْمُرْسَلُونَ فاعل، فعل با فاعل ومعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ محلاً منصوب نُظِرَةٌ کا مفعول بہ، اسم فاعل با فاعل ومفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنَّ با اسم وخبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ الْمُلُوكَ معطوف ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَسْمِدٌ وَنِيبٌ بِمَالٍ فَمَا آتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ؕ بَلْ

أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝

آیت نمبر ۳۶: فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے فَازَ سَلَّتِ الْهَدِيَّةُ، لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل سُلَيْمَنُ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، هَذِهِ حرف استفہام تُبْدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یَاء ضمیر مخذوف مفعول بہ، بِمَالٍ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومعلق ومفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ فَاء تعلیلیہ مَا اسم موصول اُنِّي فعل نون برائے وقایہ، یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ اَللَّهُ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْ حرف جار مَا اسم موصول اُنِّي فعل ہو ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل ومعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔ (روح المعانی) بَلْ حرف عطف برائے اضراب اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ بَاء حرف جار هَدِيَّتِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تَفْرَحُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل ومعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

إِزْجِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ

طَبَعْرُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: اِذْ جَعَلَ فَعْلٌ امْرَأَتٌ مُسْتَرْتَقَةً لِبَيْتِهِمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً انشائية امریہ ہونے کے لیے اور شرط محذوف ہے اِنْ لَمْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ، لام موطئة للقسم اور قسم محذوف ہے تَأْتِيْنَ فَعْلٌ نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بناء حرف جار جُنُودٍ موصوف لَانْفِيْ جِنْسٍ قَبْلِ اس کا اسم لَهْمُ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَرْتَقَاتِيْنَ کے متعلق ہونے، کَاتِيْنَ اس فاعل هُوَ ضمیر فاعل بِهَا جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٍ ثَانِي هُوَ، اسم فاعل با فاعل و متعلقین خبر، لَانْفِيْ جِنْسٍ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جُمْلَةً اسمیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ نَحْنُ تَأْتِيْنَ کے متعلق ہونے، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لام موطئة للقسم اور قسم محذوف ہے نُخْرِجَنَّ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَقَاتٍ هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال اِدْلَةٌ صِيغَةُ صَفْتِ هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر حال اولیٰ، واو حالیہ هُمْ ضمیر منفصل مبتداء طَبَعْرُونَ اس فاعل هُمْ مُسْتَرْتَقَاتٍ، دونوں مل کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ثانیہ، ذوالحال باحالیہ نُخْرِجَنَّ کا مفعول بہ، مِنْهَا جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ هُوَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم محذوف کا جواب جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مَعْلُومٌ جَزَاءٌ، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ مستأنف ہوں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَدُوِّهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَقَةٌ، دونوں مل کر قول، يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا اس کی ترکیب يَا أَيُّهَا التَّنْزِيلِ کی طرح ہے، اور یہ عدا ہے أَيُّكُمْ مرکب اضافی مبتداء، يَأْتِيْ فَعْلٌ هُوَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ، يَأْتِيْ ضمیر منصوب مفعول بہ، بناء حرف جار عَدُوِّهَا مرکب اضافی مجرور، جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، قَبْلَ مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب يَأْتُوْنَ فَعْلٌ واو ضمیر ذوالحال مُسْلِمِيْنَ حال، ذوالحال باحال فاعل نون برائے وقایہ، يَأْتِيْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی يَأْتِيْ کا مفعول فیہ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ ہو کر أَيُّكُمْ کی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ عدا کا جواب، عدا کا جواب جملہ انشائیہ عدا مقلوبہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ اِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ

اٰمِيْنُ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قَالَ فَعْلٌ عِفْرِيْتُ ذَالْحَالِ مِنَ الْجِنِّ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مُسْتَرْتَقَاتِيْنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ قول، اَنَا ضمیر مرفوع منفصل مبتداء، اِنِّي فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَقَاتٍ كَافٍ ضمیر منصوب مفعول بہ یہ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، قَبْلَ مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب تَقُومَ فَعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَقَاتٍ مِنَ حرف جار مَقَامِكَ مرکب اضافی مجرور، جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ پھر مرکب اضافی اِنِّي کا مفعول فیہ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعَلُّقٌ جُمْلَةً فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقلوبہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو حالیہ اِنْ حرف تحقیق يَأْتِيْ ضمیر اس کا اسم

حکیمو جاد باجور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، لاکر مذحلطہ قویٰ آمین مرکب تو صیغی خبر، یا قویٰ خبر اول آمین خبر دوم ہے، ان باس
و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ای کی ضمیر فاعل سے حال ہے (مظہری)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا
رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ طَوْءَ مَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

آیت نمبر ۳۰: قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
جاد باجور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل،
فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، انا ضمیر منفصل مبتدا، ای فعل انا مستقر فاعل کان ضمیر منصوب مفعول بہ، یہ جاد باجور طرف لغو متعلق
ہوئے قبیل طرف زمان مضاف ان حرف مصدری و نصب یزید فعل الیک جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے طر فک مرکب اضافی فاعل،
فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ای کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ
خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فامرؤا سلیتان ان
یاتی بالسریر، لکن شرطیہ مفعول فیہ مقدم رہی فعل ہو مستقر فاعل ضمیر ذوالحال مستقر اسم فاعل ہو ضمیر فاعل عیندہ مرکب اضافی
مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ حال، ذوالحال با حال رہی کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو مستقر
فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہذا اسم اشدہ مبتدا، من حرف جاد فضل مضاف ربی مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی
بجور، جاد باجور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ
شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ متاخر ہوا۔

لاہ حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدم ہے یبئلو فعل ہو مستقر فاعل لون برائے وقایہ یاہ ضمیر منصوب مبدل منہ،
ہذا حرف استفہام اشکو فعل انا مستقر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، امر عاطفہ اشکو فعل انا مستقر فاعل، دونوں مل کر معطوف،
معطوف علیہ با معطوف ملامت منصوب بدل، مبدل منہ بدل یبئلو کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر بجور، جاد
باجور طرف لغو فضل مصدر کے متعلق ہوئے، واو استینافہ من اسم شرط مبتدا، شکو فعل ہو مستقر فاعل، دونوں مل کر شرط، فاء جزائیہ
ان حرف تحقیق کھوف ما کا فی شکو فعل ہو ضمیر مستقر فاعل لاہ حرف جاد نفسہ مرکب اضافی بجور، جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے،
فعل با فاعل و متعلق ہوئے جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ
من اسم شرط مبتدا، کفو فعل ہو ضمیر مستقر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق ربی مرکب اضافی اس
کا اسم غنی کریم دو خبر ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،
معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوا۔

قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَزَّ شَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝

آیت نمبر ۳۱: قَالَ لَعَلَّ لَهَا عَزَّ شَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝
متعلق ہوئے عَزَّ شَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل امر بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔
نَنْظُرُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہمزہ حرف استفہام تَهْتَدِي فعل ہی مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، امر عاطفہ تَكُونُ فعل ناقص ہی مستتر اس کا اسم من حرف جاد الذین اسم موصول لَا يَهْتَدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف محلاً منصوب نَنْظُرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ شرط محذوف اِنْ تَكِرُوا لَهَا عَزَّ شَهَا کی جڑ ہے اسلئے کہ نَنْظُرُ جواب امر ہے، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلَ أَهَكَذَا عَزَّ شَهَا قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

مُسْلِمِينَ ۝

آیت نمبر ۳۲: فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلَ أَهَكَذَا عَزَّ شَهَا قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝
جَاءَتْ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَيْلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہمزہ حرف استفہام ہَا بَرَأْتِ نَسِيبَهُ كَذَّابًا مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَزَّ شَهَا مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے، قَالَتْ فعل ہی ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مِکَانَ حرف مشبہ بالفعل ءَا ضمیر اس کا اسم ہو ضمیر خبر مِکَانَ اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَوْتَيْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل الْعِلْمَ مفعول بہ من حرف جار قَبْلِهَا مرکب اضافی مجرور، جار باجور طرف متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واؤ عاطفہ كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مُسْلِمِينَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر فاعل یا اسم فاعل یا فاعل شہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

آیت نمبر ۳۳: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَصِيرُ ۝
تَعْبُدُ فعل ءَا ضمیر منصوب محذوف ذوالحال، مِنْ دُونِ اللَّهِ جار باجور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہولین حرف تحقیق ہَا ضمیر اس کا اسم کَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم من حرف جار قَوْمٍ موصوف کَافِرِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجور طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ ہَا ضمیر خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ؕ قَالَ إِنَّهُ

صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ إِنَّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِينَ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: قیل فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لہا جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ادخلی فعل امر یا ضمیر فاعل الصرح طرف مکان مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں (روح المعانی) فاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے، قد دخلتہ، لکن شرطیہ مفعول فیہ مقدم آت فعل ہی مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، حسبت فعل ہی ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اول، لجة مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کشفت فعل ہی ضمیر مستتر فاعل عن حرف جار ساقیہا مرکب اضافی مجرور، اور یہ اصل میں ساقین تماجد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف ہا معطوف جملہ مستانف ہوں قال فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم صرح موصوف ممرد اسم مفعول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل من قواریر جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، اسم مفعول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہ صفت خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قالت فعل ہی مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رب یہ اصل میں یا ربی ہے اور یہ ندا ہے، ان حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم ظلمت فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل نفیوں مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اسلمت فعل تاء مضمومہ ذوالحال مع سلیمین مرکب اضافی مصاحبہ کا مفعول فیہ ہو کر حال (حاشیہ جلالین ذوالحال ہا حال فاعل لام حرف جار اللہ اسم الجلالہ موصوف رب العالمین مرکب اضافی صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ندا کا جواب، ندا ہا جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: واو استثنائیہ یا عاطفہ لام موطنہ القسم اور قسم مخدوف ہے قد علامت فعل، ارسلا فعل نا ضمیر فاعل الی ثمود جاد باجر در طرف لغو متعلق اول ہوئے آخاهم مرکب اضافی مبدل منہ، صلیحاً مبدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ، ان حرف مصدری و نصب اعبدوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ بتادل مصدر مجرور، جاد باجر در طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اذا مجاہدیہ مفعول فیہ مقدم، ہم ضمیر مبتدا، فریقان موصوف یختصمون فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر صفت، موصوف ہ صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،

معطوف علیہ بمعطوف جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ... الخ بمعطوف ہے (مظہری) یا جملہ مستانہ ہے
**قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُزَحْمُونَ ۝**

آیت نمبر ۳۶: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہی ہے اور یہ نداء ہے،
 لام حرف جار ما استفہامیہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تَسْتَعْجِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالسَّيِّئَةِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق
 ہوئے قَبْلَ الْحَسَنَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلقین جملہ انشائیہ استفہامیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ
 مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَوْ لَا حرف تخصیص غیر عامل تَسْتَغْفِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل
 و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَعَلَّ حرف ترقی کُم ضمیر اس کا اسم تَزَحْمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ
 فعلیہ خبریہ ہو لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر اِی الرَّحْمِہ کی تادیل میں ہو کر تَسْتَغْفِرُونَ کی ضمیر فاعل سے حال

قَالُوا اِظْهَرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَهَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۝

آیت نمبر ۳۷: قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اِظْهَرْنَا تَا یہ اصل میں تَكْظَرْنَا تَا تھا، اِظْهَرْنَا تَا
 ضمیر فاعل تَا ہ حرف جار کان ضمیر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ تَا ہ حرف جار مَنْ اسم موصول مَعَكَ مرکب اضافی فعل محذوف
 کَبَيْتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ بمعطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق
 جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ... الخ بمعطوف ہے (مظہری) یا جملہ مستانہ ہے
 اضافی مبتدأ عِنْدَ اللَّهِ مرکب اضافی کا کَیْنِ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ... الخ
 برائے اضراب اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ قَوْمٌ موصوف تُفْتَنُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ... الخ بمعطوف ہے (مظہری) یا جملہ مستانہ ہے

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

آیت نمبر ۳۸: واو استثنائیہ كَانَ فعل ناقص فِي الْمَدِينَةِ جار با مجرور ظرف مستقر كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم تِسْعَةُ
 رَهْطٍ مرکب اضافی یا میز با تمیز ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال اسم يُفْسِدُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق
 ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُصْلِحُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ
 بمعطوف کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ... الخ بمعطوف ہے (مظہری) یا جملہ مستانہ ہے

**قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا
 لَصَادِقُونَ ۝**

آیت نمبر ۳۹: قَالُوا نَحْنُ ذَاؤُ ضَمِيرِ فاعِلٌ، وِ دُوْنُوں مَل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، تَقَاسَمُوا فَعْلٌ وَاؤُ ضَمِيرِ فاعِلٌ بِاللهِ جَد بَا جَرُور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مَل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے (منظہری) کلام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے نَبِيْتَيْنَّ فَعْلٌ نَحْنُ ضَمِيرِ مَسْتَرِ فاعِلٌ، ضَمِيرِ مَنْصُوبٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاؤُ عَاطِفٌ اَهْلُكَ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٍ مَفْعُوْلٍ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَفْعُوْلٍ بِهِ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم محذوف با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ لَامٍ مَوْطِنَةٍ الْقِسْمِ اَوْرِ قِسْمٍ مَحْذُوْفٍ هُوَ تَقْوِيْلُنَّ فَعْلٌ مَسْتَرِ فاعِلٌ، لَامٍ حَرْفٍ جَارٍ وِلْيَتِهِ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي جَرُور، جَد بَا جَرُور طرف لغو متعلق ہوئے، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَتَعْلُقٌ جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا تَا فَيَ شَهَدْنَا فَعْلٌ تَا ضَمِيرِ فاعِلٌ مَهْلِكٌ مَضْفٍ اَهْلِهِ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي مَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِا مَضْفٍ اِلَيْهِ مَفْعُوْلٍ فِيهِ اِس لَعْنَةُ كِه مَهْلِكٌ حَرْفِ مَكَانٍ هُوَ يَا حَرْفِ زَمَانٍ هُوَ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَفْعُوْلٍ فِيهِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاؤُ عَاطِفٌ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ تَا ضَمِيرِ اِس کَلَامٍ لَامٍ مَذْحِقَةٌ صَادِقُوْنَ اِسْمِ فاعِلٌ نَحْنُ ضَمِيرِ مَسْتَرِ فاعِلٌ، وِ دُوْنُوں مَل کر خبر، اِنْ اِسْمٌ وِ خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف (روح المعانی) معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ (روح المعانی) يَا بِتَقْدِيْرٍ قَدْ يَفْسِدُوْنَ كِي ضَمِيرِ فاعِلٌ سے حال ہے (منظہری)

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَ مَكْرْنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑤

آیت نمبر ۵۰: وَاؤُ اسْتِيْنَا فَيَ عَاطِفٌ مَكْرًا مَفْعُوْلٌ مَطْلُقٌ، تینوں مَل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاؤُ عَاطِفٌ مَكْرًا فاعِلٌ تَا ضَمِيرِ زُوْا لِحَالٍ وَاؤُ حَالِيَهُ هُمْ ضَمِيرِ مَبْتَدَا، لَا يَشْعُرُوْنَ فَعْلٌ وَاؤُ ضَمِيرِ فاعِلٌ، وِ دُوْنُوں مَل کر خبر، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ حال، زُوْا لِحَالٍ بِا حَالٌ مَكْرًا كَا فاعِلٌ مَكْرًا مَفْعُوْلٌ مَطْلُقٌ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَفْعُوْلٌ مَطْلُقٌ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِرِ مَعْطُوفٌ هُوَ يَا جملہ متانفہ ہے۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۗ اِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ⑥

آیت نمبر ۵۱: فَاؤُ نَصْبٍ اَوْرِ شَرْطٍ مَحْذُوْفٍ هُوَ اِذَا مَكْرًا وَا مَكْرًا، اَنْظُرْ فَعْلٌ اِمْرَاٰتٌ ضَمِيرِ مَسْتَرِ فاعِلٌ كَيْفَ حَرْفِ زَمَانٍ كَاثِنَةٌ كَا مَفْعُوْلٍ فِيهِ هُوَ كَرِخْرٍ مَقْدَمٌ، كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي اِسْمٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِا سْمٌ وِ خَبْرٌ جملہ انشائیہ استقبالیہ ہو کر محلاً منصوب اَنْظُرْ كَا مَفْعُوْلٍ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَفْعُوْلٍ بِهِ جملہ انشائیہ جزاء، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ جملہ شرطیہ ہوا اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ تَا ضَمِيرِ اِس کَلَامٍ دَمَرْنَا فاعِلٌ تَا ضَمِيرِ فاعِلٌ هُمْ ضَمِيرِ مَنْصُوبٍ مَفْعُوْلٍ بِهِ، وَاؤُ بِمَعْنَى مَعَ "قَوْمَهُمْ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي مُوَكَّدٌ اَجْمَعِيْنَ تَاكِيْدٌ، مُوَكَّدٌ بِا تَاكِيْدٌ مَفْعُوْلٍ مَعَهُ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَفْعُوْلِيْنَ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ اِسْمٌ وِ خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ سے بدل ہے یا هُوَ ضَمِيرِ مَحْذُوْفٍ كِي خَبْرٌ هُوَ۔ (روح المعانی)

فَتِلْكَ بَيُوْتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا طِرَانَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ⑦

آیت نمبر ۵۲: فَاؤُ اسْتِيْنَا فَيَ تِلْكَ اِسْمٌ اَشْدَدٌ مَبْتَدَا، بَيُوْتُهُمْ مَرْكِبِ اِضْاٰنِي زُوْا لِحَالٍ خَاوِيَةٌ اِسْمٌ فاعِلٌ هُوَ مَسْتَرِ فاعِلٌ بِاؤُ حَرْفِ جَارٍ مَا مَصْدَرِيَهُ تَلْكُمَا فَعْلٌ وَاؤُ ضَمِيرِ فاعِلٌ سے مَل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جَد بَا جَرُور طرف لغو متعلق ہوئے، اِسْمٌ فاعِلٌ بِا فاعِلٌ وِ مَتَعْلُقٌ شَبِيْهُ جملہ ہو کر حال، زُوْا لِحَالٍ بِا حَالٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ فِيْ ذٰلِكَ جَد بَا جَرُور طرف مستتر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لَامٍ مَذْحِقَةٌ اَيَةٌ مَوْصُوْفٌ لَامٍ حَرْفِ جَارٍ قَوْمٍ مَوْصُوْفٌ يَعْلَمُوْنَ فَعْلٌ وَاؤُ ضَمِيرِ فاعِلٌ، وِ دُوْنُوں مَل کر جملہ فعلیہ خبریہ

صفت، موصوف ہفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر اسم مؤخر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝۵۳

آیت نمبر ۵۳: واؤ عاطفہ اَنْجَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل الَّذِيْنَ اسم موصول اَمَنُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ كَانُوْا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم يَتَّقُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہا سلسلہ اَنْجَيْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مکتوبہ و ہا معطوف ہے۔

وَلَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝۵۴

آیت نمبر ۵۴: واؤ عاطفہ لَوْ كَا مفعول بہ ہے فعل محذوف اَرْسَلْنَا كَا، اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِذْ ظرف زمان مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لام حرف جار قَوْمِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام اَتَاْتُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل الْفَاحِشَةَ ذوالحال، واؤ حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تُبْصِرُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب محذوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال اَتَاْتُوْنَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَرْسَلْنَا کا مفعول فیہ، اَرْسَلْنَا فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ اَرْسَلْنَا اِلیْ لَوْ كَا ہا معطوف ہے۔

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝۵۵

آیت نمبر ۵۵: ہمزہ حرف استفہام اِنَّ حرف تحقیق اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم لام نہ حلقہ اَتَاْتُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ جار با مجرور متعلق ہوئے شَهْوَةً مفعول لہ (روح المعانی) الرِّجَالَ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں بل حرف عطف اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، قَوْمٌ موصوف تَجْهَلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اٰخْرِجُوْا اِلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ؕ اِنَّهُمْ اِنَاسٌ

يَتَّبَعُوْنَ ۝۵۶

آیت نمبر ۵۶: فَا ہا تہجیہ مانائیہ کان فعل ناقص جَوَابَ قَوْمِهِ مرکب اضافی خبر مقدم اِلَّا حرف استثناء قَالُوْا فعل با واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اٰخْرِجُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اِلَ لُوْطٍ مفعول بہ، مِّنْ حرف جار قَرْيَتِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر مستثنیٰ مفرغ ہو کر کان کا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اِنَّهُمْ ضمیر اس کا اسم اِنَاسٌ موصوف يَتَّبَعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں (مظہری)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: فاء نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا قَالُوا اٰخِرُ حُجُوْبِنَا فَعَلْنَا ضَمِيْرًا قَاعِلًا ضَمِيْرًا مَنصُوْبًا مَفْعُوْلًا بِهٖ مَوَاضِعًا بِمَعْنٰی مَعَ اَهْلِهِ مَرْكَبًا اِضَافِيًّا مَشْتَقِيًّا مِنْهُ، اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ اِمْرَاَةٌ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَشْتَقِيٌّ، مَشْتَقِيٌّ مِنْهُ بِاِسْتِشْنَاءِ مَفْعُوْلٍ مَعَهُ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ قَدَّرْنَا فَعَلٌ نَا ضَمِيْرًا قَاعِلًا هَا ضَمِيْرًا مَنصُوْبًا مَفْعُوْلًا بِهٖ، مِنَ الْغَابِرِيْنَ جَدًّا بِاِجْرٍ وَرَظْفٍ لِفَوْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلُوبَةٌ (فَقِيْرٌ)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ اس کی ترکیب سُورَةُ الشُّعَرَاءِ کے رکوع نمبر ۹

میں گزر چکی ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۹ ﴾

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: قُلِ فَعَلٌ اِمْرَاَةٌ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مَدُوْلُوْنَ لَمْ كَرَجَلَةٌ اِنشَاءً بِهٖ اَمْرِيَّةٌ قَوْلِ، الْحَمْدُ مَرْفُوعٌ لِقَوْلِهَا مَبْتَدَاً لِلَّهِ جَدًّا بِاِجْرٍ وَرَظْفٍ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَيْفَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ جَمَلَةٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مَبْتَدَاً بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَاءٌ عَاطِفَةٌ سَلَمٌ مَبْتَدَاً اِسْمٌ لَكَيْلَ كَيْفَ سَلَامٌ عَظِيْمٌ كَيْفَ اِتَادِيْلٍ مِيْنٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مُخَصَّرٌ هُوَ (فَقِيْرٌ) عَلٰی حَرْفٍ جَدًّا بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اِلَى الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اِصْطَفَىٰ فَعَلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ هُمُ ضَمِيْرًا مَنصُوْبًا مَخْدُوْفٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مَبْتَدَاً بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْتِثْنَاءِ مَقْوْلٍ، قَوْلِهَا مَقْوْلٌ جَمَلَةٌ اِنشَاءً بِهٖ اَمْرِيَّةٌ هُوَ هَمْزٌ حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ اِسْمٌ اِلْجَلَالِ مَبْتَدَاً خَيْرٌ اِسْمٌ تَفْضِيْلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اِسْمٌ تَفْضِيْلٌ بِاِقَاعِلٍ شَبَهٌ جَمَلَةٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مَبْتَدَاً بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اِنشَاءً بِهٖ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، اَمْرٌ عَاطِفَةٌ مَّا اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ يُشْرِكُونَ فَعَلٌ وَادْوَاءٌ ضَمِيْرًا قَاعِلًا ضَمِيْرًا مَنصُوْبًا مَخْدُوْفٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلَةٍ مَبْتَدَاً خَبْرٌ مَخْدُوْفٌ هُوَ خَيْرٌ، مَبْتَدَاً بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اِنشَاءً بِهٖ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْتِثْنَاءِ مَقْوْلٍ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْتِثْنَاءِ جَمَلَةٍ مَسْتَقَرٌّ هُوَ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا حَذَائِقَ

ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَبْلَغَ لَكُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: اَمْرٌ مَطْلُوبٌ مِّنْ مَوْصُوْلَةٍ خَلَقَ فَعَلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اَلْاَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْمِ مَفْعُوْلٍ بِهٖ سَلَمٌ كَرَجَلَةٍ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَاءٌ عَاطِفَةٌ اَنْزَلَ فَعَلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مِنَ السَّمَاءِ جَدًّا بِاِجْرٍ وَرَظْفٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مَقْدَمٌ مَّاءٌ ذَوَالِحَالٍ مَوْخَرٌ وَذَوَالِحَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ اِذْ لَقَاءَ عَاطِفَةً اَنْبَتْنَا فَعَلٌ نَا ضَمِيْرًا قَاعِلٌ بِهٖ جَدًّا بِاِجْرٍ وَرَظْفٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ حَذَائِقَ مَوْصُوْلٌ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ صِفَتٌ، مَوْصُوْلٌ بِصِفَتِ مَفْعُوْلٍ بِهٖ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْمِ مَفْعُوْلِيْنَ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلَةٍ مَبْتَدَاً، اَمْرٌ خَبْرٌ مَخْدُوْفٌ هُوَ خَيْرٌ، مَبْتَدَاً بِاِجْرٍ جَمَلَةٌ

اسیہ انشائیہ معطوف علیہ، امر عاطفہ مَا یُشْرِکُونَ موصول باصلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَیْرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا مَا نَافِیہ کَانَ ناقصہ لَکُمْ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَنْ نَّهْبَهُ تُنْبِتُوْا لَعْلَ وَادٍ ضمیر فاعل شَجَرَ کھارکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتادیل مصدر اسم مؤخر، کَانَ با اسم و خبر کَانَ اَیْقَ کی صفت ثانیہ یا حال ہے، ہَمْزُہ استغفہامیہ اللہ مبتدأ، مَعَ اللہ مرکب اضافی کا تین کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استغفہامیہ ہوا بَلْ حرف اضراب هُمْ ضمیر مبتدأ، قَوْمٌ موصوف یُعْلَمُونَ لَعْلَ با واد ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَاءَ النَّهْرِ أَوْ جَعَلَ لَهَا رِوَاسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا دَعَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١

آیت نمبر ۶۱: امر منقطع مَن اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل الْأَرْضِ مفعول بہ اَوَّل، قَرَارًا مفعول بہ مثنی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل خِلْفَاءَ لَهَا مرکب اضافی مفعول فیہ، اَلنَّهْرُ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اَوَّل، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَهَا متعلق رِوَاسِيَّ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مثنی، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ حَاجِزًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہائیک، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَیْرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، امر عاطفہ مَا یُشْرِکُونَ موصول باصلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَیْرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا بَلْ برائے اضراب أَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، لَا یُعْلَمُونَ فعل واد ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ دَعَا إِلَهُ
مَعَ اللَّهِ طَقِيلًا مَا تَدَّكُرُونَ ٦٢

آیت نمبر ۶۲: امر منقطع مَن اسم موصول يُجِيبُ فعل ہو مستتر فاعل الْمُضْطَرَّ مفعول بہ اِذَا مضاف دَعَا فعل ہو مستتر فاعل دَعَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی يُجِيبُ کا مفعول فیہ، سب مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یُكْشِفُ فعل ہو مستتر فاعل السُّوءَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ یُجْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّل، خُلَفَاءَ الْأَرْضِ مرکب اضافی مفعول بہ مثنی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مثنی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے کَمَنْ لَا یُجِيبُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ہَمْزُہ استغفہامیہ اللہ مبتدأ، مَعَ اللہ کا تین کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استغفہامیہ ہوا طَقِيلًا بواسطہ موصوف محذوف کَذَّکُرُوا کے مفعول مطلق مقدم، مَا تَدَّكُرُونَ فعل واد ضمیر فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزِيلُ الرِّيحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط

عَرَاةٌ مَعَ اللّٰهِ تَعْلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

آیت نمبر ۶۳: امر منقطع من اسم موصول یقیدئی فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ یعنی جادہ طلکات مضاف الیکبر والیبخر معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من موصول یزید سئل فعل ہو مستتر فاعل الذریح وذوالحال یبشر بمعنی مبینہات اسم فاعل ہی مستتر فاعل بین یدئی رخصتہ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول ہاصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے کمن لا یقیدئی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوئے عرأۃ مع اللہاس کی ترکیب ابھی گزری ہے تعالیٰ فعل اللہ فاعل عن جادہ مآیشر کون موصول ہاصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مسافر ہوئے۔

اَمَّنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهَا وَ مَن یَّزْرِقُکُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَرٰاۃٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَآئِذَا بُرْهَآنُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿٦٤﴾

آیت نمبر ۶۴: امر منقطع من اسم موصول یبندوا فعل ہو مستتر فاعل الخلق مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثم عاطفہ یعید فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول یزرق فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ من جادہ السماء والارض معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ با مجرور یزرق کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے کمن لا یبندوا... الخ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوئے عرأۃ مع اللہاس کی ترکیب گزر چکی ہے۔ قُل فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، ہا کوا اسم فعل بمعنی امر واو ضمیر فاعل بُرہانکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ دال برجزاہ ان شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم صا دقین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، شرط دال برجزاہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوئے۔

قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنۢ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ اٰیٰتَانَ یُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

آیت نمبر ۶۵: قُل فعل امر آت مستتر فاعل قول، لا یعلم فعل من موصول فی جادہ السموات والارض معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ با مجرور فعل محذوف یبنت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ ناعل الغیب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوئے، اللاحرف استثناء بمعنی لیکن "اللہ مبتدا، اور اس کی خبر محذوف ہے یعلم اور یہ مستثنیٰ منقطع ہے، واو عاطفہ مآنا فی یشعرون فعل واو ضمیر فاعل آیتان استفہامیہ محلا منصوب مفعول فیہ مقدم یبعثون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ محلا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، معطوف ہوئے۔

بَلِ اَدْرِکَ عَلْمُهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ مِّنْهَا ؕ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

آیت نمبر ۶۶: بَلْ بَرَأَ الصَّرْبَ إِذْ رَكَ فَعَلْ عَلَيْهِمْ مَرْكَبٌ اِضْطَانِي فَاعِلٌ فِي الْاِخْرَجَةِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعَلِيهِ
خبر یہ ہوا۔ بَلْ عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا، فی جارہ شکّ موصوفہ مِنْهَا اطرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مجرور،
جارہ مجرور کائِنُون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بَلْ عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا، مِنْهَا جارہ مجرور متعلق مقدم عَمُونَ کے،
عَمُونَ با متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

﴿ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۶ ﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَادًا كُنَّا ثَرِيًّا وَاَبَاؤُنَا اَيْتًا لَمْ خَرَجُونَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: وَاوَايْتِنَانِيه قَالَ فَعَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ فَاعِلٌ، فَعَلْ بِاِقَاعِلِ قَوْلٍ، هَمْزٌ لَا اسْتِفْهَامِيَةً اِذَا مِضَّافٌ كُنَّا
فَعَلٌ بِاسْمِ نَا ضَمِيرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَايْتِنَانِيه اِضْطَانِي مَرْكَبٌ اِضْطَانِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ كُنَّا كَا اسْمٌ تَرْجَمًا بِاِخْرَجَةٍ، فَعَلٌ نَا قِصْبٌ بِاسْمِ
بِحَرْبِ يَمَلُهُ فَعَلِيهِ خَبْرِيهِ مِضَّافٌ اِلَيْهِ، مِضَّافٌ بِمِضَّافٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ اِلْفِعْلُ مَعْدُوفٌ لِنُخْرَجُ كَا، لِنُخْرَجُ فَعْلٌ مَجْهُولٌ نَحْنُ مُسْتَرْجَبٌ
فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ سَلْ كَرَجَلَهُ، قَوْلٌ بِمَقْوَلِهِ جَمَلُهُ فَعَلِيهِ خَبْرِيهِ هُوَ (مَظْهَرِي) هَمْزٌ لَا اسْتِفْهَامِيَةً اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ نَا ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اسْمِ
لَا مَرْذَلَةٌ مَخْرَجٌ جُونِ اِسْمٌ مَفْعُولٌ بِالنَّحْنُ مُسْتَرْجَبٌ فَاعِلٌ شَبِيهُ جَمَلُهُ هُوَ كَرَجَلَهُ، اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرٌ جَمَلُهُ اِنْشَائِيَةً اسْتِفْهَامِيَةً هُوَ۔

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَاَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنَّ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: لَامٌ مَوْطَلَةٌ لِّلْقِسْمِ قَدْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ وَعِدْنَا فَعْلٌ مَجْهُولٌ نَا ضَمِيرٌ مَوْكَلٌ لِنَحْنُ تَاكِيْدٌ، مَوْكَلٌ بِتَاكِيْدِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاوَا
عَاطِفُهُ اَبَاؤُنَا مَرْكَبٌ اِضْطَانِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَابِ فَاعِلٌ هَذَا اِعْلًا مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ قَبْلُ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ،
فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَابِ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَوَابٌ قِسْمٌ، قِسْمٌ بِجَوَابٍ قِسْمٌ جَمَلُهُ اِنْشَائِيَةً قِسْمِيَةً هُوَ۔ اِنْ نَانِيهِ هَذَا مَبْتَدَا، اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ
اِسْطِطِيءُ الْاَوَّلِينَ مَرْكَبٌ اِضْطَانِي خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمَلُهُ اِسْمِيَةً خَبْرِيَةً مُسْتَفْهَمَةً هُوَ۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاةٌ مُسْتَرْجَبَةٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلَهُ، سِيرُوا فَعْلٌ دَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَهُ
اِنْشَائِيَةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، قَامَ عَاطِفُهُ اَنْظُرُوا فَعْلٌ دَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَيْفَ كَا اِنَّا كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَجَلَهُ مَقْدَمٌ بِسَلْ كَرَجَلَهُ، عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
مَرْكَبٌ اِضْطَانِي اِسْمٌ مَوْخَرٌ، كَانَ بِاسْمِ وَخَبْرٌ جَمَلُهُ اسْتِفْهَامِيَةً اِعْلًا مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ
مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِمَقْوَلِهِ جَمَلُهُ اِنْشَائِيَةً هُوَ۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: وَاوَا عَاطِفُهُ لَا تَحْزَنْ فَعْلٌ نَمِي اَنْتَ مُسْتَرْجَبَةٌ فَاعِلٌ عَلَيْهِمْ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَهُ اِنْشَائِيَةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَا عَاطِفُهُ
لَا تَكُنْ فَعْلٌ نَا قِصْبٌ اَنْتَ مُسْتَرْجَبَةٌ فِي جَارِهِ ضَيْقٍ مَوْصُولٌ مِنْ جَارِهِ هَا اَيْنَمْكُرُونَ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَائِنِينَ کے متعلق ہو کر
صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جارہ مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر لَا تَكُنْ کی خبر، فَعْلٌ نَا قِصْبٌ بِاسْمِ وَخَبْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ
قُلْ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: واؤ استینائیہ یَقُولُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، متقی استفہامیہ کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہذا الْوَعْدُ موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ وال بر جزاء، ان شرطیہ کُنتُمْ صَادِقِينَ فعل ناقص با اسم و خبر شرط، شرط وال بر جزاء سے مل کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۲﴾

آیت نمبر ۴۲: قُلْ فعل امر بآلت مستتر فاعل قول، عَسَىٰ فعل تام ان ناصب یَكُونَ فعل ناقص ہو ضمیر شان مستتر اس کا اسم رَدِفَ فعل لکم جدا بجزر متعلق ہوئے، بَعْضُ مضاف الَّذِي اسم موصول تَسْتَعْجِلُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ رَدِفَ کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یَكُونَ کی خبر، یَكُونَ با اسم و خبر بتاویل مصدر عَسَىٰ کا فاعل، عَسَىٰ با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾

آیت نمبر ۴۳: واؤ استینائیہ ان حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم لامرذہ حلقہ ذُو مضاف فَضْلٍ موصوف علی جادہ النَّاسِ ذوالحال واؤ عالیہ لَکِنَّ حرف استدراک أَكْثَرَهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم لَیْشْكُرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لَکِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جدا بجزر کائین کے متعلق ہو کر صفت، اور علی النَّاسِ کو فَضْلٍ کے متعلق بتاویل جائز ہے، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: واؤ عاطفہ ان حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی ان کا اسم لامرذہ حلقہ یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل ما اسم موصول تُکِنُّ فعل صُدُورُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما اسم موصول یُعْلِنُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: واؤ عاطفہ ما ثانیہ من جادہ زائدہ غَائِبَةٍ موصوف فی جادہ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا بجزر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مرفوع ملاً مبتدا، الأَرْضِ استثنائی جادہ کِتَابٍ مُّبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جدا بجزر کائین کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْقُضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۶: ان حرف تحقیق هَذَا الْقُرْآنَ موصوف ہفت ان کا اسم یَنْقُضُ فعل ہو مستتر فاعل علی جادہ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مرکب اضافی مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے تاکثر مضاف الذی اسم موصول ہمد ضمیر مبتدا، یخْتَلِفُونَ فعل واو ضمیر قائل فیہ متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول ہاملہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَقْضُ کامفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ اِنَّهٗ لَهْدٰی وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: واو عاطفہ ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لامر مذ حلقہ ہدی مرفوع تقدیر معطوف علیہ، واو عاطفہ رحمة موصوفہ للمؤمنین کا کثرت کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿۷۱﴾

آیت نمبر ۷۱: ان حرف تحقیق ربك مرکب اضافی ان کا اسم، يَقْضِيْ فعل ہو مستتر قائل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، بِحُكْمِهٖ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ یا حالہ ہو ضمیر مبتدا، الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ یا حالہ ہوں۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿۷۲﴾

آیت نمبر ۷۲: فاء نصیر اور اس کی شرط مخذوف ہے ان عرفت هذِهِ الصِّفَاتِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَ اَمْنَتْ بِتَوَكَّلْ فعل امر انت مستتر قائل عَلَى اللّٰهِ متعلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ، ہوں ان حرف تحقیق کاف ضمیر اسم علی جملہ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ مرکب توصیفی مجرور، جملہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی وَ لَا تَسْمَعُ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَاوَا مُدْبِرِيْنَ ﴿۷۳﴾

آیت نمبر ۷۳: ان حرف تحقیق کاف ضمیر اسم لَا تَسْمَعُ فعل انت مستتر قائل الْمَوْتٰی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَسْمَعُ فعل انت مستتر قائل الدُّعَاۗءَ مفعول بہ اول الدُّعَاۗءَ مفعول بہ ثانی، اِذَا مضاف وَاوَا فعل واو ضمیر ذوالحال مُدْبِرِيْنَ حال مذوال حال با حال قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ لَا تَسْمَعُ کامفعول فیہ، فعل با قائل و مقاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیل ثانی ہے۔

وَ مَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعٰی عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنَّ تَسْمَعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۷۴﴾

آیت نمبر ۷۴: واو عاطفہ ما مجازیہ انت ضمیر اس کا اسم بآء زائد ہادی اسم فاعل مضاف الْعٰی مضاف الیہ معنی مفعول بہ، عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ جملہ با مجرور متعلق، اسم فاعل مضاف با مضاف الیہ و متعلق علا منصوب خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں ان نایہ تَسْمَعُ فعل انت مستتر قائل اِلَّا حرف استثناء من اسم موصول يُؤْمِنُ فعل ہو مستتر قائل بِآيٰتِنَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاملہ تَسْمَعُ کامفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہوں فاء نصیر اور اس کی شرط مخذوف ہے اِذَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِنَا،

ہُمْ ضمیر مبتدأ، مُسْلِمُونَ خبر، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ یہ جملہ اولیٰ کی تعلیل ہے

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: واوستینانیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم وقع فعل القول فاعل علیہم متعلق، سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط،
اخرجنا فعل فاعل لہم جار مجرور متعلق ہوئے دابة موصوف من الارض جار مجرور متعلق ہوئے تکلم فعل ہیج مستتر فاعل
ہم ضمیر مفعول بہ ان حرف تحقیق الناس اس کا اسم کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اسم لا یوقنون فعل واو ضمیر فاعل باایاتنا متعلق سے
مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاول مفرد منصوب بزعم الخافض دراصل بیان ہے جار مجرور تکلم کے متعلق ہوئے،
فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ دابة کی صفت، موصوف بہمت اخراجنا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق
جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

● رکوع نمبر ۷ ●

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: واوستینانیہ یوم مضاف نحشرو فعل نحن مستتر فاعل من کل امة جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم
فوجا موصوف من حرف جر من اسم موصول یكذب فعل هو مستتر فاعل باایاتنا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ
مجرور، جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہمت ذوالحال مؤخر بذوالحال باحال نحشرو کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق
و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کذا، فاء عاطفہ ہم ضمیر مبتدأ، یوزعون فعل
مجهول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ إِذْ كَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَكُنْتَ تُجِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: حتیٰ بابتدائیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جاء و الفاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قال
فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ استفہامیہ کذبتم فعل ثم ضمیر فاعل بآء جار ما یاتی مرکب اضافی ذوالحال واو حال لہ کم
تجیطوا فعل واو ضمیر فاعل بہا متعلق علمًا تیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال بذوالحال باحال مجرور، جار مجرور کذبتم کے متعلق
ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ امر متقطع ما اذا اسم استفہام مطلق
منصوب تَعْمَلُونَ کا مفعول بہ مقدم کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر،
فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مستانفہ ہوں

وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: واوستینانیہ وقع فعل القول فاعل علیہم جار مجرور متعلق اول، بآء جار ما مصدریہ فکلموا فعل باواو ضمیر

فَاعِلٌ بِتَاوِيلٍ مُصَدَّرٍ بِمَجْرُورٍ جَارٍ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَائِي هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاوُ عَاطِفُهُ هُمُ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ لَا يُنْطِقُونَ فَعَلٌ بِاَوَاؤِ خَبْرٍ مُبْتَدَأٍ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةً مُسْتَنْفَذَةٌ هِيَ

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: ہمزہ استفہامیہ لَمْ یَرَوْا فَعَلٌ وَاوَاؤِ خَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ تَحْقِيقٌ تَاوِيلٌ اس کا اسم جَعَلْنَا فَعَلٌ تَاوِيلٌ خَبْرٌ جُمْلَةٍ اس کے مفعول بہ اَوَّلٌ اور مفعول بہ مَائِي مَحْذُوفٌ ہے مُظَلِّمًا پھر یہ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ عَاطِفُهُ النَّهَارُ مُبْصِرًا اَدْوَانِیُّں پَر مَعْطُوفٌ ہیں، لَآءِ جَارٌ اس کے بعد اَن مُقَدَّرٌ ہے یَسْكُنُوا فَعَلٌ وَاوَاؤِ خَبْرٍ جُمْلَةٍ اس کے متعلق سے اَل کر تَاوِيلٍ مُصَدَّرٍ بِمَجْرُورٍ جَارٍ بِمَجْرُورٍ جُمْلَةٍ اس کے متعلق ہونے، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَن ہَا اس و خبر جملہ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ لَمْ یَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہولِ اَن حرف تَحْقِيقٌ فِي ذَلِكَ كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لَآءِ تَاكِيْدِيَّةٌ اَلِیْتِ موصوف لَآءِ جَارٌ مَوْصُوفٌ موصوف فَعَلٌ وَاوَاؤِ خَبْرٍ جُمْلَةٍ اس کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت اس مَوْصُوفٍ، اَن ہَا اس و خبر جملہ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ ہوں

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ طَوَّ
كُلَّ آتَوَةٍ ذُخْرَيْنَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: وَاوَاؤِ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ يَوْمَ مضافٌ يُنْفَخُ فَعَلٌ مَجْهُولٌ مُشْتَرِكٌ فَاعِلٌ فِي الصُّورِ مُتَعَلِّقٌ سَلْمٌ كَر جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاوُ عَاطِفُهُ فَفَزِعَ فَعَلٌ مَنْ موصولٌ فِي السَّمَوَاتِ طَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ فَعَلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ عَاطِفُهُ مَنْ اس موصولٌ فِي الْأَرْضِ طَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَعْطُوفٌ مَسْتَشِيٌّ مِنْهُ، اَلَا حرف اسْتِنَاءٌ مَنْ اس موصولٌ شَاءَ فَعَلٌ اللَّهُ فَاعِلٌ سَلْمٌ كَر جملہ فعلیہ خبریہ مُسْتَشِيٌّ، دُوْنوں مَلْ كَرَفِعَ كَا فَاعِلٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ يَوْمَ كَا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ فَعَلٌ مَحْذُوفٌ اَدْوَانِیُّں كَا مفعول فیہ ہے۔ وَاوُ حَالِیہ كَلَّ مُبْتَدَأٌ اَلْوَا فَعَلٌ وَاوَاؤِ خَبْرٍ جُمْلَةٍ اس موصولٌ هُمْ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَلْمٌ كَر جملہ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ سے حال ہوں

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ طِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ
شَيْءٍ ط إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: وَاوُ عَاطِفُهُ تَرَى فَعَلٌ أَتَتْ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ الْجِبَالُ ذُو الْحَالِ تَحْسَبُ فَعَلٌ أَتَتْ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ هَا خَبْرٌ جُمْلَةٍ اس کے متعلق ہے وَاوُ حَالِیہ هِيَ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ تَمُرُّ فَعَلٌ هِيَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مَرَّ السَّحَابِ مَرْكَبٌ اَضَافِيٌّ مفعول مطلق، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مفعول مطلق جملہ فعلیہ حال، ذُو الْحَالِ بِاَعْمَالِ تَحْسَبُ كَا مفعول بہ اَوَّلٌ، جَامِدَةٌ مفعول بہ مَائِي، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذُو الْحَالِ بِاَعْمَالِ تَرَى كَا مفعول بہ، فَعَلٌ

باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے **يَوْمَ يُنْفَخُ** پر **يَا يَوْمَ نَحْشُرُ** پر **صُنِعَ مِثْلُ اللَّهِ** موصوف الذی اسم موصول **الَّذِي** اسم موصول **أَنْتَقَنَ** فعل ہو مستتر فاعل **كُلُّ شَيْءٍ** مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مفعول مطلق ہوا فعل **صُنِعَ اللَّهُ** کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا **لِأَنَّ** حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم **خَيْرٌ** صیغہ صفت ہو مستتر فاعل **بَاءَ جَارِهِ** **مَا تَفْعَلُونَ** موصول باصلہ مجرد، جادہ مجرد و متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر **لِأَنَّ** کی خبر **لِأَنَّ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ ہوں

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِمَّنْ فَرِحَ يَوْمَئِذٍ أَمِنُونَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: مَنْ شرطیہ مبتدأ، جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالْحَسَنَةِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لہ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم **خَيْرٌ** اسم تفضیل **مِنْهَا** جادہ مجرد و متعلق، اسم تفضیل با ہو مستتر فاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **هُمْ** ضمیر مبتدأ، **مِنْ جَارِهِ** موصول **يَوْمَئِذٍ** کائین کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرد، جادہ مجرد و متعلق مقدم **أَمِنُونَ** اسم فاعل **هُمْ** مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق ہوں

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَهْلُ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: واو عاطفہ مَنْ شرطیہ مبتدأ، جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالسَّيِّئَةِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ کُبَّتْ فعل مجہول **وَجُوهُهُمْ** مرکب اضافی نائب فاعل فی النَّارِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ **هُمْ** مبتدأ مخذوف کی خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں **هَلْ** حرف استفہام **تُجْزُونَ** فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل **إِلَّا** حرف استثناء ما اسم موصول **كُنْتُمْ** فعل ناقص ضمیر اس کا اسم **تَعْمَلُونَ** فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ ہوا قول مخذوف **يَقُولُ لَهُمْ** **خَزَنَةٌ** جہنم کا۔ (منظری) قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ **وَجُوهُهُمْ** کی **هُمْ** ضمیر سے حال ہوں

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَ أَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۱، ۹۲: **إِنَّ** حرف تحقیق ما کا **أُمِرْتُ** فعل مجہول تاکہ مضمومہ ضمیر نائب فاعل **أَنْ** تا صبر **أَعْبُدَ** فعل آکا مستتر فاعل **رَبِّ** مضاف **هَذِهِ الْبَلَدَةِ** موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ موصوف **الَّذِي** اسم موصول **حَرَّمَ** فعل ہو مستتر **وَالْحَالِ** واو حالیہ لہ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، **كُلُّ شَيْءٍ** مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال **حَرَّمَ** کا فاعل **هَذَا** ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ **رَبِّ** کی صفت، موصوف باصفت **أَعْبُدَ** کا مفعول بہ، فعل

باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ منصوب بزعم الخافض اصل میں پان ہے جار باجر و اُھڑت کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُھڑت فعل مجہول تاء مضمومہ نائب فاعل ان ناسب اکون فعل ناقص انا مستتر اس کا اسم من المسلمین ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان ناسب اکلو فعل انا مستتر فاعل القرآن مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف منصوب بزعم الخافض اُھڑت کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

فاء استینافیہ من شرطیہ مبتدأ اھتدی فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق ما کافہ یقتدی فعل ہو مستتر فاعل لنفسیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من شرطیہ مبتدأ ضلّ فعل باهو مستتر فاعل شرط، فاء جزائیہ قلّ فعل امر بالآت مستتر فاعل قول، ان حرف تحقیق ما کافہ انا ضمیر مبتدأ، من المنظرین جار باجر و کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيَّرِيكُمْ اَيْتِه فَتَعْرِفُونَهَا ط وَاَلَّتْ فَا لِكَبَّرِكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واو عاطفہ قلّ فعل امر بالآت فاعل قول، الحمد مبتدأ، لله کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہولسیدین علامت فعل یبری فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ اول آیاتہ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تعرّفون فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں واو استینافیہ ما جازید ربک مرکب اضافی ما کا اسم تاء زائدہ غافل اسم فاعل عن جادہ ما موصولہ تعمّلون فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، اسم فاعل باهو فاعل و متعلق محلا منصوب خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔



ترکیب سُورَةُ الْقَصَصِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طَسَمَ ۝ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝

آیت نمبر ۱: طَسَمَ خبر ہے مبتدا مخدوف ہوگی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، ایاک مضاف الِکِتَابِ الْمُبِیْنِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

نَتَّأْرَا عَلَیْكَ مِنْ نَبِیِّ مُوسٰی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: نَتَّأْرُوا نفل نحن مستتر ذوالحال بِالْحَقِّ مُتَّكِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل عَلَیْكَ جہا مجرد متعلق اول، مِنْ جہا کیا مضاف مُوسٰی وَ فِرْعَوْنَ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرد، جہا با مجرد متعلق ثانی، لام جہا قَوْمٍ موصوف یُّؤْمِنُوْنَ نفل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت برور، جہا با مجرد متعلق ثالث، نفل با فاعل و متعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ یا تِلْكَ کی خبر ہوں۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِیْعًا یَسْتَضِعُّ طَآئِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحْ اَبْنَاءَهُمْ وَ یَسْتَحِیْ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

آیت نمبر ۴: اِنَّ حرف تحقیق فِرْعَوْنَ اس کا اسم عَلَا نفل ہو مستتر فاعل فی الْاَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ نفل ہو مستتر فاعل اَهْلَهَا مرکب اضافی مفعول بہ اول شِیْعًا موصوف یَسْتَضِعُّ نفل ہو مستتر فاعل طَآئِفَةً موصوف مِنْهُمْ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، نفل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ یُذَبِّحْ نفل ہو مستتر فاعل اَبْنَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یَسْتَحِیْ نِسَاءَهُمْ نفل ہو مستتر فاعل نِسَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منہ مبدل صفت، موصوف با صفت جَعَلَ کا مفعول بہ ثانی، نفل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان نفل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

وَ تُرِیْدَانْ تَمَنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ نَجَعَلَهُمْ اٰیٰتَةً وَ نَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِیْنَ ۝ وَ نَمَكِّنْ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا یَحْذَرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۶، ۵: واو عاطفہ تُرِیْدُ نفل نحن مستتر فاعل اَنْ، صبر تَمَنَّ نفل نحن مستتر فاعل عَلَی جہا الَّذِیْنَ اسم موصول

أَسْتَضْعِفُوا نفل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل فی الأَرْضِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، نفل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَجَعَلْ نفل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَلْیَمَّةُ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَجَعَلْ نفل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَلْوَارِثِیْنَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ لَجَعَلْ نفل نَحْنُ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق اول، فی الأَرْضِ متعلق ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واؤ عاطفہ لَرَبِّی نفل نَحْنُ مستتر فاعل فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ اول، مِنْهُمَا جار مجرور متعلق مقدم ہوئے یَحْذَرُونَ کے، مَا اسم موصول کَانُوا نفل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یَحْذَرُونَ نفل باواؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم خبر، نفل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، نفل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ بتاویل مصدر لَرَبِّیْدُ کامفعول بہ، نفل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا اور اس کا عطف ان فِرْعَوْنَ.... الخ ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

آیت نمبر ۷: واؤ عاطفہ وَأَوْحَيْنَا نفل نا ضمیر فاعل الی جار ماؤرِ مُوسَىٰ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، اَنْ متعلق ہوا، اَنْ نامیہ اَرْضِیْ نفل یاء ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض جار مجرور متعلق ثانی، نفل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ فِرْعَوْنَ.... الخ پر معطوف ہے۔ فاء تفصیلیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم خِفْتِ نفل تاء کسورہ ضمیر فاعل عَلَیْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، نفل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اَلْقِیْ نفل یاء ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ فی الْیَمِّ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَخَافِي نفل یاء ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ ثانی، جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا تَحْزَنِي نفل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم رَآدُّوْا اسم فاعل مضاف الیہ معنی مفعول بہ اِلَیْكَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ جَاعِلُوْا مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوا۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝

آیت نمبر ۸: فاء عاطفہ التَّقَطَ نفل ہ ضمیر مفعول بہ اَلُ فِرْعَوْنَ مرکب اضافی فاعل لام جارہ یَكُونُ نفل ناقص ہو مستتر فاعل لَهُمْ کَانُوا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوًّا وَ حَزَنًا معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، نفل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، نفل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا معطوف علیہ با معطوفین اِنْ کا اسم کَانُوا نفل ناقص واؤ ضمیر اس کا مخاطبین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با

اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۹: واو عاطفہ قَالَتْ فعل امر اَمْرًا فِرْعَوْنَ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قُرَّتْ عَيْنِي مرکب اضافی موصوفی جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكَ جملہ مجرور معطوف، معطوف علیہ بمعطوف ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر ہے مبتدا محذوف ہو، کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَا تَقْتُلُوهُ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ نہیہ ہوں عَسَىٰ فعل تام اَنْ ناصب ینفَع فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَتَّخِذُ فعل لَنْحُنْ مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ اول، وَلَدًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بتاویل مصدر عَسَىٰ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ مطلقہ ہوں واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا لَا يَشْعُرُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَل فِرْعَوْنَ کا حال ہے۔ یا فعل محذوف اَطَاعُوا امْرَأَتَا فِرْعَوْنَ فعل مقدر کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَاصْبِحْ فُوَادُ امْرِئِ مُوسَىٰ فَرِحًا لِإِنْ كَادَتْ لِتُبَدِي بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ اصْبِحْ فعل ناقص فُوَادُ امْرِئِ مُوسَىٰ مرکب اضافی اس کا اسم فارغاً خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حَقَّ مِنْ اللّٰهِ ضمیر شان مقدر اس کا اسم کَادَتْ ل متقاب ہی ضمیر اس کا اسم لام فارغاً تَبَدِي فعل ہی مستقر فاعل یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر کَادَتْ ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ اِنْ کی خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں لَوْ لَا اِثْنَانِ اَنْ ناصب رَبَّنَا فعل ناقص فاعل فَرِحًا جار مجرور متعلق اول ہونے، لام جارہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے لَتَكُونَ فعل ناقص ہی مستقر اسم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق دوم، فعل با فاعل و متعلقین بتاویل مصدر مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے لَا يَكِدُّتْ قَوْلَهَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ قَالَتْ فعل ہی مستقر فاعل لِأُخْتِهِ جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قُصِّيهُ فعل امر تاء ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں فَاء عاطفہ فَبَصُرَتْ فعل ہی مستقر ذوالحال عَنْ جُنْبٍ کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل یہ جار مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں اور اس کا معطوف علیہ محذوف ہے فَقَصَّتْ فَبَصُرَتْ بِهِ، واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا لَا يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے

مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بصورت کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واؤ استینافیہ حَرَمْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ جاد با مجرد متعلق ہوئے الْمَرَاضِعَ مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جاد با مجرد متعلق ماضی، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے لَمَّا رَأَتْ أُخْتُ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ، قَالَتْ فعل با ہی ضمیر فاعل قول، هَلْ حرف استفہام اَدُلُّ فعل انا مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ عَلَىٰ جاد ماہلِ بَيْتٍ مرکب اضافی موصوف یَكْفُلُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال واؤ حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، نَاصِحُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل لَهُ متعلق سے مل کر خبر جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال یَكْفُلُونَ کا فاعل ہ ضمیر مفعول بہ لَكُمْ جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مجرد، جاد با مجرد اَدُلُّ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ وَ لٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: فاء عاطفہ فَرَدَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ، اِلَىٰ اُمِّهِ جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف ہوا۔ کئی حرف تعلیل اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَقَرَّ فعل عَيْنُهَا مرکب اضافی فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَحْزَنَ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ مطلقہ ہوا۔ واؤ عاطفہ لَا م جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَعْلَمَنَّ فعل ہی مستتر فاعل اَنّ حرف تحقیق وَعَدَ اللّٰهُ مرکب اضافی اس کا اسم حَقًّا ذوالحال واؤ حالیہ لٰكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرَهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم لَا يَعْلَمُونَ فعل با واؤ ضمیر فاعل خبر، لٰكِنَّ با اسم و خبر حال، ذوالحال باحال اَنّ کی خبر، اَنّ با اسم و خبر تَعْلَمَنَّ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین بتادیل مصدر مجرد، جاد با مجرد معطوف ہے لَا تَحْزَنَ بہ۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَاسْتَوَىٰ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: واؤ استینافیہ لَمَّا جازمہ متضمن معنی شرط مفعول یہ مقدم بَلَغَ فعل ہو مستتر فاعل أَشُدَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اسْتَوَىٰ فعل با هو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، آتَيْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ اِل حُكْمًا وَعِلْمًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ماضی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واؤ اعتراضیہ كَذٰلِكَ جاد با مجرد و كَذٰلِكَ کے متعلق ہو کر بواسطہ جَزَاء موصوف محذوف کے مفعول مطلق مقدم، نَجْزِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقررہ ہوا۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۵: واو عاطفہ دَخَلَ فعل ہو مستتر قائل الْمَدِينَةَ مفعول بہ علی بد معین مضاف غَفْلَةً موصوفہ من أَهْلِهَا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مجرور، جہ باجور کائنات کے متعلق ہو کر حال ہے دَخَلَ کی ضمیر قائل سے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ وَجَدَ فعل ہو مستتر قائل فینما جہ باجور متعلق ہوئے رَجُلَيْنِ موصوف یَقْتَتِلَانِ فعل الف ضمیر قائل سے ل کر صفت اول هَذَا مبتدئ من شِيعَتِهِ کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ هَذَا مبتدأ من عَدُوِّهِ کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ با معطوف یَقْتَتِلَانِ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ رَجُلَيْنِ موصوف ہفت وَجَدَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ اسْتَعَاثَ فعل ہ ضمیر مفعول بہ مقدم الَّذِي اسم موصول من شِيعَتِهِ ظرف مستر و وقع کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ قائل علی جہه الَّذِي اسم موصول من عَدُوِّهِ ظرف مستر کائن کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جہ باجور متعلق، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ با معطوف دَخَلَ کے لئے معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا بقاء عاطفہ وَكَرَهُ فعل ہ ضمیر مفعول بہ مُوسَى مرفوع تقدیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ قَضَى فعل ہو مستتر قائل عَلَيهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا قَالَ فعل ہا ہو مستتر قائل قول، هَذَا مبتدأ من عَمَلِ الشَّيْطَانِ ظرف مستر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہولان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم عَدُوٌّ موصوف مُضِلٌّ صفت اول مُبِينٌ صفت ثانیہ، موصوف ہا مستعین خبر ہان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہوا

قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ نَفْسٍ فَاعْفُرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

آیت نمبر ۱۶: قَالَ فعل ہا ہو مستتر قائل قول رَبِّ اصل میں یا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم کلکنت فعل تکاء مضمومہ قائل نَفْسٍ مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ سے ل کر جواب، ندا، ندا ہا جواب ندا جملہ اسمیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ غَفَرَ فعل ہو مستتر قائل لَهُ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوا بقاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے ان کُنْتُ مُذْنِبًا بِهَذَا بِاعْفُرْ فعل امر آنت مستتر قائل لی متعلق سے ل کر جملہ اضافیہ امریہ جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہولان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم ہو ضمیر فصل الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ان کی دو خبر ہے ہان با اسم و خبر ان جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہوا

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝

آیت نمبر ۱۷: قَالَ لَنْ اَكُونُ فاعل علی متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل محذوف اُقْسِمُ کے، اُقْسِمُ فعل انکا مستتر فاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، اور جواب قسم محذوف ہے لَا تُؤْبِنَنَّ، لَا تُؤْبِنَنَّ فعل انکا مستتر فاعل معطوف علیہ، فاعل عاطفہ لَنْ اَكُونُ فعل ناقص انکا مستتر اس کا اسم ظہیریٰ صیغہ صفت انکا مستتر فاعل لِلْمُجْرِمِينَ متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جواب قسم، پھر دونوں مل کر جواب ندا، ندا ہا جواب ندا، جملہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ
قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۸: فَاَصْبَحَ استثنائیہ فعل ناقص ہو مستتر ذوالحال خَائِفًا اسم فاعل باہو مستتر فاعل حال اولیٰ، يَتَرَقَّبُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر حال ثانیہ، ذوالحال ہا حالین اسم (مظہری) فی الْمَدِينَةِ كَانِتًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فَاَصْبَحَ عاطفہ اِذَا مفاعلیہ الَّذِي اسم موصول اسْتَنْصَرَ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، بِالْاَمْسِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا، يَسْتَصْرِحُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں قَالَ فعل لہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مُوسَى فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق کاف اس کا اسم لام مذحلہ عَوِيٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبریں، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا لَقَالَ لِمُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَ مَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹: فَاَصْبَحَ عاطفہ لَمَّا جار ضمہ مقدم اَنْ زائد اَرَادَ فعل ہو مستتر فاعل اَنْ ناصب يَبْطِشُ فعل ہو مستتر فاعل بآء جار الَّذِي اسم موصول ہو مبتدا، عَدُوٌّ موصوف لَهَا كَانِتًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت خبر، مبتدا ہا خبر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار مجرور يَبْطِشُ کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق بتاویل مصدر اَرَادَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، بآء حرف ندا اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل انکا مستتر فاعل مُوسَى منصوب تقدیر مفعول بہ سے مل کر ندا، ہمزہ استفہامیہ تُرِيدُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ ناصب تَقْتُلَنِيْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لَنْ و تاقیہ کا، بآء ضمیر مفعول بہ، کاف جارہ مَا مصدریہ قَتَلْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل نَفْسًا مفعول بہ بِالْاَمْسِ جار مجرور متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَانِتًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قَتَلْتَ کے تَقْتُلَنِيْ کا مفعول مطلق، فعل بافاعل

و مفعولین جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء باجواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ نَافِیۃ تَرْیِدُ و فعل
اَلَّتْ مستتر فاعل اللاحرف استثناء اَنْ ناصب تَكُوْنُ فعل ناقص اَلَّتْ مستتر اسم جَبَّارًا موصوف فی الْاَرْضِ کَاثِنًا کے متعلق ہو کر صفت،
موصوف ہفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر تَرْیِدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، وَاوْءَاظُ عَاطِفٌ مَا نَابِیَہ
تَرْیِدُ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل اَنْ ناصب تَكُوْنُ فعل ناقص اَلَّتْ مستتر اسم مِنَ الْمُضْلِحِیْنَ کَاثِنًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص
با اسم و خبر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ یَسْعٰی قَالَ یٰمُوسٰی اِنَّ الْمَلٰٓئِکَآئِیْمِوْنَ بِکَ لَیَقْتُلُوْکَ
فَاخْرِجْ اِنِّیْ لَکَ مِنَ التَّصْحِیْنِ ۝

آیت نمبر ۲۰: وَاوْءَاظُ استینائیہ جَاءَ فعل رَجُلٌ موصوف من اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ کَاثِنٌ کے متعلق ہو کر صفت، اور یہ بھی جائز ہے کہ
جاء با مجرد ظرف لغو جَاءَ کے متعلق ہو، موصوف ہفت ذوالحال یَسْعٰی فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل
با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَالَ فعل با هُوَ مستتر فاعل قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا مستتر فاعل مُوسٰی
مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نداء اِنْ حرف تحقیق الْمَلٰٓئِکَآئِیْمِوْنَ کا اسم یا تَمِیْرُوْنَ فعل وَاوْءَاظُ ضمیر فاعل بِکَ جادہ با مجرد متعلق اذل،
لام جادہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے، یَقْتُلُوْا فعل وَاوْءَاظُ ضمیر فاعل کَانَ ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرد، جادہ با مجرد
متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین خبر اِنْ با اسم و خبر جواب نداء، نداء باجواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فَاخْرِجْ
شرط مقدر ہے اِنْ سَبَعَتْ عِظْقٰی، یا اِنْ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ، اَخْرِجْ فعل امر اَلَّتْ مستتر فاعل سے مل کر مطلق، اِنْ حرف تحقیق یاء
ضمیر اس کا اسم من جادہ التَّصْحِیْنِ اسم فاعل هُمُ مستتر فاعل لَکَ متعلق مقدم سے مل کر خبر اِنْ با اسم و خبر مطلق، مطلق با مطلق
جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَخْرِجْ مِنْهَا خَآئِفًا یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۲۱: فَاخْرِجْ عَاطِفٌ علیہ محذوف ہے عَمِلَ مُوسٰی بِنَصِیْحَتِہٖ، خَجَّجْ فعل هُوَ مستتر ذوالحال خَآئِفًا اسم فاعل
با هُوَ مستتر فاعل حال اولیٰ، یَتَرَقَّبُ فعل با هُوَ مستتر فاعل حال دوم، ذوالحال با حالین فاعل مِنْهَا جادہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل
و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل
میں آیا رہتی ہے اور یہ نداء ہے تَجَّجْ فعل امر اَلَّتْ مستتر فاعل نون و قایہ کا یاء ضمیر مفعول بہ، من جادہ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ مرکب توصیفی
مجرد، جادہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء باجواب نداء مقولہ، قول با مقولہ
جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِیْنٍ قَالَ عَسٰی رَبِّیْ اَنْ یَّهْدِیْنِیْ سَوَآءَ السَّبِیْلِ ۝

آیت نمبر ۲۲: واؤ استینانیہ لَمَّا جازمہ مضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم بوجہ فعل ہو مستتر فاعل تَلَقَّاءَ مَدَّيْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر شرط، قَالَ فعل با ہو مستتر فاعل تول، عَلَيَّ فعل مقاربہ مرکب اضافی اس کا اسم آن ناصب بقیہ فعل ہو مستتر فاعل لون و قایہ کا، يَاء ضمير مفعول بہ اول، سَوَّاءَ السَّبِيلِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین بتاویل مصدر خبر، عَلَيَّ باسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّيْنٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۳: واؤ عاطفہ لَمَّا مفعول فیہ مقدم، وَرَدَ فعل ہو مستتر فاعل مَاءَ مَدَّيْنِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر شرط، وَجَدَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، أُمَّةٌ موصوفہ مِنَ النَّاسِ کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، يَسْقُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوفہ با مستغنی و جَدَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ وَجَدَ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ دُونِهِمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، امْرَأَتَيْنِ موصوفہ تَذُودَانِ فعل باللف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ بہ صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ قَالَ فعل با ہو مستتر فاعل قول ہوا، مَا استفہامیہ مبتدا، خَطْبُكُمَا مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قَالَتَا فعل باللف ضمیر فاعل قول، لَا نَسْقِي فعل نحن مستتر فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ابُونَا مرکب اضافی مبتدا، شَيْخٌ کَبِيرٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ حَتَّىٰ جادہ اس کے بعد ان مقدر ہے يُصْدِرَ فعل الرِّعَاءُ فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: فَأَء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَىٰ قَوْلَهُمَا رَحِيمًا، سَقَىٰ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمَا جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ تَوَلَّىٰ فعل ہو مستتر فاعل إِلَى الظِّلِّ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔ فَأَء عاطفہ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ ندا ہے، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم فقیرٌ صیغہ صفت آنا مستتر فاعل لام جادہ ما اسم موصول أَنزَلْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل إِلَى متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ ذوالحال مِنْ خَيْرٍ کائنتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد با مجرور متعلق مقدم فقیرٌ صیغہ صفت فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب ندا، ندا با جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهَا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَدَجَوْتِ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: جاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَرَجَعْنَا فَأَخْبَرَ تَابَا بَاهُمَا بِالْأَمْرِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا أُدْعِيهِ، جَاءَتْ فعل ہ ضمیر مفعول بہ اخذ ہما مرکب اضافی ذوالحال تَمْشِي فعل ہی مستتر ذوالحال عَلَى اسْتِحْيَاءٍ كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال بذوالحال باحال جَاءَتْ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قَالَتْ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر قول، إِنَّ حرف تحقیق آبی مرکب اضافی اس کا اسم، يَدْعُو فعل ہو مستتر فاعل کا ف مضمیر مفعول بہ، لاہر جارہ اس کے بعد ان مقدم ہے يَجْزِي فعل ہو مستتر فاعل کا ف مضمیر مفعول بہ اذل، أَجْرٌ مضاف ما اسم موصول سَقَيْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل لَنَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرد، جارہ مجرور و یدْعُو کے متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فَاءَ عاطفہ لَنَا مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ قَصَّ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِ متعلق الْقِصَصِ مفعول بہ (کیونکہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے) سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل قول، لَا تَخَفْ فعل آنت مستتر فاعل سے مل کر مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط کی جزاء ہوا۔ لَجَوْتِ فعل تاء مفتوحہ فاعل مِنَ جارہ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مرکب توسیفی مجرد، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: قَالَتْ فعل اخذ ہما مرکب اضافی فاعل سے مل کر قول، يَا بَتِ اصل میں یا آبی ہے اور یہ ندا ہے اسْتَأْجِرْ فعل امر آنت مستتر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جواب ندا، ندا، با جواب ندا، مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ إِنَّ حرف تحقیق خَيْرٌ مضاف من اسم موصول اسْتَأْجَرْتَ فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ، إِنَّ کا اسم الْقَوِيُّ الْأَمِينُ دو خبر، إِنَّ با اسم و خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: قَالَ فعل باهو مستتر فاعل قول، إِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اسم اُرِيدُ فعل آنا مستتر فاعل ان ناصب اُنْكِحَ فعل آنا مستتر ذوالحال علی جارہ ان ناصب تَأْجُرَ فعل آنت مستتر فاعل نون و تاقیہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ ثنائی حِجَجًا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل

بافاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور و مُسْتَأْجِرًا کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال اُنْكَحَ کاف ضمیر مفعول بہ اول، اِخْذِ مضاف اِبْنَتِيَّ مرکب اضافی موصوف ہاتھین صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین بتاویل مصدر اُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَاءَ عَاطِفًا ان شرطیہ اَکْمَمْتَ فعل ثناء مفتوحہ فاعل عَشْرًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَاءَ جزائیہ مِنْ عِنْدِكَ ظرف مستتر کائین کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا محذوف اَلتَّمَامُ کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں و او عَاطِفًا مَآئِنَا فِی اُرِيدُ فعل اَنَا مستتر فاعل اَنْ ہا سبب اَشَقُّ فعل اَنَا مستتر فاعل عَلَیْكَ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں یہیں علامت فعل تَجِدُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل نون و قایہ کا یاء ضمیر مفعول بہ مِنْ الصَّالِحِينَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وال بر جزاء، اِنْ شرطیہ شَاءَ فعل اَللّٰهُ فاعل سے مل کر شرط، شرط وال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ اٰیٰمًا اَلْاَجَلِيْنَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا

نَقُولُ وَ كَيْلٍ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: قَالَ فعل باهو مستتر فاعل قول، ذٰلِكَ مبتدا، بَيْنِيْ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او عَاطِفًا بَيْنَكَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ثابت کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اٰیٰمَ اسم شرط مضاف مَآزِدًا اَلْاَجَلِيْنَ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ مقدم قَضَيْتُ فعل ثناء مضمومہ فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر شرط، قَاءَ جزائیہ لانی جنس عُدْوَانَ اس کا اسم عَلٰی کائین کے متعلق ہو کر خبر، لا باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں و او عَاطِفًا اَللّٰهُ مبتدا، و كَيْلٍ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلٰی جارہ ما موصولہ نَقُولُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ قَضَيْتُ پر معطوف ہوں

﴿۲۸﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۲۸﴾

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ اَلْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ؕ قَالَ لِاَهْلِهٖ
اَمْكُتُوْا اِنِّيْ اَنْسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَدْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
تَصْطَلُوْنَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: قَاءَ عَاطِفًا لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم قَضَىٰ فعل مُوسَىٰ فاعل اَلْاَجَلَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، و او عَاطِفًا سَارَ فعل ہو مستتر فاعل بِاَهْلِهٖ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، اَنْسَ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ جَانِبِ الطُّورِ جار مجرور متعلق ہوئے نَارًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لِاَهْلِهٖ متعلق سے مل کر قول، اَمْكُتُوْا فعل امر و او ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ

ہولان حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم اَنْتُ فعل فاعل انا مفعول بہ سے مل کر خبر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو لکَلَّ حرف ترمیمی یتاء ضمیر اس کا اسم اِنِّی فعل انا مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ مِنْهَا کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، یتاء جارہ حَبْرٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال معطوف علیہ ماؤ عاطفہ جَذْوَةٌ موصوفہ مِنَ النَّارِ کائِنَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہ مجرور اِنِّی کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، لکَلَّ ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیح ہو کر اَنْتُ کے فاعل سے حال ہے، لکَلَّ حرف ترمیمی کُم ضمیر اس کا اسم تَصْطَلُوْنَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لکَلَّ ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیح یہ بھی اَنْتُ کے فاعل سے حال ہے۔

فَلَمَّا آتَمَّهَا نُودِيْ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ
يُمُوْسَى اِنِّیْ اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝۱۰ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِيْ

مُذَبِّرًا وَاَلَمْ يَعْقِبْ اَيُّمُوْسَى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ دَا اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝۱۱

آیت نمبر ۱۰، ۱۱: ۳۱، ۳۰: فاء عاطفہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اِنِّی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر شرط، نُودِيْ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل مِنْ جادہ شَاطِئِ الْوَادِ مرکب اضافی موصوفہ الْاَيْمَنِ صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جارہ مجرور مَبْدِل مِنْهُ مِنَ الشَّجَرَةِ جارہ مجرور مَبْدِل مِنْهُ مَبْدِل متعلق اول فی جادہ الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق ثانی (مظہری) فعل مجہول نائب فاعل و متعلقین جملہ خبریہ مفسر، اَنْ حرف تفسیر یتاء حرف نداء، اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل انا مستتر فاعل مُوْسَى مفعول بہ سے مل کر نداء، اِنْ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم اَنَا ضمیر مبتداء، اَللّٰهُ مَبْدِل مِنْهُ مِنَ الْعَالَمِيْنَ مرکب اضافی مَبْدِل مِنْهُ مَبْدِل خبر، مبتداء خبر اِنْ کی خبر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء باجواب نداء معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَنْ حرف تفسیر اَلْقِ فعل امر اَنْتُ مستتر فاعل عَصَاكَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر، واؤ عاطفہ جَزَاءً، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو فاء عاطفہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اِنِّی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر ذوالحال تَهْتَزُّ فعل ہیج مستتر ذوالحال کَانَ حرف تشبیہ ہا ضمیر اس کا اسم جَانٌّ خبر مکان ہا اسم و خبر حال، ذوالحال باحال تَهْتَزُّ کا فاعل فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال رَاَی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، وَلِيْ فعل ہو مستتر ذوالحال مُذَبِّرًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَمْ يَعْقِبْ فعل باهو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو یتاء حرف نداء، قائم مقام اَدْعُوْ کے، اَدْعُوْ فعل انا مستتر فاعل مُوْسَى مفعول بہ سے مل کر نداء اَقْبِلْ فعل امر اَنْتُ مستتر فاعل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَخَفْ فعل اَنْتُ مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہولان حرف تحقیق کاف ضمیر اسم مِنَ الْاٰمِنِيْنَ کائِن کے متعلق ہو کر خبر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو

اَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْدٍ ۝۱۲ وَاضْمُمُ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

اَنْتُمْ وَمَنْ اَتْبَعَكُمْ الْغٰلِبُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: قَالَ نَعْلَمُ بِمَا تُشْرِكُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَاجِلٌ ﴿۳۵﴾
 مفعول بہ بِاٰخِيْنِكَ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَجْعَلُ نَعْلَمُ مفعول فاعل لَكُمْ جاد باجور مفعول بہ مانی، سُلْطٰنًا مفعول بہ اول سے مل کر معطوف اول، عَاء عاطفہ لَا يَصِلُوْنَ نَعْلَمُ واو ضمیر فاعل اِلَيْكُمْ متعلق اول بِاٰخِيْنِكَ متعلق مانی سے مل کر معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اَنْتُمْ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن موصولہ اِتَّبَعَ نَعْلَمُ مفعول فاعل لَكُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصولہ با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا، اَلْغٰلِبُوْنَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسٰى بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰى وَمَا سَبِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قَاء استینافیہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ نَعْلَمُ ضمیر مفعول بہ مُّوسٰى فاعل بَاء جاد ما یاتینا مرکب اضافی ذوالحال بَيِّنٰتٍ حال، ذوالحال با حال مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالُوْا نَعْلَمُ واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، مانیہ ہَذَا مبتدا، اِلَّا حرف استثناء سِحْرٌ مُّفْتَرٰى مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَعْلَمُ فیہ سَبِعْنَا نَعْلَمُ ضمیر فاعل بَاء جاد ہَذَا ذوالحال فی جاد ما یاتینا مرکب اضافی موصوف اَلْاَوَّلِيْنَ صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد با مجرور کَاثِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جاد با مجرور سَبِعْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَقَالَ مُّوسٰى رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّٰرِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ قَالَ نَعْلَمُ مفعول فاعل مُّوسٰى فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّیْ مرکب اضافی مبتدا، اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو مفعول فاعل بَاء جاد مَن اسم موصول جَاءَ نَعْلَمُ مفعول فاعل بَاء جاد اَلْهُدٰى ذوالحال مِّنْ عِنْدِهٖ کَاثِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصولہ با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن اسم موصول تَكُوْنُ نَعْلَمُ ناقص لہ کَاثِنًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَاقِبَةُ الدّٰرِ مرکب اضافی اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصولہ با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور اَعْلَمُ کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولیان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لَا يُفْلِحُ نَعْلَمُ اَلْظٰلِمُوْنَ فاعل سے مل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ یٰٓاٰیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرِیْ ۚ فَاَوْقَدْ لِیْ یٰٓهٰٓا مِنْ عَلٰی

الظَّالِمِينَ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي اطَّلِعُ إِلَىٰ آلِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واؤ استینافیہ قال فعل فزعون فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اذغون کے قائم مقام، اذغون فعل انا مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تمبہ الکلام صفت، موصوف باصفت موصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء، مآنانیہ علیہ فعل تاء مضمومہ فاعل لکم جد باجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، من جار۔ نداء والیہ موصوف غیر موصوب مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت منصوب مآذوالحال مؤخر و ذوالحال باحال علیہ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب نداء، نداء باجواب نداء مقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لفاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اذ لکم یکن لکم اللہ غیر موصوب، اوقد فعل امر آنت مستتر فاعل علی الظالمین متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اجعل فعل امر آنت مستتر فاعل لی جد باجرور مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، صرحاً مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء مقدم، یاھا صون نداء مؤخر، نداء باجواب نداء جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو لفاء حرف ترجی یاء ضمیر اس کا اسم اطلع فعل انا مستتر فاعل الی اللہ موسیٰ متعلق سے مل کر خبر، لعل با اسم و خبر جملہ ترجیہ مطلقہ ہو لفاء اعترافیہ (مجم اعراب الفاظ القرآن الکریم) ان حرف تحقیق یاء ضمیر اسم لامر مذقلہ اظن فعل انا مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ اول، من الکاذبین کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر ان ہذا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْبِئْنَا لَا يُزْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واؤ عاطفہ استکبر فعل ہو ضمیر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ جنودہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال بغیر الحق متکبرین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل فی الارض جد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ فکونوا فعل واؤ ضمیر فاعل ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کا اسم لا یزجعون فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل البینا متعلق مقدم سے مل کر فکونوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَمَا تُرْكِرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: فاء عاطفہ اخذنا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ واؤ بمعنی مع "جنودہ" مرکب اضافی مفعول معہ، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، فاء عاطفہ نبذنا فعل نا ضمیر فاعل فی الیم متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو لفاء نصیہ شرط محذوف ہے اذ کان الامر کذا الیک، انظر فعل آنت مستتر فاعل کیف کائنات کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، کان ناقصہ عاقبۃ الظالمین مرکب اضافی کان کا اسم، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۳۱: وَاَوْعَافَةٌ جَعَلْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ هُمُ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ اَوَّلُ اَيْتَةٍ مَوْصُوفٌ يَدْعُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيرُ فَاعِلٍ اِلَى النَّارِ متعلق سے مل کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ یعنی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں وَاَوْعَافَةٌ لَا يُنْصَرُونَ فِعْلٌ مجہول وَاَوْضَمِيرُ نَائِبٌ فَاعِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ سَلْ كَرِيذُ عُوْنٍ بِمَعْطُوفٍ ہے۔

وَاتَّبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۲: وَاَوْعَافَةٌ اَتَّبَعْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ هُمُ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ اَوَّلُ فِي جِلْدِ هَذِهِ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جِلْدٌ مَجْرُورٌ كَاَيْتَةٍ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كِرْحَالٌ مَقْدَمٌ لَعْنَةً وَرِجَالٌ مَوْخَرٌ وَرِجَالٌ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ يَمْنَى، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَافَةٌ هُمُ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ، مِنْ جِلْدِ الْمَقْبُوحِينَ اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُمُ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ مُتَمَدِّمٌ (مظہری) سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

﴿ ۳۱ ﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۵ ﴿ ۳۲ ﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى نَصَّارًا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: وَاَوْسْتِثَانِيَةٌ لَامٌ مَوْطَرٌ لِقِسْمٍ اَوَّلِ قِسْمٍ مَحْذُوفٍ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ فِعْلًا، اَتَيْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ مُوسَى مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلُ الْكِتَابِ مَفْعُولٌ بِهِ يَمْنَى، مِنْ جِلْدِ بَعْدِ مِضَافٍ مَا مَصْدَرِيَّةٌ اَهْلَكْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ الْقُرُونَ الْأُولَى مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ بِتَاوِيلِ مَصْدَرٍ مِضَافٍ اِلَيْهِ، مِضَافٌ بِمِضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جِلْدٌ مَجْرُورٌ اَتَيْنَا كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ نَصَّارًا مَوْصُوفٌ لَامٌ جِلْدُ النَّاسِ مَجْرُورٌ، جِلْدٌ مَجْرُورٌ كَاَيْتَةٍ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كِرْحَالٌ مَقْدَمٌ لَعْنَةً وَرِجَالٌ مَوْخَرٌ وَرِجَالٌ بِحَالٍ مَفْعُولٌ فِيهِ سَلْ كَرِيذُ عُوْنٍ بِمَعْطُوفٍ ہوں، وَاَوْعَافَةٌ اَتَّبَعْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ هُمُ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ فِيهِ اَوَّلُ، وَاَوْعَافَةٌ رَحْمَةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفِيْنَ اَتَيْنَا كَا مَفْعُولٌ لَمْ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَلَقٌ وَمُغَائِلٌ ثَلَاثَةٌ جَوَابٌ قِسْمٍ، قِسْمٌ بِجَوَابِ قِسْمٍ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ قِسْمِيَّةٌ هُوَ لَعْلٌ حَرْفٌ تَرْجِيٌّ هُمُ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَتَذَكَّرُونَ فِعْلٌ بِاَوَّضَمِيرُ فَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كِرْحَالٌ لَعْلٌ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: وَاَوْسْتِثَانِيَةٌ مَا نَائِبَةٌ كُنْتَ فِعْلٌ نَا قِصْبٌ نَائِبٌ مَفْتُوحٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ بَاءٌ جِلْدٌ جَانِبِ الْعَرَبِيِّ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جِلْدٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاَيْتَةٍ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ نَائِبٌ اِذْ مِضَافٌ قَضَيْنَا فِعْلًا نَا ضَمِيرُ فَاعِلٍ اِلَى مُوسَى جِلْدٌ مَجْرُورٌ مَتَلَقٌ هُوَ نَائِبٌ اِلَى مُوسَى مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَلَقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مِضَافٌ اِلَيْهِ، مِضَافٌ بِمِضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَا كَاَيْتَةٍ كَا، كَاَيْتَةٍ اِسْمٌ فَاعِلٌ اَنْتَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ وَمَتَلَقٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ سَلْ كَرِيذُ عُوْنٍ بِمَعْطُوفٍ ہوں، وَاَوْعَافَةٌ رَحْمَةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفِيْنَ اَتَيْنَا كَا مَفْعُولٌ لَمْ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَلَقٌ وَمُغَائِلٌ ثَلَاثَةٌ جَوَابٌ قِسْمٍ، قِسْمٌ بِجَوَابِ قِسْمٍ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ قِسْمِيَّةٌ هُوَ لَعْلٌ حَرْفٌ تَرْجِيٌّ هُمُ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَتَذَكَّرُونَ فِعْلٌ بِاَوَّضَمِيرُ فَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كِرْحَالٌ لَعْلٌ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ۔

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ لکن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم انشأنا فعل نا ضمیر فاعل قرونا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تطاول فعل علیہم متعلق العمر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں واو عاطفہ مانا فیہ کنت فعل ناقص ثاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم ثاوییا اسم فاعل آت متشرقا ل فی حرف جہ اہل مدین مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق خبر اول، تتلوا فعل آت متشرقا ل علیہم متعلق آیاتنا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم کنتا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مؤسلین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ مانا فیہ کنت فعل ناقص ثاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم بآء حرف جرجانب الطور مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے کائنا کے، اذ مضاف نادینا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا کائنا کا، کائنا اسم فاعل آت متشرقا ل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک مہمل رَحْمَةً موصوف من رَبِّكَ کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول لہ فعل محذوف ارسلتنا کا، لام جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تُنذِرُ فعل آت متشرقا ل قَوْمًا موصوف مانا فیہ آئی فعل ہُم ضمیر مفعول بہ من جارہ زائدہ تَذِيرٍ موصوف من قَبْلِكَ کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ملامر فوع فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قَوْمًا کی صفت، موصوف با صفت تُنذِرُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے ارسلتنا کے، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول لہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں لعل حرف ترحی ہُم ضمیر اس کا اسم یَتَذَكَّرُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لعل با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ مطلقہ ہوں

وَلَوْ لَا أَن تَصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ لولا اتناعیہ ان ناصر تصیب فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ مُصِيبَةٌ فاعل بآء جارہ ما موصولہ قَدَّمَتْ فعل آیدینہم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ

و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ یقولوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، ورتنا اصل میں یا ربنا ہے اور یہ ندا ہے لولا ازسَلتَ اَلدِّنَارَ سُوْلًا فَتَتَّبِعَ... الخ کی تقدیر عبادتِ ہلاکان مِنْكَ اِرْسَالُ رَسُوْلِ الْاِنِّنَا فَاَتَّبِعْ مِنَّا اَيَاتِكَ وَ كَوْنُ تَمَانِ الْمُؤْمِنِيْنَ ہے (منظہری) ہلا حرف تخصیض کان فعل ناقص مِنْكَ كَاثِنًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم ازسَالُ مصدر مضاف سُوْلٍ مضاف الیہ معنی مفعول بہ، اَلدِّنَارُ جہاں بجزور متعلق ہوئے، مصدر مضاف بامضاف الیہ و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَتَّبِعْ مصدر متناجد باجزور متعلق اَيَاتٍ تَمَارُكِبِ اَضَانِ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ كُوْنُ مصدر ناقص فا ضمیر اس کا اسم، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَاثِنِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مصدر ناقص با اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ بامعطوفین کان کا اسم مؤخر، کان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول بامقولہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف بتاویل مصدر مبتداء اور خبر مخدوف ہے مَوْجُوْدٌ، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، اس کی جزاء مخدوف ہے لَمَّا بَعَثْنَاكَ اَلنَّبِيْهُمُ رَسُوْلًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسٰى اَوْ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَانِ وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَّان

آیت نمبر ۳۸: فاء عاطفہ لَمَّا جَاءَهُمُ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہُمُ ضمیر مفعول بہ اَلْحَقُّ فاعل مِنْ عِنْدِنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لَوْلَا حرف تخصیض اُوْتِيَ فعل مجہول مَطُوْ مستتر نائب فاعل مِثْلَ مضاف مآ اسم موصول اُوْتِيَ فعل مجہول مُوسٰى نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ اُوْتِيَ کا مفعول بہ، فعل مجہول بہ نائب فاعل و مفعول بہ مقولہ، قول بامقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ ہَمْز کا استفہامیہ واو عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَكْفُرُوْا مُوسٰى، لَمْ يَكْفُرُوْا فعل واو ضمیر فاعل بآء جاہدہ موصول اُوْتِيَ فعل مجہول مُوسٰى نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہاں بجزور متعلق اول، مِنْ قَبْلُ جہاں بجزور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف جملہ متاخر ہوں قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، سِحْرَانِ موصوف تَظْهَرَانِ فعل بالف ضمیر فاعل صفت، موصوف ہ صفت مبتداء مخدوف ہما کی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کافِرُوْنَ اسم فاعل ہُمُ مستتر فاعل بِكُلِّ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف جملہ متاخر ہوں۔

قُلْ فَاَتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۳۹

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، فاء نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كُنْتُمْ اِنَّهُمَا سِحْرَانِ، اِتُّوْا فعل امر واو ضمیر فاعل بآء حرف جر کِتٰبٍ موصوف مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ کَاثِنِ کے متعلق ہو کر صفت اول، هُوَ ضمیر مبتداء اَهْدٰى اسم تفصیل هُوَ مستتر فاعل مِنْهُمَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی، موصوف ہا صفتین مجرور، جہاں بجزور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں اَتَّبِعْ فعل اِنَّا مستتر فاعل فا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء ہے شرط مخدوف اِنْ تَأْتُوْا بِكِتٰبٍ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنْ شرطیہ كُنْتُمْ

فَلَنْ نَقْصُرَهُمْ صَاعِدِينَ خَيْرٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، اور جزاء محذوف ہے فَأَلْتُوا كِتَابٍ... الخ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ طَوْمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ

هُوَ بِهِ يَغْيِرُ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۰: فَأَعْلَمَ أَنَّ شَرْطِي لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ مُتَعَلِّقٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، فَأَعْلَمَ جَزَائِيهِ إِعْلَمَ فَعْلٌ مِنْ
 آتٍ مُسْتَرْتَابٍ أَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ مَا كَانَتْ يَتَّبِعُونَ فَعْلٌ وَأَوْضَعِي فاعِلٌ أَهْوَاءَهُمْ مَرْكَبٌ إِضَائِي مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، فَأَعْلَمَ كَمَا مَفْعُولٌ
 كَمَا مَقَامٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَزَاءٍ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هَلْوَ أَوْ إِسْتِثْنَائِيَّةٍ مِنْ إِسْتِفْهَامِيَّةٍ مُبْتَدَأٍ، أَضَلُّ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ
 فاعِلٌ مِنْ حَرْفِ جَزْمٍ اسْمٌ مُوَصُولٌ اتَّبَعَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ هُوَ مَرْكَبٌ إِضَائِي ذَوُ الْخَالِ بِأَعْلَمَ جَزَائِيهِ مُضَافٌ هُدًى مَوْصُوفٌ مِنَ اللَّهِ
 كَائِنٌ كَمَا مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَمَفْعُولٍ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ الْمَضَافِ إِلَيْهِ، مُضَافٌ بِإِضَائِيٍّ بِمَجْرُورٍ، جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَّكِلِيَّةٍ كَمَا مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَمَا
 ذَوُ الْخَالِ بِأَحَالٍ اتَّبَعَ كَمَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصِلَةٍ بِمَجْرُورٍ، جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اسْمٌ
 تَفْضِيلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ خَبَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمَلَةٌ إِسْتِفْهَامِيَّةٌ هَلْوَ أَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اللَّهُ اسْمٌ كَمَا اسْمٌ لَا يَهْدِي فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ خَبَرٌ، إِنَّ بِاسْمٍ وَخَبَرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ۔

●●● رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۶ ●●●

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

آیت نمبر ۵۱: وَأَوْضَعِي نَامٍ مَوْطِئَةٍ لِقِسْمٍ أَوْ قِسْمٍ مَحْذُوفٍ هُوَ قَدْ عَلِمْتَ فَعْلٌ، وَوَصَّلْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ الْقَوْلَ
 مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، قِسْمٌ، قِسْمٌ بِأَجْزَاءِ قِسْمٍ جَمَلَةٌ إِسْتِفْهَامِيَّةٌ قِسْمِيَّةٌ هُوَ لَعَلَّ حَرْفٌ تَرْجِيُّ هُوَ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَمَا اسْمٌ يَتَذَكَّرُونَ فَعْلٌ بِأَوْضَعِي
 فاعِلٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ خَبَرٌ، لَعَلَّ بِاسْمٍ وَخَبَرٍ جَمَلَةٌ إِسْتِفْهَامِيَّةٌ مَطْلَعٌ هُوَ أَوْ وَصَّلْنَا كَمَا فاعِلٌ مِنْ حَالٍ هُوَ۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

آیت نمبر ۵۲: الَّذِينَ اسْمٌ مُوَصُولٌ اتَّبَعُوا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ هُمْ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ أَوَّلُ الْكِتَابِ ذَوُ الْخَالِ مِنْ قَبْلِهِ كَائِنًا كَمَا
 مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَمَا حَالٌ، ذَوُ الْخَالِ بِأَحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنَ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصِلَةٍ مُبْتَدَأٌ أَوَّلٌ، هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأِيٌّ،
 يُؤْمِنُونَ فَعْلٌ بِأَوْضَعِي فاعِلٌ بِهِ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ خَبَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ مُبْتَدَأِيٌّ أَوَّلٌ كَمَا خَبَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ
 هُوَ۔

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۳: وَأَوْضَعِي إِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِي مُقَدِّمِ يُتْلَى فَعْلٌ بِمَجْزُورٍ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ عَلَيْهِمْ مُتَعَلِّقٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، قَالُوا
 فَعْلٌ بِأَوْضَعِي فاعِلٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، آمَنَّا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ بِهِ مُتَعَلِّقٌ مِنْ لِكْرٍ شَرْطٍ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔
 إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُوَ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَمَا اسْمٌ الْحَقُّ ذَوُ الْخَالِ مِنْ رَبِّنَا كَائِنًا كَمَا مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَمَا حَالٌ، ذَوُ الْخَالِ بِأَحَالٍ خَبَرٌ، إِنَّ بِاسْمٍ وَخَبَرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ

مطلہ ہوں۔ اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مِنْ قَبْلِهِ جار مجرور مُسْلِمِينَ کے متعلق مقدم اور مُسْلِمِينَ اس کی خبر، فعل ناقص با سَمِ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با سَمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ یا مطلہ ہوں۔

أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: أُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدا، يُؤْتُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل أَجْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مَرَّتَيْنِ مفعول فیہ بآء جارہ مآ مصدر یہ صَبَرُوا فعل باؤ ضمیر فاعل بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور يُؤْتُونَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بتائب فاعل و مفعولین و متعلق معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَذَرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِالْحَسَنَةِ جار مجرور متعلق ہوئے السَّيِّئَةَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، واؤ عاطفہ مِنْ جارہ موصول رَزَقْنَاهُمْ فعل ناقص فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم يُنْفِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: واؤ عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَمِعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اللَّغْوَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، أَعْرَضُوا فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْهُ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، لَنَا ظرف مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم أَعْمَالُنَا مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَكُمْ ظرف مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم أَعْمَالُكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقول، قول، یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں سَلَّمَ مبتدا، علی جارہ كُمْ ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لَا نَبْتَغِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْجَاهِلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلہ ہوں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: اِنَّ حرف تحقیق كَاف ضمیر اس کا اسم لَا تَهْدِي اِي لَ اَنْتَ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول أَحْبَبْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ با سَمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَكِنَّ حرف استدراک اَللَّهِ اس کا اسم يَهْدِي فعل هُوَ مستتر فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول ہاصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ لَكِنَّ کی خبر، لَكِنَّ با سَمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوں۔ واؤ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، أَعْلَمُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل بِالْمُهْتَدِينَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ با سَمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: واؤ استینافیہ قالوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، ان شرطیہ تَتَّبِعْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْهُدَىٰ ذوالحال مَعَكَ ظرف مستقر مرکب اضافی کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، نُمَخَّطَفْ فعل مجہول نَحْنُ مستتر نائب فاعل مِنْ اَرْضِنَا متعلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ہمزہ استنہامیہ واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ نُنْشِئْ لَهُمْ بِمَكَّةَ لَمْ نُكَيِّنْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَهُمْ جاد باجور متعلق ہوئے حَرَمًا موصوف آمِنًا صفت اولیٰ، يُجْبَىٰ فعل مجہول اِلَيْهِ جاد باجور متعلق ہوئے، ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی نائب فاعل رِزْقًا موصوف مِنْ لَدُنَّا کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق و مفعول مطلق حَرَمًا کی صفت ثانیہ، موصوف باصفت لَمْ نُكَيِّنْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہوا واؤ عاطفہ لکن حرف استدراک اَكْثَرَهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم لَا يَعْلَمُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واؤ استینافیہ کم خبریہ میز من جادہ قَرْيَةٍ موصوف بَطَرَتْ فعل ہی مستتر فاعل مَعِيشَتَهَا مرکب اضافی بواسطہ مضاف محذوف مَدَّة کے مفعول فیہ ہوا، فعل با فاعل و مفعول فیہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جاد باجور تیز، میز با تیز مفعول بہ، اَهْلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فاء عاطفہ تِلْكَ مبتداء، مَسْكِنُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال لَمْ تَسْكُنْ فعل مجہول ہی مستتر نائب فاعل مِنْ بَعْدِهِمْ متعلق ہوئے، اِلَّا حرف استثناء قَلِيلًا مَآثِرًا موصوف محذوف کے واسطے سے مفعول فیہ، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ حال، ذوالحال باحال خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واؤ عاطفہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم نَحْنُ ضمیر فصل الْوَارِثِينَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: واؤ عاطفہ مَآثِرًا فیہ کَانَ فعل ناقص رَبُّكَ مرکب اضافی اس کا اسم مُهْلِكَ الْقُرَىٰ مرکب اضافی خبر حَتَّىٰ جادہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَبْعَثُ فعل ہو مستتر فاعل فی جادہ اُمِّهَا مرکب اضافی مجرور، جا باجور متعلق رَسُولًا موصوف يَتْلُوا فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق آيَاتِنَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف باصفت يَبْعَثُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ بتادیل مصدر مجرور، جاد باجور مُهْلِكَ کے متعلق ہوئے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا واؤ عاطفہ مَا

ثانیہ کُنَّا نَقْصُ نَاقِصٍ نَاقِصٍ اس کا اسم مہلک صیغہ صفت مضاف لقری ذوالحال بالآخر استثناء و احوالہ اهلہا مرکب اضافی مبتدا،
فَالْيَوْمِ خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: واؤ استینافیہ ما شرطیہ ملامنصوب مفعول بہ مقدم اوتینتہ فعل مجہول ثم ضمیر نائب فاعل سے مل کر شرط، ومن
شئیہ "ما کا حال ہے، فاء جزائیہ متاع مضاف الحیوۃ الدنیامرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ
زینتہا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ہے مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مآ کی
خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ ما اسم موصول عند اللہ مرکب اضافی ثبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ
مبتدا، خیر اسم تفضیل باہو مستتر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ ابقی اسم تفضیل باہو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر،
مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہمزة استفہامیہ فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لا تفکروا، لا تعقلون فعل باو ضمیر فاعل
معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر انشائیہ ہوں

﴿۶۰﴾ رکوع نمبر ۷ ﴿۶۰﴾

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَا يَأْتِيهِ كُنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۶۱﴾

آیت نمبر ۶۱: ہمزة استفہامیہ فاء استینافیہ من موصول وعدنا فاعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، وعدنا احسننا موصوف
باصت مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، فاء عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، لا یاتیہ مرکب اضافی مرفوع تقدیر خبر، مبتدا با خبر
معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا تکاف جادہ من اسم موصول متعنا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ متاع
مضاف الحیوۃ الدنیامرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثم عاطفہ
ہو ضمیر مبتدا، یوم القیامۃ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم المحضریین کا، من المحضریین "کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر
جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جادہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ
اسمیہ انشائیہ ہوں

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۲: واو عاطفہ یوم مضاف، ینادی فعل ہو مستتر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ یقول
فعل باہو مستتر فاعل قول، ایں کائنۃ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم شُرکائی مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول کُنْتُمْ فعل
ناقص ثم ضمیر اس کا اسم تزعُمون فعل باو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف

ہافت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قولہ با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یومہ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معقول بہ ہوا فعل محذوف اذ کوز کا، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہول

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي آغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا

تَبَّرْنَا إِيَّاكَ مَا كَانُوا إِيَّاكَ يَعْبُدُونَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبَّنَا صل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ ندا ہے، هُوَ الَّذِي آغْوَيْنَا اسم موصول آغْوَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جواب ندا، نداء با جواب نداء مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہول آغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا اس کی تقدیر عبادت آغْوَيْنَاهُمْ فَغَوُوا غَيًّا مِثْلَ مَا غَوَيْنَا ہے، آغْوَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ غَوُوا فعل ناقص ضمیر فاعل غَيًّا مصدر موصوف مِثْلَ مضاف ما موصولہ غَوَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صفت، موصوف ہافت مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہول تَبَّرْنَا إِيَّاكَ فعل ناقص ضمیر فاعل إِيَّاكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہول مَا نَانِيہ کا نُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْبُدُونَ فعل ناقص ضمیر فاعل إِيَّاكَ مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہول وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ

كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: وَادْعُوا قِيلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل سے مل کر قول، ادْعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل شُرَكَاءَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول فاء فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا قِيلَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلُ دَعُوا، ادْعُوا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فعل ناقص ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر معطوف اذل، واو عاطفہ رَأَوْا فعل ناقص ضمیر فاعل الْعَذَابَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول لَوْ شرطیہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَهْتَدُونَ فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ خبریہ ہو کر تاویل مفرد فاعل ہوا فعل محذوف ثَبَّتْ کا، فعل با فاعل شرط، جزاء محذوف ہے لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ شرط

بازنہ نلہ شرطیہ ہول

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: وَادْعُوا اسٹینائیہ یَوْمَ مضاف يُنَادِي فعل با هو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَقُولُ فعل با هو مستتر فاعل قول، مَاذَا اسم استفہام بمعنی اَنْیَ اِيجَابِيہ کے ہو کر مفعول مطلق مقدم، آجَبْتُمْ فعل ناقص ضمیر فاعل

الْمُرْسَلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ استقبالیہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یومر کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذکر کا۔

فَعَبِيَّتٌ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۶: فَأَعِيبَتْ عَلَيْهِمُ مفعول متعلق الْأَنْبَاءُ فاعل يَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر معطوف علیہ، فَأَعِيبَتْ عَلَيْهِمُ ضمیر مبتدا لَا يَتَسَاءَلُونَ فاعل باو ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: فَأَمَّا اسْتِثْنَاءِیہ اَمَّا حرف شرطیہ مَن اسم موصول تَابَ فاعل باهو ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاوِ عاطفہ اَمَّنَ فاعل باهو مشترک فاعل معطوف اول، وَاوِ عاطفہ عَمِلَ فاعل هو مشترک فاعل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول با صلہ مبتدا متضمن معنی شرط، فَأَمَّا برائے رابطہ عَسَىٰ فاعل رجاہ اَنْ ناصب یَكُونَ فاعل ناقص هو مشترک اس کا اسم مِنَ الْمُفْلِحِينَ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر خبر، فاعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر عَسَىٰ کا فاعل، فاعل با فاعل قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: وَاوِ اسْتِثْنَاءِیہ رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، يَخْلُقُ فاعل هو مشترک فاعل مَا اسم موصول يَشَاءُ فاعل باهو مشترک فاعل معطوف علیہ، وَاوِ عاطفہ يَخْتَارُ فاعل باهو مشترک فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ يَخْلُقُ کا مفعول بہ، فاعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں مَا نافیہ كَانَ فاعل ناقص لَهُمْ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْخِيَرَةُ اسم مؤخر، فاعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں سُبْحَانَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سَبَّحْتَ کا، سَبَّحْتَ فاعل تَاء مضمومہ ضمیر مرفوع متصل فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں وَاوِ عاطفہ تَعَالَىٰ فاعل هو مشترک فاعل عَنْ جادہ مَا موصول يَشْرِكُونَ فاعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرد، جادہ با مجرد متعلق ہوئے، فاعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سَبَّحْتَ پر معطوف ہوں

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: وَاوِ عاطفہ رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، يَعْلَمُ فاعل هو مشترک فاعل مَا موصول تُكِنُّ فاعل صُدُورُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، وَاوِ عاطفہ مَا اسم موصول يُعْلِنُونَ فاعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فاعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ظَلَمَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ زَوَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ۝

آیت نمبر ۷۰: واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، اللہ خبر اول لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی ترکیب سورہ ہزل میں دیکھئے اور یہ خبر ثانی ہے، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوللہ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحَمْدُ ذوالحال فی جہادہ الأولى وَالْآخِرَةَ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہاد با مجرور کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْحُكْمُ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف اول، واو عاطفہ تَرْجَعُونَ فعل مجہول باو ضمیر نائب فاعل إِلَيْهِ متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ہو کی خبر ثالث، مبتدا با اخبار ثلاثہ جملہ اسمیہ خبریہ

ہو

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئِلَّ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ أَفْلًا تَسْمَعُونَ ۝

آیت نمبر ۷۱: قُلْ فعل امر آت متضر فاعل سے مل کر قول، ہمزة استفہامیہ رَأَيْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہولین شرطیہ جَعَلَ فعل اللہ فاعل عَلَيْكُمْ جہاد با مجرور متعلق ہوئے، الْاِئِلَّ مفعول بہ اول، سَرْمَدًا موصوف الی یومِ الْقِيَامَةِ کائینا کے تعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فَأَخْبِرُونِي، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول من استفہامیہ مبتدا، إِلَهٌ موصوف غَيْرُ اللَّهِ مرکب اضافی صفت اول، یأتی فعل ہو متضر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بِضِيَاءٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ملامت منسوب رَأَيْتُمْ کا مفعول بہ ہے ہمزة استفہامیہ فاعل عاطفہ اور معطوف علیہ مقدر ہے لَا تَدَّبَّرُونَ، لَا تَسْمَعُونَ فعل با ہو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ أَفْلًا تَبْصِرُونَ ۝

آیت نمبر ۷۲: اس کی ترکیب آیت اولی کی ترکیب سے واضح ہو جاتی ہے۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الِئِلَّ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۷۳: واو استیثانیہ مِنْ رَحْمَتِهِ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اور مِنْ رَحْمَتِهِ کو ظرف لَوْ جَعَلَ کا متعلق مقدم بنا کر پورے جملہ کو جملہ فعلیہ خبریہ بنا کر بھی جائز ہے، جَعَلَ فعل ہو متضر فاعل لَكُمْ جہاد با مجرور جَعَلَ کے مفعول ثانی کی جگہ

میں ہے، اَللَّيْلُ وَالنَّهَارُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ازل، لامر جاہ اس کے بعد اُن مقدر ہے تَسْكُنُوا نفل واو ضمیر فاعل فیه متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لامر جاہ اس کے بعد اُن مقدر ہے تَبْتَغُوا نفل واو ضمیر فاعل مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف ازل، واو عاطفہ لعل حرف ترحی کُم ضمیر اس کا اسم تَسْكُرُونَ نفل باوا ضمیر فاعل خبر، لعل با اسم و خبر معطوف یعنی، معطوف علیہ با معطوفین جعل کے متعلق، نفل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اس آیت کی ترکیب اسی رکوع کے

شروع میں کڑی ہے۔

وَتَزْعُمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: واو عاطفہ تَزْعُمْنَا نفل نا ضمیر فاعل مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جار مجرور متعلق ہوئے شَهِيدًا مفعول بہ، نفل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قُلْنَا نفل نا ضمیر فاعل سے مل کر قول، هَاتُوا اسم فعل بمعنی امر، واو ضمیر فاعل بُرْهَانَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف ازل، فاء عاطفہ عَلِمُوا نفل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق الْحَقَّ اس کا اسم لِلَّهِ کائین کے متعلق ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عَلِمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، نفل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی، واو عاطفہ ضَلَّ نفل عَنْهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے مَا اسم موصول کَانُوا نفل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَفْتَرُونَ نفل با فاعل نفل ناقص کی خبر، نفل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلا، موصول با صلا ضَلَّ کا فاعل، نفل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہا، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوف ہوا۔

﴿۴۵﴾ رکوع نمبر ۸ ﴿۴۴﴾

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۶: اِنَّ حرف تحقیق قَارُونَ اس کا اسم كَانَ نفل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مِنْ قَوْمِ مُوسَى کائین کے متعلق ہو کر

خبر، نفل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، فاء عاطفہ بَغَى نفل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ اَتَيْنَاهُ نفل نا ضمیر فاعل اُ ضمیر مفعول بہ ازل مِنْ الْكُنُوزِ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال مقدم (منظری) مَا اسم موصول اِنَّ حرف تحقیق مَفَاتِحَهُ مرکب اضافی اس کا اسم لامر نہ حلقہ تَنُوءُ نفل ہی مستتر فاعل باء جار ما الْعُصْبَةِ موصوف اُولِي الْقُوَّةِ مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، اذ مضاف قان

فعل لہ متعلق، قَوْمُهُ مرکب اضافی فاعل سے مل کر قول، لَا تَفْعُخْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر مقولہ، قول یا مقولہ مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ فعل مخذوف اذْکُرْ کا مفعول بہ ہے، اور تَتَوَدَّ فعل بافاعل و متعلق اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہولیان حرف تحقیق اَللّٰہُ اسم لَا یُحِبُّ فعل ہو مستتر فاعل اَلْفَرِحِیْنَ مفعول بہ سے مل کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: واو عاطفہ اِبْتِغِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل فی جاہہ ما اسم موصول اَنْی فعل کاف ضمیر مفعول بہ اَللّٰہُ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہہ مجرور اِبْتِغِ کے متعلق ہوئے الدَّارَ الْآخِرَةَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَنْسَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل نَصِيبَكَ مرکب اضافی ذوالحال مِنْ الدُّنْيَا ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ أَحْسِنْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل کاف جاہہ ما مصدریہ أَحْسَنَ فعل اَللّٰہُ فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر تادیل مصدر مجرور، جاہہ مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخذوف اِحْسَانًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف یعنی، واو عاطفہ لَا تَبْغِ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل الْفُسَادَ مفعول بہ اور فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ نہی ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہولیان حرف تحقیق اَللّٰہُ اسم لَا یُحِبُّ فعل ہو مستتر فاعل الْمُفْسِدِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مَنَ الْقُرُونِ مَنَ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَسْكَنُ مَا جَعَلَهُ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق مَا کاف اُوتِيتُهُ فعل مجهول تاء مضمومہ ذوالحال عَلٰی حرف جاہہ موصوف عِنْدِي مرکب توصیفی تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جاہہ مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال نائب فاعل اُ ضمیر مفعول بہ، فعل مجهول ہائے فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہولہ حمزہ استفہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے عَلِمَ مَا اَدْعَاهُ، لَمْ يَعْلَمْ فعل ہو مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہُ اسم کاسم قد علامت فعل، اَهْلَكَ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ قَبْلِهِ جاہہ مجرور متعلق ہوئے، مِنْ الْقُرُونِ کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَن اسم موصول ہو ضمیر مبتدأ، اَشَدُّ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْهُ متعلق قُوَّةً تميز سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَسْكَنُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل جَمْعًا تميز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال اَهْلَكَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر لَمْ يَعْلَمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں واو اعتراضیہ

لَا يُسْتَلْفَعُ فِعْلٌ مَجْهُولٌ عَنْ ذُنُوبِهِمْ مَتعلقٌ الْمُنْجِرِ مُؤَنَّبٌ فاعلٌ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْكِنَّا لَمَثَلٌ مَّا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

آیت نمبر ۷۹: فَأَخْرَجَهُ خَرَجَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَدٌّ بِالْحَالِ فِي زِينَتِهِ كَانِتَا كَيْ مَتعلقٌ هُوَ كَرِحَالٍ بِذَوَالْحَالِ بِحَالٍ فاعلٌ عَلَى قَوْمِهِ جَدًا بِمَجْرُورٍ مَتعلقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَتعلقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ قَوْلٌ قَالَ الَّذِينَ اسْمٌ مُوصُولٌ يُرِيدُونَ فِعْلٌ وَأُوْضُمِيرٌ فاعلٌ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ قَالَ كَا فاعلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ قَوْلٌ بِبَاءٍ حَرْفٌ نِدَاءٌ تَائِمٌ مَقَامٌ أَدْعُوْكَ، أَدْعُوْ فِعْلٌ أَنَا مُسْتَرَدٌّ فاعلٌ، وَأُوْرٌ مِثْلَاوِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ مَحْذُوفٌ هُوَ قَوْمِيٌّ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ هِيَ كَرِصَلَةٍ كَانِتَا حَرْفٌ تَمْنِيٌّ لَمَثَلٌ مُسْتَرَدٌّ كَانِتَا كَيْ مَتعلقٌ هُوَ كَرِصَلَةٍ مُوقَدِّمٌ، مِثْلٌ مَضَافٌ مَّا اسْمٌ مُوصُولٌ أُوتِيَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ قَارُونٌ نَائِبٌ فاعلٌ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ مِثْلٌ كَامَضَافٍ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ اسْمٌ مُؤَخَّرٌ لَيْكِنَّا بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَوَابٌ نِدَاءٌ، نِدَاءٌ بِجَوَابٍ نِدَاءٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ بَوْلَانٌ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ وَضُمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ، لَمْ لَا مَذْمُومٌ مَضَافٌ حَظٌّ عَظِيمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ خَبْرٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ هِيَ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ (مَطْمَرِي)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝

آیت نمبر ۸۰: وَأُوْرٌ مِثْلٌ اسْمٌ مُوصُولٌ أُوتُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَأُوْضُمِيرٌ نَائِبٌ فاعلٌ الْعِلْمَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ فاعلٌ بِفَاعِلٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ قَوْلٌ وَيَلَكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِاقِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ الْوَيْلُ لَكُمْ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى وَ مَفْعُولِيْنٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْرُضَةٌ هِيَ تَوَابُ اللَّهِ مَرْكَبٌ اِضْطِاقِيٌّ مَتَعَدٌّ خَيْرٌ اسْمٌ تَفْضِيلِيٌّ هُوَ مَسْتَرَدٌّ لَمْ لَا مَذْمُومٌ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مَتعلقٌ هُوَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ صَالِحًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ مِثْلٌ كَامَضَافٍ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ اسْمٌ مُؤَخَّرٌ لَيْكِنَّا بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَوَابٌ نِدَاءٌ، نِدَاءٌ بِجَوَابٍ نِدَاءٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ بَوْلَانٌ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ وَضُمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ، لَمْ لَا مَذْمُومٌ مَضَافٌ حَظٌّ عَظِيمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ خَبْرٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ هِيَ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ (مَطْمَرِي)

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ - فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ فِئَةٍ يَنْصُرُوْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝

آیت نمبر ۸۱: فَأَخْرَجَهُ خَرَجَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَدٌّ بِالْحَالِ فِي زِينَتِهِ كَانِتَا كَيْ مَتعلقٌ هُوَ كَرِحَالٍ بِذَوَالْحَالِ بِحَالٍ فاعلٌ عَلَى قَوْمِهِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مَتعلقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَتعلقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ قَوْلٌ قَالَ الَّذِينَ اسْمٌ مُوصُولٌ يُرِيدُونَ فِعْلٌ وَأُوْضُمِيرٌ فاعلٌ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ قَالَ كَا فاعلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ قَوْلٌ بِبَاءٍ حَرْفٌ نِدَاءٌ تَائِمٌ مَقَامٌ أَدْعُوْكَ، أَدْعُوْ فِعْلٌ أَنَا مُسْتَرَدٌّ فاعلٌ، وَأُوْرٌ مِثْلَاوِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ مَحْذُوفٌ هُوَ قَوْمِيٌّ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ هِيَ كَرِصَلَةٍ كَانِتَا حَرْفٌ تَمْنِيٌّ لَمَثَلٌ مُسْتَرَدٌّ كَانِتَا كَيْ مَتعلقٌ هُوَ كَرِصَلَةٍ مُوقَدِّمٌ، مِثْلٌ مَضَافٌ مَّا اسْمٌ مُوصُولٌ أُوتِيَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ قَارُونٌ نَائِبٌ فاعلٌ سَلٌّ كَرِصَلَةٍ مُوصُولٌ بِاسْمٍ مِثْلٌ كَامَضَافٍ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ اسْمٌ مُؤَخَّرٌ لَيْكِنَّا بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَوَابٌ نِدَاءٌ، نِدَاءٌ بِجَوَابٍ نِدَاءٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ بَوْلَانٌ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ وَضُمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ، لَمْ لَا مَذْمُومٌ مَضَافٌ حَظٌّ عَظِيمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ إِلَيْهِ خَبْرٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ هِيَ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هِيَ (مَطْمَرِي)

کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم من جارہ زائدہ، فیتۃ موصوفہ یَنْصُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف بہ صفت ذوالحال من دُونَ اللّٰہِ کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مَعْلَم فروع اسم مؤخر، کان ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔ واؤ عاطفہ مَا نافیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم من الْمُنتَصِرِينَ جار باجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءٌ وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: واؤ عاطفہ أَصْبَحَ فعل ناقص الَّذِينَ اسم موصول تَمَتُّوا فعل واؤ ضمیر فاعل مَكَانَهُ مرکب اضافی مفعول بہ بِالْأَمْسِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اسم يَقُولُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، وہی اسم فعل بمعنی اَتَعَجَّبَ، انا مستتر فاعل کاف جار مان حرف تحقیق اللّٰہ اس کا اسم يَبْسُطُ فعل ہو مستتر فاعل الرِّزْقِ مفعول بہ، لام جارہ من موصولہ يَشَاءُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من عِبَادِهِ کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار باجرور يَبْسُطُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَقْدِرُ فعل باہو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے اسم فعل وہی کے، اسم فعل بافاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَوْ لَا حرف امتناع اَنْ ناصبہ من فعل اللّٰہ فاعل عَلَيْنَا متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مبتدا، خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدا با خبر شرط، لام جوابیہ خَسَفَ فعل ہو مستتر فاعل بِنَاءٌ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں وہی اسم فعل بمعنی فعل مضارع اَتَعَجَّبَ کے انا مستتر فاعل کاف جار مان حرف تحقیق ہا ضمیر اسم لَا يُفْلِحُ فعل الْكَافِرُونَ فاعل سے مل کر خبر، اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۸۲ ﴾ رکوع نمبر ۹ ﴿ ۸۱ ﴾

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: تِلْكَ اسم اشارہ مبدل منہ، الدَّارُ موصوفہ الْآخِرَةُ صفت، موصوف بہ صفت بدل، مبدل منہ بابدل مبتدا، نَجْعَلُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، لام جارہ الَّذِينَ اسم موصول لَا يُرِيدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل عُلُوًّا موصوفہ فِي الْأَرْضِ کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا زائدہ فَسَادًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا يُرِيدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مجرور جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واؤ عاطفہ الْعَاقِبَةُ مبتدا، لِلْمُتَّقِينَ جار باجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لہ جلد باجرور
کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم خَيْرٌ اس تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْهَا جلد باجرور متعلق، تینوں مل کر مبتدا موخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط
باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اس شرط مبتدا جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالسَّيِّئَةِ متعلق
سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لَا يُجْزَى فعل مجہول الذین اسم موصول عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل السَّيِّئَاتِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول
ہاصلہ نائب فاعل الْأَرْفِ اسثناء مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اسم
و خبر صلہ، موصول ہاصلہ مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،
معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِي اسم موصول فَرَضَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْكَ متعلق الْقُرْآنَ مفعول بہ سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ إِنَّ کا اسم، لام مذ حلقہ رَادُّ اسم فاعل مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، اِلَىٰ مَعَادٍ متعلق سے مل کر خبر، إِنَّ با
اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قُلْ فعل اِرَادَتْ مستتر فاعل سے مل کر قول، رَبِّي مرکب اضافی مبتدا اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل
مَنْ اسم موصول جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالْهُدَىٰ متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم موصول
ہو ضمیر مبتدا، فِي جملہ ضلالٍ مُّبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جلد باجرور کائون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر صلہ، موصول ہاصلہ
معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَعْلَمُ کا مفعول بہ، اسم تفضیل ہا فاعل و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول ہا مقولہ
جملہ انشائیہ امریہ ہوں

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنَّ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا
لِّلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: واو استینافیہ مَا نافیہ كُنْتَ فعل ناقص تَاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم تَرْجُو فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ ناسبہ یُلْقَىٰ فعل
مجہول اِلَيْكَ جلد باجرور متعلق ہوئے، الْكِتَابُ نائب فاعل اِلَا حرف اسثناء رَحْمَةً موصوفہ مِنْ رَبِّكَ کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت،
موصوفہ ہا صفت مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول بہ بتاویل مصدر تَرْجُو کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ
فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو لفاء نصیحہ اور اس کی شرط مخذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ،
لَا تَكُونَنَّ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم ظَهِيرًا صیغہ صفت اَنْتَ مستتر فاعل لِّلْكَافِرِينَ متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر

جملہ انتہائی نہیہ جزمہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: واؤ عاطفہ لَا يَصُدُّكَ نَفْعٌ وَاؤ محذوفہ فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، عَنْ آیات اللہ جار مجرور متعلق ہوئے، بَعْدَ مضاف اِذْ مضاف اَنْزَلْتُ نَفْعٌ مجہول ہی مستتر فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَصُدُّكَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فاعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ انتہائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَدْعُ نَفْعٌ امر آت مستتر فاعل اِلَى رَبِّكَ متعلق سے مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا تَكُونَنَّ نَفْعٌ ناقص آت مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُشْرِكِينَ کائنا کے متعلق ہو کر خبر، نَفْعٌ ناقص با اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ كُنَّ شَيْءٌ هَآلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ طَلَهُ الْحُكْمُ وَ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: واؤ عاطفہ لَا تَدْعُ نَفْعٌ نَمِ آت مستتر فاعل مَعَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلَهٌ آخَرَ مرکب تو صیغی مفعول بہ، فاعل با فاعل و مفعولین جملہ انتہائیہ نہیہ ہوا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کی ترکیب سورۃ مزمل میں دیکھیں اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ کُنَّ شَيْءٌ مرکب اضافی مبتدأ، هَآلِكَ اسم فاعل هُوَ مستتر مستثنیٰ منہ، اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ وَجْهَهُ مرکب اضافی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ فاعل، اسم فاعل با فاعل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوا۔ لَہُ جار مجرور طرف مستتر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْحُكْمُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تُرْجَعُونَ نَفْعٌ مجہول وَاؤ ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطلہ ہوں۔



ترکیب سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اللّٰهُ اَحْسِبُ النَّاسَ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱: اللّٰہی خبر ہے مبتدا مخدوفِ ہذہ کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ ہمزہ کا استفہامیہ حسبِ فعل النَّاسِ فاعل اَنْ ناصب یُتْرَكُوْا فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہُمْ ضمیر مبتدا، لَا یُفْتَنُوْنَ فعل مجہول باو ضمیر نائب فاعل خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل اَنْ ناصب یَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، اٰمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر منصوب بزعم الخافض یہ اصل میں لائن ہے جار باخبر در متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر حسب کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَ لِیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ۝

آیت نمبر ۳: واو عاطفہ لام موطئہ للقسم قد علامت فعل، فَتَنَّا فعل نا ضمیر فاعل الَّذِیْنَ اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ ظرف مستقر ثَبَتُوْا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ فقاء عاطفہ لام موطئہ للقسم یَعْلَمَنَّ فعل اللّٰہ فاعل الَّذِیْنَ صَدَقُوْا موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف علیہ، واو عاطفہ لام موطئہ للقسم اور قسم مخدوف ہے یَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ فعل با فاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاَتِ اَنْ یُّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۴: اَمْ متعلق حسبِ فعل الَّذِیْنَ اسم موصول یَعْمَلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل السَّیِّاَتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل اَنْ ناصب یُسْبِقُوْا فعل واو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر حسب کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہوں۔ سَآءَ فعل ذم ہو مستتر میز ما موصوفہ یَحْكُمُوْنَ فعل باو ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت محلاً منصوب تمیز، میز با تمیز سَآءَ کا فاعل، فعل با فاعل خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے حُكْمُهُمْ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں۔

مَنْ كَانَ یُرِیْ جُؤا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا تَدْرٰکُ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

آیت نمبر ۵: مَنْ اسم شرط مبتدا، كَانَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم یُرِیْ جُؤا فعل ہو مستتر فاعل لِقَاءَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، كَانَ اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائمیہ ان حرف تحقیق اَجَلَ اللّٰهِ

مرکب اضافی اس کا اسم، لام نہ حلقہ ات خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور استثنائیہ ہو ضمیر مبتدا، اَلسَّبِيحُ الْعَلِيْمُ اس کی دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ①

آیت نمبر ۶: واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدا، جَاهِدَ فعل باہو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق مَآ کا فہ جَاهِدُ فعل ہو مستتر فاعل لِنَفْسِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ان حرف تحقیق اَللّٰهُ اس کا اسم، لام نہ حلقہ غَنِيٌّ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَنِ الْعَالَمِينَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہوں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ①

آیت نمبر ۷: واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ منصوب بالکسرہ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا، لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے نَكْفِرَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَنْهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے سَيِّئَاتِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف علیہ، واو عاطفہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے نَجْزِيَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، أَحْسَنَ اسم تفضیل الَّذِي اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فعل با واو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ یعنی، فعل با فاعل و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ ①

آیت نمبر ۸: واو استثنائیہ وَصَّيْنَا فعل نَا ضمیر فاعل الْإِنْسَانَ مفعول بہ بِوَالِدَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے حُسْنًا بواسطہ موصوف محذوف کو صیغۃ کے مفعول مطلق ہوا، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ ان شرطیہ جَاهِدَا فعل الف ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، لام جارہ اسکے بعد ان مقدر ہے تُشْرِكَ فعل أَنْتَ مستتر فاعل بی جار مجرور متعلق ہوئے مَا اسم موصول لَيْسَ فعل ناقص لَكَ جار مجرور کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عِلْمٌ مصدر بہ جار مجرور متعلق متعلق مقدم، مصدر با متعلق مقدم اسم مؤخر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ تُشْرِكَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لَا تُطِعْ فعل نَحْنُ أَنْتَ مستتر فاعل هُنَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِلَىٰ جار مجرور کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَرْجِعِكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف

علیہ، فاء عاطفہ اَنْتَبُوْا فعل انا مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بآء جادہ ما موصولہ کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُوْنَ فعل باو او ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جادہ با مجرور اَنْتَبُوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ①

آیت نمبر ۹: واو استینافیہ الَّذِينَ اس موصول آمَنُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، لاہ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے نُدْخِلَنَّهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی الصَّالِحِينَ جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ②

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ مِنْ حرف جر النَّاسِ مجرور، جادہ با مجرور كَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّن موصول یَقُولُ فعل باو مستتر فاعل قول، آمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل بِاللَّهِ متعلق سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاء عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، اُوذِيَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل فی اللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل فِتْنَةَ النَّاسِ مرکب اضافی مفعول بہ اول، کاف جادہ عَذَابِ اللہ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور مفعول بہ ثانی کی جگہ میں ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ لاہ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اِنْ شرطیہ جَاءَ فعل نَصْرٌ موصوف مِّن رَّبِّكَ كَانُوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَيَقُولُنَّ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مَعَكُمْ ظرف مستقر كَانُوا کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہوں اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے۔ ہمیزہ استقہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے نَافِقُوْا وَلَا يَخْفَىٰ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ (مظہری) لَيْسَ فعل ناقص اللہ اس کا اسم بآء زائد ما عَلِمَ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل بآء جادہ ما موصول فی صُدُورِ الْعَالَمِينَ ظرف مستقر ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر محلاً منصوب خبر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ③

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے یَعْلَمَنَّ فعل اللہ فاعل الَّذِينَ اَمَنُوا موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، واو عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے یَعْلَمَنَّ فعل هو مستتر فاعل الْمُتَافِقِينَ مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلِنَحْمِلُ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۲: واو استینافیہ قَالَ فعل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ فاعل لام جارہ الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ مجرور، جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اتَّبِعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سَبِيلَنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِنَحْمِلُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل خَطِيئَتَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو اعتراضیہ مَا حَاجِبِيهِمْ ضَمِيرٌ مَعْلَمٌ مَرْفُوعٌ اس کا اسم بآء جارہ زائدہ حَامِلِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل مِنْ جارہ خَطِيئَتُهُمْ مرکب اضافی مجرور، جارہ با مجرور کَاذِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ زائدہ شَيْءٍ عَلًّا منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، اسم فاعل بافاعل ومفعول بہ عَلًّا منصوب مَا کی خبر، مَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لام نہ حلقہ کَذِبُونَ اسم فاعل با هُمْ ضمیر فاعل خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَلِيَحْمِلَنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَاثْقَالَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ كَاثْقَالَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ يَحْمِلَنَّ كَاثْقَالَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ يَحْمِلَنَّ مَجْهُولٌ وَاوْضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ نَائِبٌ فاعل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ، عَنْ جَارِهِ مَوْصُولٌ كَاثْقَالَهُمْ فاعل ناقص وَاوْضَمِيرٌ اس کا اسم يَفْتَرُونَ فاعل باو فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائِبٌ فاعل ومفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

● رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۲ ●

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَئِبَتَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۳: واو استینافیہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل نُوحًا مفعول بہ اِلَى قَوْمِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاءٌ عاطفہ لِبَتَ فعل هو مستتر فاعل فِيهِمْ جارہ با مجرور متعلق ہوئے، اَلْفَ سَنَةً

مرکب اضافی مستثنیٰ منہ، الأحراف استثناءً خَئِيسِينَ عَامًا مِيزًا تَمِيزٌ مِثْلِي، مِثْلِي مِنْهُ بِمِثْلِي مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعْلُقٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلُ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ أَخَذَ فِعْلٌ هُمُ ضَمِيرٌ ذُو الْجَمَالِ وَأُو حَالِيَةٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ ظَايِرٌ خَبَرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ حَالٌ، ذُو الْجَمَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهَذَا الْقَوْلَانِ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ فِيهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ جَوَابٌ قِسْمٌ، قِسْمٌ بِجَوَابٍ قِسْمٌ جُمْلَةٌ انشائية قِسْمِيَّةٌ هِيَ۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ أَنْجَيْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، وَأُو بِمَعْنَى مَعَ "أَصْحَابَ السَّفِينَةَ" مَرَكَبٌ إِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ مَعَهُ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأُو عَاطِفَةٌ جَعَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، أَوَّلُ آيَةٍ مَوْصُوفٍ لِلْعَالَمِينَ جَدًّا بِمَجْرُورٍ كَايِنَةٌ كَيْ تَعْلُقُ هِيَ كَرَمَتْ، مَوْصُوفٌ بِهَمَّتْ مَفْعُولٌ بِهِ، فِيهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ۔

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا لَهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: وَأُو اسْتِثْنَائِيَّةٌ إِبْرَاهِيمَ مَبْدَلٌ مِنْهُ إِذْ مَضَى قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لِقَوْمِهِ تَعْلُقٌ سَلْبٌ كَرَقُولُ، أَعْبُدُوا فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اللَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْبٌ كَر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأُو عَاطِفَةٌ اتَّقُوا فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْبٌ كَر مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ إِذْ كَامِنٌ إِلَيْهِ، مَضَى بِمَضَى إِلَيْهِ بَدَلٌ، مَبْدَلٌ مِنْهُ بِبَدَلٍ مَفْعُولٌ بِهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ أَذْكَرُ كَأَنَّ لَكُمْ اسْمٌ اِشْرَاحٌ مَبْتَدَأٌ، خَيْرٌ اسْمٌ تَفْضِيلٌ بِهُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَكُمْ تَعْلُقٌ سَلْبٌ كَر شَبْهٌ جُمْلَةٌ هِيَ كَر خَبَرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبَرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ، إِنْ شَرْطِيَّةٌ كُنْتُمْ فِعْلٌ نَا قِصْبٌ تُمْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ تَعْلَمُونَ فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ خَبَرٌ، فِعْلٌ نَا قِصْبٌ بِاسْمٍ وَخَبَرٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ كَر شَرْطٌ أَوْ اسْمٌ كِي جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هِيَ فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا، شَرْطٌ بِجَزَاءٍ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هِيَ۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ مَا كَانَتْ تَعْبُدُونَ فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَايِنَةٌ كَيْ تَعْلُقُ هِيَ كَر حَالٌ مَقْدَمٌ، أَوْثَانًا ذُو الْجَمَالِ مَوْخَرٌ، ذُو الْجَمَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأُو عَاطِفَةٌ تَخْلُقُونَ فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ إِفْكًا بِوَاسِطَةِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ تَخْلُقَا كَيْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ مُطْلَقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ، إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ تَعْبُدُونَ فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْبٌ كَر صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصِلَةٍ ذُو الْجَمَالِ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَايِنِينَ كَيْ تَعْلُقُ هِيَ كَر حَالٌ، ذُو الْجَمَالِ بِحَالٍ إِنْ كَا اسْمٌ، لَا يَمْلِكُونَ فِعْلٌ وَأُو ضَمِيرٌ فَاعِلٌ لَكُمْ تَعْلُقٌ مِثْلِيٌّ رِزْقًا بِمَعْنَى مَرْزُوقًا كَيْ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَتَعْلُقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ خَبَرٌ، إِنْ بِاسْمٍ وَخَبَرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ فَصِيحَةٌ أَوْ اسْمٌ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ إِذَا لَمْ يَمْلِكُوا لَكُمْ رِزْقًا، إِنْ اِخْتِجْتُمْ

إِلَىٰ هَيْبَةٍ، بِإِتِّغَاؤِ الْفِعْلِ امر واؤ ضمیر فاعل عِنْدَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اَلرِّزْقِ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اُعْبُدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ اَشْكُرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل لہ جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِلَيْهِ جاہ با مجرور متعلق مقدم تُزَجَّعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ط وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: واؤ عاطفہ ان شرطیہ تُكَذِّبُوا فعل با واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے فلا يَضُرُّنِي تُكَذِّبِيكُمُ، قَاءَ تملیہ قد علامت فعل، كَذَّبَ فعل اُمَّمٌ موصوف من قَبْلِكُمْ ظرف مستقر تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل بافاعل جملہ مطلقہ ہوا۔ واؤ استیغائیہ مَا نَانِيه مَانَانِيه عَلَى الرَّسُولِ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: هَمْزَة اسْتِفْهَامِيه واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَنْظُرُوا، لَمْ يَرَوْا معنی لَمْ يَعْلَمُوا فعل واؤ ضمیر فاعل كَيْفَ كَانِنَا کامفعول فیہ ہو کر بواسطہ اِنْدَاءِ مصدر کے مفعول مطلق مقدم، يُبْدِئُ فعل اَللَّهُ فاعل الْخَلْقِ مفعول بہ سے مل کر لَمْ يَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يُعِيدُهُ فعل باهُوَ مستتر فاعل کا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستافہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق ذَالِكِ اسم اشارہ اس کا اسم یَسِيرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلَى اللَّهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: قُلْ فعل امر اِنَّك مستتر فاعل سے مل کر قول، سِيرُوا فعل امر با واؤ ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ اَنْظُرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل كَيْفَ كَانِنَا کامفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف بَدَأَ کے مفعول مطلق مقدم، بَدَأَ فعل ہو مستتر فاعل الْخَلْقِ مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم سے مل کر اَنْظُرُوا کامفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ثُمَّ عاطفہ اَللَّهُ مُبْتَدَا يُنشِئُ فعل ہو مستتر فاعل النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق اَللَّهُ اس کا اسم عَلَىٰ جاہ كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جاہ با مجرور متعلق مقدم قَدِيرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ط وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: یَعَذِبُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ مِّنْ يَّشَاءُ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ يَزُجُّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ مِّنْ اسْمٍ مَوْصُولٍ يَّشَاءُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ يَزُجُّ كَمَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ اَلَيْهِ تُقْلِبُونَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِاِتِّسَابِ فَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ مَقْدَمٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جُمْلَةٌ مُسْتَنْفَذَةٌ يَأْتِي اِنَّ كِي خَبْرِيَّةٌ هِيَ وَوَاوُ يَقْدِرُ كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَعَالٌ هُوَ۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ

لَا نَصِيرٌ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۲: وَوَاوُ اسْتِثْنَائِيَّةٌ مَا جَارِيَةٌ اَنْتُمْ اس كَا اسْمٌ بِاَمَّ جَدَه زَلَّه مَعْجِزِينَ اس فاعل اَنْتُمْ ضمير ذوالحال في الارض جار باجرور معطوف عليه، وَاوُ عَاطِفَةٌ لَا زَلَّه فِي السَّمَاءِ جَارٌ بِاَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ كَائِنِينَ كے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اس فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر مَعْلًا منصوب خبر، مَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ مَا نَانِيَّةٌ لَكُمْ كَائِنِينَ كے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ حَرْفٌ جَارٌ دُونَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرُورٍ كَائِنِينَ كے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جَارَةٌ زَلَّه وَوَلِيٍّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ لَا زَلَّه فَتَصْبِيحٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَعْلًا مَرْفُوعٌ ذَالِحًا مَوْخِرٌ، ذَالِحًا بِاِحَالٍ مَبْتَدَا مَوْخِرٌ، مَبْتَدَا بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مُسْتَنْفَذَةٌ هُوَ۔

﴿۲۲﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴿۲۲﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسْأَوْنَ مِنْ رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

الْيَوْمِ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: وَوَاوُ عَاطِفَةٌ اَلَّذِينَ اس مَوْصُولٌ كَفَرُوا فَعْلٌ وَوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِاَمَّ حَرْفٌ جَرَّ اِيَّاتِ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ لِقَائِهِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرُورٍ كَفَرُوا كے متعلق ہوئے، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَبْتَدَا، اُولَٰئِكَ اس اِشْرَاحٌ مَبْتَدَا، يَسْأَوْنَ فَعْلٌ وَوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنْ رَّحْمَتِي متعلق سے مل کر جملہ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر، مَبْتَدَا بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ اُولَٰئِكَ اس اِشْرَاحٌ مَبْتَدَا، لَهُمْ كَائِنِينَ كے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ اَلْيَوْمِ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَبْتَدَا مَوْخِرٌ، مَبْتَدَا بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر مَبْتَدَا اَوَّلٌ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِاَجْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اَلَّذِينَ مَبْتَدَا كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: فَكَانَ عَاطِفَةٌ اَلَّذِينَ اس مَبْتَدَا، قَوْمِهِ كَان فَعْلٌ نَاقِصٌ جَوَابٌ قَوْمِهِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ خَبْرٌ مَقْدَمٌ، اِلَّا حَرْفٌ اسْتِثْنَائِيٌّ اَنْ نَاصِبٌ قَالُوا فَعْلٌ وَوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَعَالٌ، اَقْتُلُوهُ فَعْلٌ وَوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَعَالٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ عَاطِفَةٌ حَرِّقُوا فَعْلٌ وَوَاوُ

جہی کی جگہ میں ہے النبوۃ و الکتاب معطوف علیہ ہا معطوف مفعول بہ قول فعل باعل و مفعولین معطوفین ہوں وہا معطوفت فعل
 قاضیرہ علیہ ضمیر مفعول بہ اول ماجزہ مرکب اضافی ذوالحال فی الذنوب کا کثرت کے متعلق ہو کر حال ذوالحال جمل مفعول بہ معنی فعل
 باعل و مفعولین معطوف جہی معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوف ہوں او او معطوفین حرف تثنیہ ضمیر اس کا اسمی الاخریہ جہ
 باجزوہ متعلق مقدم اور عند مدح و تعریف کا کثرت کے متعلق ہو کر ان کی ضمیر اسم کامل ہے لام مدح معنی جہ و الصالحین اسم مفعول جملہ
 مستزہ علی: متعلق مقدم خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسیم خبریہ اثبتنا و اجزوا ہا پر معطوف ہے۔

و لَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاۤتُونَ الفَاۤجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ
 الْعٰلَمِيۡنَ ۝

آیت نمبر ۲۸: او او عطف لَوْ کا مبدل مراد مضاف کل فعل ہو مستزہ علی لِقَوْمِهِ متعلق سے مں کر قول بیان حرف تثنیہ
 کُمْ ضمیر اس کا اسم لام مدح لَقَوْلِهِمْ تَاۤتُونَ فعل و او ضمیر علی الفَاۤجِشَةَ ذوالحال مانہ سبقت فعل کُمْ ضمیر مفعول بہ یہاں جہ و خبر
 مُتَلَبِّسِيۡنَ کے متعلق ہو کر کُمْ ضمیر کامل ہوہ من جہ و زلہ واحد موصوف من الْعٰلَمِيۡنَ کثرت کے متعلق ہو کر صفت موصوف
 بہ صفت محلا مرفوع علی، فعل باعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال جہاں تَاۤتُونَ کا مفعول بہ، فعل باعل و مفعول بہ
 اِنَّ کی خبر بیان با اسم و خبر مقولہ، قول ہا مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف الیہ بدل مبدل من جہاں مفعول بہ ہو فعل مخذوف
 اذکر کہ

اِنَّكُمْ لَتَاۤتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيۡلَ ۝ وَ تَاۤتُونَ فِي نَادِيۡكُمْ الْمُنْكَرَ ۝ فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوۡا اٰتَيْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ۝

آیت نمبر ۲۹: ہم نے کہہ سنبھالیہ اِنَّ حرف تثنیہ کُمْ ضمیر اس کا اسم لام مدح تَاۤتُونَ فعل و او ضمیر علی اِنَّ جہاں

مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، او او عطف تَقْطَعُونَ فعل و او ضمیر علی السَّبِيۡلَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ او او عطف تَاۤتُونَ
 فعل و او ضمیر علی فی نَادِيۡكُمْ متعلق الْمُنْكَرَ مفعول بہ سے مل کر معطوف جہی معطوف علیہ ہا معطوفین اِنَّ کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ
 انتہیہ استفہامیہ ہو لقاہ استیانہ مانہ کان فعل ناقص جَوَابَ قَوْمِهِ مرکب اضافی خبر مقدمہ بالآخر استفہامیہ اِنَّ قَالُوۡا فعل
 با او ضمیر علی قول، اِنَّ فعل امر اِنَّ مستزہ علی قاضیرہ مفعول بہ بِعَذَابِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر مقولہ، قول ہا مقولہ بتو مل مصدر اسم
 موخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستزہ ہوں اِنَّ شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص تَاء مفتوحہ اس کا اسم من الصّٰدِقِيۡنَ کثرت
 کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزلہ مخذوف ہے فَاتَيْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ شرط باجزلہ
 جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ عَلٰى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيۡنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: قَالَ فعل با او مستزہ علی قول ہوں یہ اصل میں یا اِنِّیْ ہے اور یہ ندا ہے اَنْصُرْ فعل امر اِنَّ مستزہ علی نون

وَقَالِ كَايَا ضَمِير مفعول بہ علی جہد القوم المُفسدین مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۴ ●

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَعَثْنَا
أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فاستجاب اللہ دعاء لوط و أرسل ملائکة و أمرهم أن یبشروا إبراہیم، یا واو استینافیہ ہے لَمَّا ظرفیہ متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَتْ فعل رُسُلُنَا مرکب اضافی فاعل إِبْرَاهِيمَ مفعول بہ بِالْبُشْرَى متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم، مُهْلِكُوا اسم فاعل مضاف اهل مضاف الیہ مضاف ہذہ القریة مرکب توصیفی مضاف الیہ، اهل مضاف الیہ، اهل مضاف با مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اهلها مرکب اضافی اس کا اسم کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم ظالمین خبر سے مل کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

قَالَ اِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

آیت نمبر ۳۲: قَالَ فعل باو مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق فِيهَا كَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لُوطًا اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، نَحْنُ ضمیر مبتدئہ اَعْلَمُ اسم تفضیل نَحْنُ مستتر فاعل بآء جہد من اسم موصول فِيهَا ظرف مستقر ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ لآء موطئہ للقسم اور قسم مخدوف ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ واو بمعنی مع "اهلہ" مرکب اضافی مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثنا امْرَاَتَهُ مرکب اضافی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مفعول معہ، فعل با فاعل و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ کَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْغَابِرِينَ جہد با مجرور کَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا
تَحْزَنْ مَرَاتًا مُنْجُوكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

آیت نمبر ۳۳: واو استینافیہ لَمَّا مفعول فیہ مقدم اَنَّ زلذہ جَاءَتْ فعل رُسُلُنَا مرکب اضافی فاعل لُوطًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، سِيءَ فعل مجهول ہو مستتر فاعل بِهِمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ضَاقَ فعل ہو مستتر فاعل بِهِمْ

متعلق ذرّہا تیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو عاطفہ قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، لَاتَخَفْ فعل نہی بآنت مستتر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ لَاتَخُزْنَ فعل نہی بآنت مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مُنْجِبُونَ مرکب اضافی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہو۔ واو عاطفہ اَهْلُكَ مرکب اضافی مستثنیٰ منہ الا حرف استثناء اَمْرَاؤُكَ مرکب اضافی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مفعول بہ ہوا فعل محذوف تَنْتَبِیْ کا۔ (منظہری) کَاذِبٌ مِنَ الْقَاذِبِیْنَ کی ترکیب آیت سابقہ میں ابھی گزری ہے۔

اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مُنْزِلُونَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل علی جہہ اہلِ مضاف ہذیہ الْقَرْيَةِ مرکب توصیفی یا مبدل منہ بادل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے رِجْزًا موصوف من السَّمَاءِ کَاذِبًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، بناء جہہ ما اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَفْسُقُونَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی، اسم فاعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین شبہ جملہ ہو کر اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقیق تَرَكْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل مِنْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے آيَةً موصوف بَيِّنَةً صفت اولیٰ لام جارہ قَوْمٍ موصوف يَعْقِلُونَ فعل باو ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کَاذِبَةً کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا

تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ اِلَى جارہ مَدْيَنَ مجرور، جار با مجرور بواسطہ عطف کے متعلق ہوئے فعل محذوف اَرْسَلْنَاكَ، أَخَاهُمْ مرکب اضافی مبدل منہ شُعَيْبًا بادل، مبدل منہ بادل مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَالَ فعل با هو مستتر فاعل قول، یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے اَعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَللّٰهُ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْجُوا فعل واو ضمیر فاعل الْيَوْمَ الْآخِرَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَعْصُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مُفْسِدِينَ حال، ذوالحال باحال فاعل فِي الْاَرْضِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿۳۷﴾

موصول أَخَذَتْ فعل تاضمیر مفعول بہ الضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف
ہائی، واو عاطفہ مِنْهُمْ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول خَسَفْنَا فعل تاضمیر فاعل یہ متعلق الْاَرْضِ مفعول بہ سے مل
کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف ثالث، واو عاطفہ مِنْهُمْ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَنْ اسم
موصول اَعْرَفْنَا فعل تاضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف رابع، معطوف علیہ ہا معطوفات اربعہ
جزاء، شرط محذوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو عاطفہ مَا نَأْتِيهِمْ كَان فعل ناقص اللہ اس کا اسم لام جمدیہ اس کے بعد ان مقدر ہے يَطْلِمَهُ فعل هو مشترک فاعل هم ضمیر مفعول بہ،
تینوں مل کر مجرور، جار مجرور مَرِيدًا کے متعلق خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيَكُن حرف استدراک
مہملہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَطْلِمُونَ فعل باو ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا
اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوفہ ہوں

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ
اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

آیت نمبر ۳۱: مَثَلُ مضاف الَّذِينَ اسم موصول اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ کائن کے متعلق ہو کر حال
مقدم اَوْلِيَاءَ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مضاف الیہ، مضاف
بامضاف الیہ مبتدأ، کاف جارہ مَثَلِ مضاف الْعَنْكَبُوتِ ذوالحال اتَّخَذَتْ فعل ہی مشترک فاعل بَيْتًا ذوالحال واو حالہ اِنَّ حرف تحقیق اَوْهَنَ
الْبُيُوتِ مرکب اضافی اس کا اسم، لام مذ حلقہ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ مرکب اضافی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال
اتَّخَذَتْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مجرور، جار مجرور
ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں نہ شرطیہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَعْلَمُونَ فعل
باو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزء محذوف ہے لَمَّا عَبَدُوْهُا، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

آیت نمبر ۳۲: اِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم يَعْلَمُ فعل هو مشترک فاعل مَا اسم موصول يَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِهِ
کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جارہ زلذہ شَيْءٍ مَعْلًا منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ صلہ،
موصول ہاصلہ يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ هو ضمیر مبتدأ، الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ دو خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَتِلْكَ اَلْمَثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

آیت نمبر ۳۳: واو عاطفہ تِلْكَ اَلْمَثَالُ موصوف ہافت یا سبب منہ یا بدل مبتدأ، نَضْرِبُ فعل نحن مشترک فاعل ہا ضمیر
مفعول بہ لِلنَّاسِ جار مجرور متعلق، چاروں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَأْتِيهِمْ يَعْقِلُ فعل ہا ضمیر مفعول بہ، اِلَّا حرف استثناء، الْعَالِمُونَ

مستثنیٰ مفرغ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: خَلَقَ فعل اللہ ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ فِي ذَلِكَ كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لامر مذکورہ آیت موصوف لِلْمُؤْمِنِينَ كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر اِنَّ بِالْأَسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿ رُكُوعٌ ۵ ﴾

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: أَتْلُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مَا اسْم موصول اُوْحِيَ فعل مجهول هُوَ مستتر نائب فاعل إِلَيْكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْكِتَابِ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَقِمِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوفہ، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازع ہوں اِنَّ حرف تحقیق الصَّلَاةَ اس کا اسم تَنْهَىٰ فعل ہی مستتر فاعل عَنِ جَارَهُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوں، فعل بافاعل و متعلق اِنَّ کی خبر اِنَّ بِالْأَسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں واو عاطفہ لامر ابتدائیہ ذِكْرُ اللَّهِ مرکب اضافی مبتدأ، اَكْبَرُ اس تفضیل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَللَّهُ مبتدأ، يَعْلَمُ فعل هُوَ مستتر فاعل مَا اسْم موصول تَصْنَعُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ تعلیلیہ معطوفہ ہوں

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَوْلُوا
أَمَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهِنَا ۗ وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ ۗ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: اَوَاوِ اسْتِثْنَاءِ لَا تُجَادِلُوا فعل نَهَى وَاوِ ضمیر فاعل أَهْلَ الْكِتَابِ مرکب اضافی مفعول بہ اَلْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءِ بَاءَ جَارَهُ اَلَّذِينَ اسْم موصول هِيَ ضمیر مبتدأ، أَحْسَنُ اسْم تفضیل هِيَ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ من اَلْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءِ اَلَّذِينَ اسْم موصول ظَلَمُوا فعل وَاوِ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْهُمْ كَاثِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مجرور، جار مجرور مستثنیٰ مفرغ لَا تُجَادِلُوا کے متعلق ہوں، فعل نَهَى بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہوں واو عاطفہ قَوْلُوا فعل امر وَاوِ ضمیر فاعل سے مل کر قول، اَمَّا فعل تَا ضمیر فاعل بَاءَ جَارَهُ اَلَّذِينَ اسْم

موصول اَنْزَلَ فاعل مجهول هو مستتر نائب فاعل اَلَّذِيْنَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْزَلَ فاعل مجهول هو مستتر نائب فاعل اَلَّذِيْنَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے اَمَّا كَ، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلَّذِيْنَ متعلق اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلَّذِيْنَ متعلق اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، واو عاطفہ نَحْنُ ضمیر مبتدأ، مُسْلِمُونَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل له متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۙ فَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَ مِنْ هٰٓؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ ۙ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۷: واو استثنائیہ کذا لیک جار باجرور کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ انزالاً موصوف مذروف کے مفعول مطلق مقدم اَنْزَلْنَا فاعل نا ضمیر فاعل اَلَّذِيْنَ جار باجرور متعلق ہوئے اَلَّذِيْنَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فاء عاطفہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول اَتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَلَّذِيْنَ مفعول بہ ثانی سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، يُؤْمِنُوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ مِنْ هٰٓؤُلَاءِ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول يُؤْمِنُ مِنْ فاعل هو مستتر فاعل بہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال واو حالیہ مآنایہ یجحد فعل با آیاتنا جار باجرور متعلق ہوئے، اَلَّذِيْنَ استثناء اَلَّذِيْنَ مفعول مفرغ فاعل، فعل بافاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ مَا كُنْتُمْ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخْطُوْهُ بِمِيْنِكَ اِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْتَلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۸: واو عاطفہ مَا نافیہ كُنْتُمْ فعل ناقص تاہ مفتوحہ ضمیر اس کا اسم تَتْلُوْا فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل مِنْ قَبْلِهٖ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ جادہ زائدہ کتاب ملامتاً منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَخْطُوْا فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بناء جادہ بِمِيْنِكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف كُنْتُمْ کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔ اِذَا شرطیہ مہمل لام جوابیہ اِذَا تَاب فعل الْمُبْتَلُوْنَ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

بَلْ هُوَ اٰیٰتٍ يَّبِيْنٰتٍ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ۙ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا الظٰلِمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۹: بَلْ برائے اضراب هو ضمیر مبتدأ، آیات موصوف یبائنات صفت اولیٰ، فی حرف جر صُدُوْرِ مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول اُوْتُوْا فاعل مجهول واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ مآنایہ یجحد فعل با آیاتنا متعلق ہوئے اَلَّذِيْنَ استثناء الظٰلِمُوْنَ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل اَلْعِلْمَ مفعول بہ، فعل با نائب فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ صُدُوْرِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار باجرور کا تین کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ

مُبِينٌ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: واو استثنائیہ قالوا نعل باوا ضمیر فاعل قول، لولا حرف تفضیل اُنزِلَ نعل مجهول علیہ جہد باجرور متعلق ہوئے آیات موصوف من ربه طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت نائب فاعل، فعل مجهول بہ نائب فاعل و متعلق مقول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو قُلْ نعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، اِن حرف تحقیق مآ کاف آیات مبتداء عِنْدَ اللَّهِ کائنۃ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ اِن حرف تحقیق مآ کاف انا ضمیر مبتداء نَذِيرٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: ہمزہ استغہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے اَقْصَمَ مُحَمَّدًا لَمْ يَكْفِ نعل ہم ضمیر مفعول بہ اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَنْزَلْنَا نعل نا ضمیر فاعل عَلَيكَ جہد باجرور متعلق ہوئے اَلْكِتَابُ ذُو الْحَالِ يُثَلِّ نعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل عَلَيْهِمْ جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجهول بہ نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذو الحال بہ حال اَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بہ فاعل و متعلق و مفعول بہ اِن کی خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتادیل مفرد لَمْ يَكْفِ کا فاعل، فعل بہ فاعل و مفعول بہ لَقَدْ جملہ انشائیہ اور معنی جملہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مسافر ہوں اِن حرف تحقیق فِي ذَلِكَ طرف مستقر کائناتان کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ رَحْمَةً معطوف علیہ، واو عاطفہ ذِکْرَى موصوف لام جارہ قَوْمٍ موصوف يُؤْمِنُونَ نعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جہد باجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم مؤخر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿۵۱﴾ رُكُوعٌ ۶ ﴿۵۱﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ

آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: قُلْ نعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، كَفَىٰ نعل فعل بآء جارہ زلذہ، اَللَّهُ مَلَأَ مَرُوعَ فاعل بَيْنِي وَ بَيْنِكُمْ

اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَيْنِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ مقدم شَهِيدًا صیغہ صفت با هو مستتر فاعل و مفعول فیہ موصوف (مظہری) يَعْلَمُ نعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول فی جارہ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہد باجرور طرف مستقر نعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بہ فاعل و مفعول بہ صفت، موصوف بہ صفت کَفَىٰ کی تہیز ہے، فعل بہ فاعل و تہیز جملہ فعلیہ خبریہ مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو عاطفہ یا

استینافیه الذین اسم موصول اَمَّنُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل بِالْبَاطِلِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کَفَرُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل بِاللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ موصول باصلہ مبتدا اول، اُولَئِكَ مبتدا ثانی، هُمْ ضمیر فصل الْخَاسِرُونَ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ معطوف یا جملہ متانہ ہوں

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط وَ لَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَ لِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واؤ استینافیہ یَسْتَعْجِلُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بِالْعَذَابِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں، واؤ عاطفہ لَوْ لَا امتناعیہ عَجَلٌ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مبتدا، اور اس کی خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدا باخبر شرط، لام جوابیہ جَاءَ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الْعَذَابِ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں، واؤ عاطفہ لام موطئہ القسم اور قسم ہے لِيَأْتِيَنَّهُمْ فعل ہو مستتر ذوالحال بَغْةٌ حال، ذوالحال باحال فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال واؤ حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يَشْعُرُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط وَ إِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يَخْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ط وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۴، ۵۵: یَسْتَعْجِلُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ بَاء حرف جر الْعَذَابِ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوں، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، واؤ استینافیہ اِن حرف تحقیق جَهَنَّمَ اس کا اسم لام نہ طاقہ مُحِيطَةٌ اسم فاعل ہی مستتر فاعل بِالْكَافِرِينَ جار با مجرور متعلق ہوں، یَوْمَ مضاف یَخْشَوْنَ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الْعَذَابِ ذوالحال مِنْ فَوْقِهِمْ جار با مجرور معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ موصول کا تبتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَقُولُ فاعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ذُوقُوا فاعل امر واؤ ضمیر فاعل مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فاعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ ذُوقُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ موصول کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِن آرِضِي وَاسِعَةٌ فَايَايَ فَاغْبُدُونِ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: بَاء حرف نداء قائم مقام آدَعُوْكَ، آدَعُوْ فاعل انا ضمیر مستتر فاعل عِبَادِي مرکب انشائی موصوف الذین اسم موصول اَمَّنُوا فاعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ ہوا آدَعُوْكَ کا، آدَعُوْ فاعل بافاعل و مفعول بہ

جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، ان حرف تحقیق اَوْضَعُ مرکب اضافی منصوب تقدیر اِنَّ کاسم، وَاَسِعَتْ خَبْر اِنَّ با اسم و خبر ہوا اسمیہ خبریہ، ذکر جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں، فَاِیَّ اِیَّ اس کی اصل عبادت ہے فَاَعْبُدُوا اِیَّ اِیَّ، فَاء نسیبہ اور اس کے شرط محذوف ہے اِنَّ ضَاقَتْ عَلَیْكُمْ اَرْضُكُمْ، اَعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اِیَّ اِیَّ مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ مفسر، فَاء زائد اَعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر محذوف مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ مفسر، مفسر، مفسر، جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ قَدْتُمْ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: کُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی مبتداء، ذَائِقَةُ الْمَوْتِ مرکب اضافی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ تُرْجَعُونَ عاطفہ تُرْجَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَيْنَا متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۵۸﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۸، ۵۹: وَاِستئنافیہ الَّذِيْنَ اِسْم موصول اٰمَنُوا فعل باواو ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل اَلصّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتداء، لامر موطرہ، القسم اور قسم محذوف ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فعل مستتر فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال خَالِدِيْنَ اِسْم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيْهَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مِنَ الْجَنَّةِ ظرف مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم غُرَفًا موصوف تَجْرِي فعل مِنْ تَحْتِهَا جار مجرور متعلق ہوئے اَلْاَنْهَارُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال لَنُبَوِّئَنَّهُمْ کا مفعول بہ ہیں، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم باجواب قسم خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، نِعْمَ فعل مدح اَجْرُ مضاف الْعٰمِلِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اِسْم موصول صَبَرُوْا فعل باواو ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاو عاطفہ عَلٰى رَبِّهِمْ جار مجرور متعلق مقدم يَتَوَكَّلُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت اَجْرُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ نِعْمَ کا فاعل، فعل بافاعل خبر، مخصوص بالمدح مبتداء محذوف ہے اَجْرُهُمْ، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں۔

وَكَٰلٰٓئِيْنَ مِّنْ دَآٓئِبٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاَيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: وَاِستئنافیہ كَالِيْنَ خبریہ میز من جاہ دَآئِبٍ موصوف لَا تَحْمِلُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل رِزْقُهَا مرکب اضافی اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور تَمِيْز مبتداء اول، اَللّٰهُ مبتداء ثانی، يَرْزُقُ فعل مستتر فاعل هَا ضمیر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اَيَّاكُمْ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتداء اول کی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، وَاِستئنافیہ هُوَ ضمیر مبتداء، السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ دو خبر، مبتداء با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ج
فَأَنى يُؤْفَكُونَ ⑩

آیت نمبر ۶۱: واؤ استیضائیہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ سَأَلْتِ فاعل تَاء مفتوح ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول مَنْ استفہامیہ مبتدأ، خَلَقَ فاعل هُوَ مستتر فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ بالمعطوف مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سَخَّرَ فاعل هُوَ مستتر فاعل الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ معطوف علیہ بالمعطوف مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف خبر، مبتدأ باخبر جملہ انشائیہ ملامنصوب مفعول بہ یعنی، فاعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، لام جوابیہ یَقُولَنَّ فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، اللَّهُ فاعل ہے فعل محذوف خَلَقَ کا، فاعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مقول، قول، یا مقولہ جواب قسم ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا فاء نصیبہ شرط محذوف ہے إذا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بیان صَرَفَهُمُ الْهَوَى، اُنّی استفہامیہ مفعول فیہ مقدم یُؤْفَكُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑪

آیت نمبر ۶۲: اللَّهُ مبتدأ، يَبْسُطُ فاعل هُوَ مستتر فاعل الرِّزْقَ مفعول بہ، لام جزاءه مِنْ موصوایہ یَشَاءُ فاعل باهو مستتر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ عِبَادِهِ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد باجرور یَبْسُطُ کے متعلق ہوئے، فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَقْدِرُ فاعل هُوَ مستتر فاعل لَهُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اِنْ حرف تحقیق اللَّهُ اس کا اسم بئاء جارہ کُنْ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور متعلق مقدم عَلِيمًا صیغہ مفت هُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم خبر، اِنْ باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ أَقْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑫

آیت نمبر ۶۳: واؤ عاطفہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ سَأَلْتِ فاعل تَاء مفتوح ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول مَنْ استفہامیہ مبتدأ، نَزَّلَ فاعل هُوَ مستتر فاعل مِنَ السَّمَاءِ کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَاءً ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال نَزَّلَ کا مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ أَحْيَا فاعل هُوَ مستتر فاعل بہ جاد باجرور متعلق اول، الْأَرْضَ مفعول بہ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا جاد باجرور متعلق یعنی، فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول بہ یعنی، فاعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، لام جوابیہ یَقُولَنَّ اللَّهُ کی ترکیب ابھی گزری ہے، پھر یہ قول یا مقولہ جواب قسم ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا، قُلْ فعل امر باآت مستتر فاعل قول، الْحَمْدُ مبتدأ، لِلَّهِ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا، بَلْ برائے اضرب

اِسْمٌ هُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِي مَبْتَدَا لَا يَعْقِلُونَ فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَاثْنَةٌ هُوَ

﴿ رُكُوعٌ نَحْوُهُ ﴾

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ ۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوَانُ ۗ لَوْ كَانُوْا

يَعْلَمُوْنَ ﴿

آیت نمبر ۶۳: واؤ استثنائیہ ما تانیہ ہذیہ اسم اشدہ موصوفہ الحیوۃ الدنیٰ مرکب توصیفی صفت، موصوفہ باصفت مبتدا، اَلْحَرْفُ اسْتِثْنَاءٌ لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ وَاوَاوَا عَاطِفَةٌ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقُ الدَّارِ الْاٰخِرَةَ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ اِسْمٌ كَالاِسْمِ لَمْ يَدْخُلْ هِيَ مَبْتَدَا، اَلْحَيٰوَانُ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ كِي خَبْرٌ، اِنَّ بِالْاِسْمِ وَخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لَوْ شَرْطِيَّةٌ كَانُوْا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَاوَا ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَالاِسْمِ يَعْكَلُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِالْاِسْمِ وَخَبْرٍ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْشٌ، اِسْمٌ كِي جَزَاءٌ مَحذُوفٌ هِيَ لَمَّا اَتَتْهُمُ وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ فَلَمَّا نَجَّيْتَهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ

يُشْرِكُوْنَ ﴿

آیت نمبر ۶۵: فاء استثنائیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم رَكِبُوْا فِعْلٌ وَاوَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي الْفُلْكِ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْشٌ، دَعَوُا فِعْلٌ وَاوَا ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ مُخْلِصِيْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ مُسْتَرْتَفِعٌ لَهٗ مُتَعَلِّقٌ اَلدِّيْنَ مَفْعُولٌ بِهٖ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو الْحَالِ بِحَالٍ فَاعِلٌ اَللّٰهُ مَفْعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ فَاءٌ عَاطِفَةٌ لَمَّا جَازِمَةٌ شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيہٗ مُقَدَّمٌ، نَجَّيْتَهُمْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اِلَى الْبَرِّ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، اِذَا مُفَاجِئَةٌ مَفْعُولٌ فِيہٗ مُقَدَّمٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَبْتَدَا يُشْرِكُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيہٗ مُقَدَّمٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَاثْنَةٌ هُوَ

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ ۗ وَلَا لِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿

آیت نمبر ۶۶: لام "کی" جارہ یكفروا فِعْلٌ وَاوَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ، مَوْصُولٌ بِاصْلٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ يَكْفُرُوْا كَيْ جَارٌ يَكْفُرُوْا كَيْ جَارٌ يَتَمَتَّعُوْا فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَا عَاطِفَةٌ لَامٌ "کی" جارہ يَتَمَتَّعُوْا فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ ظَرْفٌ لَفِي يَشْرِكُوْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَاءٌ اسْتِثْنَائِيَّةٌ سَوْفَ عَلَامَتٌ فِعْلٌ، يَعْكَلُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمِنًا ۗ وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُوْنَ ۗ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿

آیت نمبر ۶۷: ہمز تاسفہا مبیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَنْظُرُوْا لَمْ يَرَوْا بِمَعْنَى لَمْ يَعْكَلُوْا فِعْلٌ وَاوَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ نَا ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَالاِسْمِ جَعَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَكَّةٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَوَّلٌ مَحذُوفٌ هِيَ، حَرَمًا اَمِنًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهٖ

یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد لَمْ یَزُوْا کے دو منہول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ جملہ مستانہ انشائیہ اور معنی جملہ خبریہ ہو۔ واو عاظفہ یَتَخَفُّوْنَ فعل مجہول الْتَأْسُ ذوالحال مِنْ حَوْلِهِمْ کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول، نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَمْ یَزُوْا کے فاعل سے حال ہے۔ ہمزہ استفہامیہ فاء عاطفہ بِالْبَاطِلِ جادہ باجرور یُؤْمِنُوْنَ کے متعلق مقدم یُؤْمِنُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل و متعلق مقدم معطوف علیہ، واو عاطفہ بَاءُ جادہ نِعْمَتِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور متعلق مقدم یُكْفِرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ؕ الْيَسَّ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: واو استینافیہ مِنْ استفہامیہ مبتدأ، اَظْلَمُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْ جادہ مِنْ موصولہ افْتَرَىٰ فعل ہو مستتر فاعل عَلَى اللّٰهِ جادہ باجرور متعلق ہوئے کَذِبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَذَّبَ فعل ہو مستتر فاعل بِالْحَقِّ متعلق لَمَّا ظرفیہ مضاف جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل ؕ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصولہ با صلہ مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استینافیہ ہو۔ ہمزہ استفہامیہ لَیْسَ فعل ناقص فِي جَهَنَّمَ جادہ باجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَثْوًى موصوفہ لِّلْكَافِرِينَ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: واو استینافیہ الَّذِينَ اسم موصول جَاهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل فِينَا متعلق سے مل کر صلہ، موصولہ با صلہ مبتدأ، لام موطنہ لل قسم اور قسم محذوف ہے نَهْدِيَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ سُبُلِنَا مرکب اضافی مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہو۔ واو عاظفہ ان حرف تحقیق اللّٰہ کا اسم لام مذحلہ مَعَ الْمُحْسِنِينَ مرکب اضافی کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

ترکیب سُورَةُ الرُّومِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ غَلَبَتْ الرُّومُ ۝ فِیْ اٰذْنِی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ
بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳: اَلَمْ غَلَبَتْ الرُّومُ ۝ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ غَلَبَتْ فعل مجہول الرُّومُ نائب فاعل فی حرف جار اَذْنِی الْاَرْضِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، مِنْ جارہ بَعْدِ غَلَبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم سینین علامت فعل، یَغْلِبُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ ابتدائیہ ہوا۔

آیت نمبر ۴، ۵: فِیْ اٰذْنِی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوا۔ واو عاطفہ مِنْ بَعْدِ جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو اس کا لائن کے متعلق ہے جو خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوا۔ واو عاطفہ یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم یَفْرَحُ فعل الْمُؤْمِنُوْنَ فاعل بَاء حرف جار نَصْرِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا۔ یَنْصُرُوْهُ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ اِسْم موصول یَشَاءُ فعل با هو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اس کی دو خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَعَدَّ اللّٰهُ ۙ لَا یُخْلِیْ اللّٰهُ وَعَدَّ ۙ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۶: وَعَدَّ اللّٰهُ مرکب اضافی ذوالحال لَا یُخْلِیْ فعل اَللّٰهُ فاعل وَعَدَّ ۙ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لٰكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرَ النَّاسِ مرکب اضافی اس کا اسم لَا یَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لٰكِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے وَعَدَّ اللّٰهُ سے، ذوالحال باحال فعل محذوف وَعَدَّ ۙ مفعول مطلق ہے۔

یَعْلَمُوْنَ ظٰهِرًا مِّنَ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا ۙ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۷: یَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ظٰهِرًا مِّنَ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کا لائن کے متعلق ہو کر ظٰهِرًا کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ

ضمیر مؤکد اور ہُمْ ضمیر ثانی تاکید، مؤکد تاکید مبتدا، عن الأخریۃ جار مجرور متعلق مقدم غافلون اسم فاعل ہُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہو۔

أَوْ لَمْ يَتَّفَكِرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسْتَقَيٍّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۸: ہمزہ استفہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے اَقْصَرُوا نَظْرَهُمْ عَلٰی ظَاهِرٍ مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، لَمْ يَتَّفَكِرُوا فاعل واو ضمیر فاعل فِي أَنفُسِهِمْ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متانفہ ہو۔ مَا نَافِي خَلَقَ فاعل اللَّهُ فاعل السَّمَوَاتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْاَرْضَ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ كَامْفَعُولٍ فِيهِ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ذوالحال إِلَّا حرف استثناء بقاء جار بالحق معطوف علیہ، واو عاطفہ أَجَلٍ مُّسْتَقَيٍّ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر مَقْرُونَةٌ کے متعلق ہو کر حال (منظہری) ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ واو استثنائیہ ان حرف تحقیق كَثِيرًا موصوف من النَّاسِ ظرف مستقر كَثِيرًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت ان کا اسم بقاء جار بِلِقَائِهِمْ رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم، لامر مذ حلقہ كَافِرُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ؕ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِلَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۹: ہمزہ استفہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے لَمْ يَخْرُجْ أَهْلٌ مِّنْ دِيَارِهِمْ (منظہری) لَمْ يَسِيرُوا فاعل واو ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَنْظُرُوا فاعل واو ضمیر فاعل كَيْفَ كَانَتْ كَامْفَعُولٍ فِيهِ ہو کر کان کی خبر مقدم، کان فعل ناقص عَاقِبَةُ مضاف الَّذِينَ اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ ظرف مستقر فعل محذوف كَذَّبُوا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر يَنْظُرُوا كَامْفَعُولٍ فِيهِ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں كَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم أَشَدَّ اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل مِنْهُمْ متعلق قُوَّةً تَمِيزٌ سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَثَارُوا فاعل واو ضمیر فاعل الْأَرْضَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ عَمَرُوا فاعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل مِنْ جَارِهِ مَا اسم موصول عَمَرُوا فاعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور اس کے متعلق ہونے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق بواسطہ موصوف محذوف عَمَارَةٌ کے مفعول مطلق،

عَمَّوْا كَا، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ۔ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین پھر معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَتْ فعل
هُم ضمیر مفعول بہ، مَسْئَلُهُمْ مرکب اضافی فاعل بِالْبَيِّنَاتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ
متانفہ بیٹنہ ہوں۔

فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاهْلَكَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، مَا نَأْنِيهِ كَانَ فعل ناقص اَللَّهُ اس کا اسم،
لام جہدیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَطْلِمَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر
مجرور، جار مجرور مَرِيْدًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيَكُنْ حرف استدراک مہمل كَانُوا فعل ناقص
واو ضمیر اس کا اسم اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم يَطْلِمُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر فعل ناقص کی خبر،
فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اَسَاءُوا السُّوْاى اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ كَانُوا بِهَا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

آیت نمبر ۱۰: ثُمَّ عَاطِفَةٌ كَانَ فعل ناقص عَاقِبَةُ الَّذِينَ اَسَاءُوا اسم موصول اَسَاءُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول
باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر مقدم، اَلسُّوْاى اسم مؤخر، اَنْ ناصبہ كَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل بِآيَاتِ اللّٰهِ متعلق سے
مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم بِهَا جار مجرور متعلق مقدم يَسْتَهْزِءُونَ فعل
واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر
السُّوْاى سے بدل ہے، فعل ناقص با اسم و خبر و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

﴿١٠﴾ رُكُوْعٌ نَمْبِرٌ ۲ ﴿١٠﴾

اللّٰهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

آیت نمبر ۱۱: اللّٰهُ مُبْتَدَا، يَبْدُوْا فعل ہو مستتر فاعل الْخَلْقَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ يُعِيْدُهُ
فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اوّل، ثُمَّ عَاطِفَةٌ تُرْجَعُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ
متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

آیت نمبر ۱۲: واو عاطفہ يَوْمَ مضاف تَقُومُ فعل السَّاعَةُ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم،
يُبْلِسُ فعل الْمُجْرِمُونَ فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شَرِكَايِهِمْ شَفَعَاوْا وَ كَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ لَمْ يَكُنْ فعل ناقص لَهُمْ كٰفِرِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّنْ شُرْكَائِهِمْ جار مجرور ظرف

مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال مقدم شفقاً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کانوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم پیشہ کا وہم جہا بجز در متعلق مقدم کافرون اسم فاعل هم مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: واو عاطفہ یوم مضاف تقوم فعل الساعۃ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مؤکد، یومئذ مرکب اضافی تاکید لفظی، مؤکد ہا تاکید مفعول فیہ مقدم یتفرقون فعل واؤ ضمیر فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۵، ۱۶: آیت ۱۵: استثنائیہ آما حرف شرط و تفسیر الذین اسم موصول آمنوا فعل واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عملوا فعل واؤ ضمیر فاعل الصالحات مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، آما جزائیہ هم ضمیر مبتدا فی روضۃ جہا بجز در متعلق مقدم یحبرون فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آما حرف شرط و تفسیر الذین اسم موصول کفروا فعل واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کذبوا فعل واؤ ضمیر فاعل بآہ جہا بجز در کذبوا ایاتنا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لقاہ الاخرۃ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہا بجز در کذبوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، آما جزائیہ اولئک اسم اشارہ مبتدا فی العذاب جہا بجز در متعلق مقدم محضرون اسم موصول محضرون اسم موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُسۡوَنَ وَحِیْنَ تَضِیۡحُوۡنَ ﴿۱۷﴾ وَ لَہُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرۡضِ وَ عِشِیَآ وَ حِیْنَ تَظۡہَرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۷، ۱۸: آیت ۱۷: اور اس کی شرط محذوف ہے اذّا تبیین لک ما ذکر سُبْحَانَ مصدر مضاف اللہ مضاف الیہ، حین مضاف تُسُونَ فعل با واؤ ضمیر فاعل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حین مضاف تُضیحونَ فعل با واؤ ضمیر فاعل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف اول، واو عاطفہ عشیآ معطوف ثانی، واو عاطفہ حین مضاف تظہرونَ فعل با واؤ ضمیر فاعل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول فیہ ہوا سُبْحَانَ مصدر کا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سُبْحُوا کا سُبْحُوا فعل امر با واؤ

ضمیر فاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ جزء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اور اعتراضیہ لہ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم الحمد ضمیر فاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ جزء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اور اعتراضیہ لہ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم الحمد مصدر فی جملہ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور مصدر کے متعلق، مصدر با متعلق مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ معترضہ ہوں

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

آیت نمبر ۱۹: يُخْرِجُ فعل ہو مستر فاعل الْحَيَّ مفعول بہ مِنَ الْمَيِّتِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُخْرِجُ فعل ہو مستر فاعل الْمَيِّتِ مفعول بہ مِنَ الْحَيِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يُحْيِي فعل ہو مستر فاعل الْأَرْضِ مفعول بہ بَعْدَ مَوْتِهَا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہوں اور واو عاطفہ كَذَلِكَ جاد با مجرور کائن کے متعلق ہو کر اخراجاً موصوف محذوف کے واسطہ سے مفعول مطلق مقدم، تُخْرَجُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝
وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

آیت نمبر ۲۰، ۲۱: وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ متعلق ہو کر خبر مقدم آن ناصب خَلَقَ فعل ہو مستر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ تُرَابٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ إِذَا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم أَنْتُمْ مبتدا، بَشَرٌ موصوف موصوف تَنْتَشِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنَ آيَاتِهِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم آن ناصب خَلَقَ فعل ہو مستر فاعل لَكُمْ جاد با مجرور متعلق اول، مِنَ أَنْفُسِكُمْ جاد با مجرور متعلق ثانی، أَزْوَاجًا مفعول بہ لام جادہ تعلیلیہ اس کے بعد آن مقدر ہے تَسْكُنُوا فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْهَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور متعلق ثالث، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقات ثلاث معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستر فاعل بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اول، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر، مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔ إِنَّ حرف تحقیق فی ذَالِكَ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام نہ حلقہ آيَاتٍ موصوف لام جادہ قَوْمٍ موصوف يَتَفَكَّرُونَ فعل با واو ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واو عطفہ مِنْ آيَاتِهِ كَاثِرٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ أَنْ ناصب تَقُومَ فعل السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ معطوف علیہ بالمعطوف فاعل بِأَمْرِهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطفہ إِذَا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تَخْرُجُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، و مفعول فیہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف بتاویل مصدر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٌ قَنِطُونَ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: واو عطفہ لَهُ ظرف مستقر کَاثِرٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ مَن اسم موصول فی جارہ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ كُلُّ مبتدا، قَانِطُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل لَهُ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿۲۷﴾ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿۲۸﴾ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۷: واو عطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول يَبْدَأُ الْخَلْقَ فعل هُوَ مستتر فاعل الْخَلْقَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عطفہ يُعِيدُهُ فعل هُوَ مستتر فاعل هُوَ ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُوَ ضمیر مبتدا، أَهْوَنُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل عَلَيْهِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ واو عطفہ لَهُ ظرف مستقر کَاثِرٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ مرکب توصیفی ذوالحال فی جارہ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جار مجرور کَاثِرٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دو خبر، مبتدا با خبر، جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

سوال (۱): مبتدا تو اسم ہوتا ہے جب کہ آیت نمبر ۲۴ میں یُورِي فعل کو مبتدا بنایا گیا ہے؟

جواب: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضارع پر داخل ہونے والے اَنْ ناصب کو مقدر کر دیا جاتا ہے اور مضارع کو مرفوع پڑھا جاتا ہے جیسا کہ مشہور مثال میں ہے كَسَبَعَ بِالْمُعِينِي خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَرَاهُ، یہ اصل میں اَنْ كَسَبَعَ ہے اسی طرح اس آیت میں بھی اَنْ مقدر ہے اور مضارع مصدر کے معنی میں ہو کر مبتدا ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے۔

سوال (۲): مفعول لہ میں یہ شرط ہے کہ فعل معلل اور مفعول لہ کا فاعل ایک ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ یُورِي فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور خَوْفًا وَكَلِمَةً مفعول لہ کا فاعل مخاطب ہے توجب شرط نہیں پائی گئی تو خَوْفًا وَكَلِمَةً کو مفعول لہ بنانا

کیے درست ہے؟

جواب (۱): **خَوْفًا وَكَمَعًا** سے پہلے مضاف محذوف ہے تقدیر عبارت ہے **إِرَاءَةً خَوْفٍ وَكَمَعٍ** لہذا اب فعل معلل اور مفعول لہ کا فاعل ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔

جواب (۲): **خَوْفًا وَكَمَعًا إِخَافَةً وَإِظْمَاعًا** کی تاویل میں ہو کر مفعول لہ ہیں لہذا اب بھی فعل معلل اور مفعول لہ کا فاعل ایک ہے کیونکہ دیکھانا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ (منظہری)

● رکوع نمبر ۳ ●

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۲۸: **ضَرَبَ** فعل ہو مستتر فاعل لکم جاہ باجور متعلق مثلاً موصوف من انفسکم کا ثنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ **هَلْ** ہل استفہامیہ لکم طرف مستقر کا کنون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، **مِنْ** جاہ ما موصولہ ملکث فعل ایمائکم مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہ باجور کا کنون کے متعلق ہو کر حال مقدم **مِنْ** جاہ زلذہ، **شُرَكَاءَ** موصوف فی حرف جر **مَآ** موصول رزقنا فعل نا ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہ باجور کا کنون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت محلا مرفوع ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ **فَآءَ** واقع ہے استفہام کے جواب میں **أَنْتُمْ** ضمیر مبتدا، **فِيهِ** جاہ باجور متعلق مقدم **سَوَاءٌ** بمعنی **مُسْتَوُونَ** اپنے متعلق سے مل کر خبر اول **تَخَافُونَ** فعل واو ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ کا جاہ **خِيفَةً** مصدر مضاف کم ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل انفسکم مرکب اضافی مفعول بہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و مفعول بہ سے مل کر مجرور، جاہ باجور طرف مستقر کا کنون کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف **خِيفَةً** کے مفعول مطلق مقدم **نُفَصِّلُ** فعل نحن مستتر فاعل الآیات مفعول بہ لام جاہ قوم موصوف **يَعْقِلُونَ** فعل باوا ضمیر فاعل صفت، موصوف باصفت مجرور، جاہ باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ انتم کی خبر ثانی ہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: **بَلِ** حرف اضراب **اتَّبَعَ** فعل الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول باصلہ فاعل **أَهْوَاءَهُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ **بِغَيْرِ عِلْمٍ** طرف مستقر **مُتَلَبِّسِينَ** کے متعلق ہو کر **اتَّبَعَ** کے فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ **فَآءَ** نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے **إِذَا اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ**، **يَآفَاءَ** عاطفہ ہے **مَنْ** استفہامیہ مبتدا، **يَهْدِي** فعل ہو مستتر فاعل **مَنْ** موصول **أَضَلَّ** فعل اللَّهُ

فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ یُھْدِیٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہووا و عاطفہ صَانَفِیْ لَھُمْ جادہ با مجرد کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم وین جادہ زائدہ نا صرین مرفوع ملامتہ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۱﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا ۚ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۳۰، ۳۱، ۳۲: قیام نصیحہ اور اس کی شرط مخذوف ہے لکن ثابت و خدایتہ اللہ، بیان ضلّ بعض الناس، اقم فعل امر آت مسترذو الحال حنیفاً حال، ذوالحال باحال فاعل و وجہک مرکب اضافی مفعول بہ للذین جادہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط مخذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ فطرۃ اللہ مرکب اضافی موصوف الّٰتی اسم موصول فطرۃ فعل ہو فعل مخذوف الرّموا کا الرّموا فعل امر و ضمیر ذوالحال منیبین اسم فاعل انتم مستر فاعل الیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال الرّموا کا فاعل، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ لانی جنس تبدیلیٰ اس کا اسم لام جادہ خلّو اللہ مرکب اضافی مجرد، جادہ با مجرد کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر، لانی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔ ذلک اسم اشارہ مبتدأ الذین القیمہ مرکب اضافی ذوالحال و او حال یہ یا عاطفہ لکن حرف استدراک اکثر الناس مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلمون فعل امر و ضمیر فاعل لکن کی خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

و او عاطفہ اتقوا فعل امر و ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، و او عاطفہ اقیّموا فعل امر و ضمیر فاعل الصلوا مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، و او عاطفہ لا تکونوا فعل ناقص و او ضمیر اس کا اسم من المشرکین مبدل منہ، وین جادہ الذین اسم موصول فرقوا فعل امر و ضمیر فاعل دینہم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، و او عاطفہ کانوا فعل ناقص و او ضمیر اسم شیعاً خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با موصول باصلہ مجرد، جادہ با مجرد بدل، مبدل من بدل کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین پھر یہ معطوف ہے الرّموا مقدر کا۔ کلّ حزّب مرکب اضافی مبتدأ با جادہ صام موصول لکنہم مرکب اضافی فعل مخذوف ثبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرد جادہ با مجرد متعلق مقدم فرحون صیغہ صفت ہم مستر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استثنائیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَسَّ نَاسٍ مفعول بہ مقدم ضمیر فاعل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، دعویٰ فعل واو ضمیر ذوالحال مُنِيبِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل اِلَيْهِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل رَبِّهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَذَانٌ فعل هُوَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْهُ كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم رَحْمَةً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اذا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم فَرِيقٌ موصوف مِّنْهُمْ کائِنٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدا، يُشْرِكُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِرَبِّهِمْ متعلق و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: لامر تلیلیہ اور اس کے بعد اَن مقرر ہے يَكْفُرُوا فعل واو ضمیر فاعل بَاء جادہ ما موصولہ اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے يُشْرِكُونَ کے، فاء استثنائیہ فَتَمْتَعُوا فعل امر باواو ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امریہ ہوں فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَفَرْتُمْ، یا فاء تلیلیہ ہے سَوْفَ علامت فعل تَعْلَمُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: اَم متعلقہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جادہ مجرور متعلق سُلْطٰنًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، يَتَكَلَّمُ فعل هُوَ مستتر فاعل بَاء جادہ ما موصولہ كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يُشْرِكُونَ فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ مجرور يَتَكَلَّمُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَائِمَةٌ بِمَا قَدَّمْتَّ آيَاتِنَاهُمْ إِذَا

هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَذَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ اَوَّل رَحْمَةً مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَرِحُوا فعل واو ضمیر فاعل بِهَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ شرطیہ تُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سَائِمَةٌ فاعل بَاء جادہ ما موصولہ قَدَّمْتَّ فعل آيَاتِنَاهُمْ مرکب اضافی مرفوع تقدیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق

جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اِذَا مَآجِئَتِہِ مَفْعُولٌ فِیہِ مُقَدَّمٌ هُمُ ضَمِیرٌ مُّبْتَدَا، یَقْتَضُونَ فِعْلٌ وَاوَّضَمِیرٌ فَاعِلٌ اور مَفْعُولٌ فِیہِ مُقَدَّمٌ سے مل کر خبر، مُّبْتَدَا بِخَبَرٍ جَزَاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

أَوْ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: ہمزہ استفہامیہ وَاوَّ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ یَتَّفَكَرُوا، لَمْ یَرَوْا بِمَعْنٰی لَمْ یَعْلَمُوا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَنَّ حَرْفٌ تَحْقِیْقٌ اَللّٰهُ اس کا اسم یَبْسُطُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اَلرِّزْقُ مَفْعُولٌ بِہِ لَا مَرَّ جَاہِ مَنَّ مَوْصُولٌ یَشَاءُ فِعْلٌ بِاِهْوٍ مُسْتَرْتَفِعٌ اَعْلٰی صِلَہٗ، مَوْصُولٌ بِاصْلَہِ مَجْرُورٌ، جَاہِ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہِ و مُتَعَلِّقٌ مَعطُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوَّ عَاطِفٌ یَقْدِرُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اَعْلٰی مَلَّ مَرَّ مَعطُوفٌ، مَعطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعطُوفٍ خَبَرٌ، اَنَّ بِاِسْمٍ و خَبَرٌ جَمْلٌ اِسْمِیہِ خَبَرِیہِ لَمْ یَرَوْا كے دو مَفْعُولٌ كے قَائِمٌ مَقَامٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولِیْنِ مَعطُوفٌ، مَعطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعطُوفٍ لَفْظًا جَمْلٌ اِنشائیہِ مَعْنٰی جَمْلٌ خَبَرِیہِ مُسْتَاثَنٌ ہُوَ اِنَّ فِی ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ كی تَرْكِیْبٌ اِنَّ فِی ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُونَ كی تَرْكِیْبٌ كی مَثَلٌ ہے اور اس كی تَرْكِیْبٌ آیت نمبر ۱۲ كے تَحْتِ كَرَّجَلِی ہے۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَ الْمَسْكِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۗ ذٰلِكَ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ اَوْلٰیكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: فَاوَّ ضَمِیرٌ اور اس كی شرط محذوف ہے اِنَّ كَانَ الرِّزْقُ بَیْدَ اللّٰهِ، یَا اِذَا عَرَفْتَ اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ وَ یَقْدِرُ اَتِ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ مُسْتَرْتَفِعٌ اس کا فاعل ذَا الْقُرْبٰی مَعطُوفٌ عَلَیْہِ، وَاوَّ عَاطِفٌ الْمَسْكِیْنِ مَعطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوَّ عَاطِفٌ ابْنِ السَّبِیْلِ مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَعطُوفٌ ثَانِیٌّ، مَعطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعطُوفِیْنِ مَفْعُولٌ بِہِ اَوَّلٌ حَقَّهٗ مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَفْعُولٌ بِہِ ثَانِیٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولِیْنِ جَمْلٌ اِنشائیہِ اِمْرِیہِ جَزَاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں ذٰلِكَ اِسْمٌ اَشْرَہُ مُّبْتَدَا، خَیْرٌ اِسْمٌ تَفْضِیْلِیٌّ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَا مَرَّ جَاہِ الَّذِیْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ یُرِیْدُوْنَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِیرٌ فَاعِلٌ وَجْهَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَفْعُولٌ بِہِ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صِلَہٗ، مَوْصُولٌ بِاصْلَہِ مَجْرُورٌ، جَاہِ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوَ، اِسْمٌ تَفْضِیْلِیٌّ بِاِقَاعِلٌ و مُتَعَلِّقٌ شَبَّہِ جَمْلٌ ہُوَ كَرَّجَمْلٌ، مُّبْتَدَا، مُّبْتَدَا بِخَبَرٍ جَمْلٌ اِسْمِیہِ خَبَرِیہِ مَطْلَبٌ ہُوَ وَاوَّ عَاطِفٌ اَوْلٰیكَ اِسْمٌ اَشْرَہُ مُّبْتَدَا، هُمُ ضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَلْمُفْلِحُونَ خَبَرٌ، مُّبْتَدَا بِخَبَرٍ جَمْلٌ اِسْمِیہِ خَبَرِیہِ مَعطُوفٌ ہوں۔

وَمَا اَتٰیْتُمْ مِّنْ رَّبًّا لَّیْرَبُوْا فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا اَتٰیْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: وَاوَّ اِسْتِیْنَاہِ مَا اِسْمٌ شرط ذوالحال مِّنْ رَّبًّا كَاثِمًا كے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مَفْعُولٌ بِہِ مُقَدَّمٌ اَتٰیْتُمْ فِعْلٌ ثُمَّ ضَمِیرٌ فَاعِلٌ لَا مَرَّ جَاہِ اس كے بعد اَنْ مُقَدَّمٌ ہُوَ یُرْبُوْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ مُتَعَلِّقٌ سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جَاہِ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہِ و مُتَعَلِّقٌ جَمْلٌ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاوَّ جَزَائِہِ لَا یُرْبُوْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ عِنْدَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَفْعُولٌ فِیہِ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جَزَاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفٌ مَا اِسْمٌ شرط ذوالحال مِّنْ زَكٰوةٍ

کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم اَتَيْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر ذوالحال تُوِيْدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل وَجْهَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قاء جزائیہ اُولَئِكَ اسم اشرہ مبتدأ، هُمْ ضمیر فصل الْمُضْعِفُونَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: اللّٰهُ مبتدأ، الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ رَزَقَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ يُبَيِّنُكَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، ثُمَّ عاطفہ يُحْيِيكَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، هَلْ استفہامیہ مِنْ جادہ شُرَكَاءِ كُمْ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول يَفْعَلُ فعل هو مستتر فاعل مِنْ ذَلِكُمْ کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جادہ زائدہ تَعٰلٰى مَعْلًا منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہوں سُبْحٰنَهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مَحْدُوْفٌ سَبَّحْتُ کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق معطوف علیہ، واو عاطفہ تَعٰلٰى فعل هو مستتر فاعل عَنْ جادہ مَا اسم موصول يُشْرِكُوْنَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۵ ﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: ظَهَرَ فعل الْفَسَادُ فاعل فِي جادہ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ با مجرور متعلق اول، بَاء جادہ مَا اسم موصول كَسَبَتْ فعل اَيْدِي النَّاسِ مرکب اضافی مرفوع تقدیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ثانی، لَا جادہ تطیلیہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يُذِيقُ فعل هو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول بَعْضُ الَّذِي اسم موصول عَمِلُوا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدر مجرور، جادہ با مجرور متعلق ثالث، فعل بافاعل و متعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لَعَلَّ حرف ترحی ہُمْ ضمیر اس کا اسم یَرْجِعُوْنَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انتہائیہ ترجیہ معللہ ہوں یُذِيقُ کی ضمیر فاعل سے حال ہوں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ ⑤

آیت نمبر ۳۲: قُلْ نِعْمَ اٰمِرٌ اَنْتَ مُشْرِكًا قَوْلٌ سَيُذَوُّوْا فِعْلٌ اِمْرًا وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ اَنْشَائِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاَوْضُمِيْرٌ اَنْظَرُوْا فِعْلٌ اِمْرًا وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ كَيْفٌ كَاثِنَةٌ كَامْفَعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرَكَاةٌ كِيْ خَبْرٍ مَقْدَمٌ، كَاَنَّ فِعْلٌ نَاقِصٌ عَاقِبَةٌ مَضَافٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ مِنْ قَبْلِ جَدِّ بَاغْمَرٍ رُبِّيْتُوْا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَصْلَةٍ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ عَاقِبَةٌ كَامَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ اِلَيْهِ كَاَنَّ كَا اِسْمٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَّةٌ اَنْظَرُوْا كَامْفَعُولٌ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هُوَ كَاَنَّ فِعْلٌ نَاقِصٌ اَسْمُوْا هُمْ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ مُشْرِكِيْنَ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَّافَةٌ هُوَ

فَاَقِمُّوْا وَّجْهَكُمْ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَنَّ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ

يَصَّدَّعُونَ ⑥

آیت نمبر ۳۳: فَاَوْضُمِيْرٌ اِمْرًا اِسْمٌ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ اِذَا كُنْتُمْ اَنَّ الْفُسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاَقْبَعٌ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ (نَقِيْرٌ) اَقْبَعٌ فِعْلٌ اِمْرًا اَنْتَ مُشْرِكًا قَوْلٌ اِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْهِ لَا هُوَ اَلَّذِيْنَ الْقَيِّمِ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدِّ بَاغْمَرٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، مِنْ جَدِّ قَبْلِ مَضَافٍ اَنْ نَسْبِيْرٌ يَّاتِيَنَّ فِعْلٌ يَوْمٌ مَوْصُوفٌ لَا نَسْبِيٌّ جِزْمٌ مَرَدَّةٌ اِسْمٌ اَوَّلُهُ كَاثِنٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، لَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ سَعْلٌ كَرَصْلَةٍ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتٍ يَّاتِيَنَّ كَا فَاعِلٌ مِنْ اللّٰهِ جَدِّ بَاغْمَرٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ يَّاتِيَنَّ كَيْ (جَمْلٌ) فِعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَدِّ بَاغْمَرٍ رُبِّيْتُوْا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ كِي ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعْلٌ هُوَ، فِعْلٌ اِمْرًا بِاَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ اِسْمُوْا مَبْدَأٌ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ يَصَّدَّعُونَ فِعْلٌ وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ اَوْ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدُوْنَ ⑦

آیت نمبر ۳۴: مَنْ شَرْطِيَّةٌ مَبْدَأٌ، كَفَرَ فِعْلٌ بِاَهُوَ مُشْتَرَفَاعِلٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، فَاَوْضُمِيْرٌ عَلَيْهِ جَدِّ بَاغْمَرٍ رُبِّيْتُوْا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ مَقْدَمٌ، كَفَرَ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَبْدَأٌ مَوْخَرٌ، مَبْدَأٌ بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، مَبْدَأٌ بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْضُمِيْرٌ عَلَيْهِ، مَنْ شَرْطِيَّةٌ مَبْدَأٌ، عَمِلَ فِعْلٌ هُوَ مُشْتَرَفَاعِلٌ صَالِحًا مَفْعُولٌ فِيْهِ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، فَاَوْضُمِيْرٌ عَلَيْهِ جَدِّ بَاغْمَرٍ رُبِّيْتُوْا كَيْ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ يَهْدُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ اَوَّلٌ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ مَنْ كِي خَبْرٌ، مَبْدَأٌ بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٌ مُتَّافَةٌ هُوَ

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ⑧

آیت نمبر ۳۵: لَا هُوَ جَدِّ تَعْلِيْلِيَّةٌ اَوَّلٌ اِسْمٌ كِي اَعْمَالٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اَمَّنُوْا فِعْلٌ وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْضُمِيْرٌ عَلَيْهِ، اَمَّنُوْا فِعْلٌ وَاَوْضُمِيْرٌ فَاعِلٌ الصّٰلِحٰتِ مَفْعُولٌ فِيْهِ سَعْلٌ كَرَجْمَةٍ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ،

معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ تجزی کا مفعول بہ من فضلیہ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے ینہدون کے، ان حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم لا یحب فعل ہو مستتر فاعل الکفرین مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ ان کی خبر ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۶: ۱ واو استینافیہ من آیاتہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ان نامبر یوسل فعل ہو مستتر فاعل الریح ذوالحال مُبَشِّرَاتٍ حال بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ لام جار جہ یذیق فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ من رحمۃ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لام جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تجری فعل الفلک فاعل بامرہ جار باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لام جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تبتغوا فعل واو ضمیر فاعل من فضلیہ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور معطوف ثانی، واو عاطفہ لعل حرف ترحمی کم ضمیر اس کا اسم تشکر و ن فعل باواو ضمیر فاعل خبر، لعل با اسم و خبر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ باعتبار معنی کے مُبَشِّرَاتٍ پر معطوف ہے گویا کہ تقدیر عبارت یوں ہے لیبشیرکم و لیذیقکم۔

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْ
الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۳۷: ۱ واو استینافیہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل، ارسلنا فعل نا ضمیر فاعل من قبلكم کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم رسل ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، الی قومہم جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ جاؤ وا فعل واو ضمیر فاعل هم ضمیر مفعول بہ بالبینات متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فکذبوہم انتقمنا فعل نا ضمیر فاعل من جارہ الذین اسم موصول اجروا فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں واو استینافیہ کان فعل ناقص حقاً موصوف علینا طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر مقدم نصر المؤمنین مرکب اضافی اسم مؤخر، کان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُهِيمُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كِسْفًا فَيَكْرِي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۸: اللہ مبتدأ، الذی اسم موصول یوسل فعل ہو مستتر فاعل الریح متعلق بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف

آیت نمبر ۵۱: واو استینافیہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے اَزَسَلْنَا فَعَلًا زَيْتًا مَفْعُولًا بِه سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ زَاوُ فَعَلٌ ذَاؤِ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ ذَاؤِ ضَمِيرٌ ذَاوَالْحَالِ مُصْفَرٌ اَحَالٌ، ذَوَالْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِه، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِه مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِاِ مَعْفُوفٍ شَرْطًا، لَامٌ جَوَابِيَةٌ فَكَلُّوا فَعَلٌ نَاقِصٌ ذَاؤِ ضَمِيرٌ ذَوَالْحَالِ مِنْ بَعْدِ كَاثِنِينَ كَيْ مَتَّعَلِقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذَوَالْحَالِ بِاِحَالٍ اِسْمٌ يَكْفُرُونَ فَعَلٌ بِاِ ذَاؤِ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ خَبْرٌ، فَعَلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَوَابٌ هِيَ قِسْمٌ مَحْذُوفٌ كَا، اِوَرِ شَرْطٌ كِي جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هِيَ، جِسْمٌ جَوَابٌ قِسْمٌ دَالٌ هِيَ۔

فَانِكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا آتَتْ بِهَدِي الْعُنَى عَنْ صُلَاتِهِمْ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

آیت نمبر ۵۲، ۵۳: فاء تعلیل ان حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لا تسمع فعل آتت مستتر فاعل الموتی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تسمع فعل آتت مستتر فاعل الصمۃ مفعول بہ اول الدعاء مفعول بہ ثانی، اذا اطرف زمان مضاف و لّوا فعل ذوا ضمیر ذوالحال مدبیرین حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل ومفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما حجازیہ آتت ضمیر اس کا اسم بآء جده زلذہ ہاد اسم فاعل مضاف العنی مضاف الیہ معنی مفعول بہ عن صلاتہم متعلق، اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ما کی خبر، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوا۔ ان نافیہ تسمع فعل آتت مستتر فاعل الا حرف استثناء من اسم موصول یؤمن فعل ہو مستتر فاعل یا ایاتنا متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مشش مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

﴿ رکوع نمبر ۶ ﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

آیت نمبر ۵۴: اللہ مبتدا، الذی اسم موصول خلق فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ من ضعف متعلق سے مل کر معطوف علیہ، ثم عاطفہ جعل فعل ہو مستتر فاعل من جده بعد ضعف مرکب اضافی مجرد، جاد با مجرد متعلق ہوئے قوۃ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ثم عاطفہ جعل فعل ہو مستتر فاعل من بعد قوۃ جاد با مجرد متعلق ضعفاً و شیبۃ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ یخلق فعل ہو مستتر فاعل ما اسم موصول یشاء فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ یا مبتدا کی خبر ثانی ہوا۔ واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا العلیم القدیر اس کی دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: واؤ استینافیہ یَوْمَ مضاف تَقُومُ فعل السَّاعَةُ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ مقدم
یُقْسِمُ فعل الْمُجْرِمُونَ فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر قسم، مَا نانیہ لَبِثُوا فعل واؤ ضمیر فاعل غَيْرَ سَاعَةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ
سے مل کر جواب قسم، كَذَلِكَ كَانُوا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِنْفَاكَا کے مفعول مطلق مقدم، كَانُوا فعل ناقص واؤ
ضمیر اس کا اسم یُؤْفَكُونَ فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر
جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: واؤ عاطفہ قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول اوتُوا فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ معطوف علیہ
بامعطوف مفعول بہ، فعل مجهول بانائب فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل قول، لامر موطرہ للقسام اور قسم مخدوف ہے
قَدْ علامت فعل، لَبِثْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل فی کِتَابِ اللَّهِ ظرف مستقر کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف زَمَانًا کے مفعول
فیہ، اِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ جاد باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم مقولہ، قول
بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقہ نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ الْبَعْثِ (مظہری) هَذَا مَبْتَدَا یَوْمِ الْبَعْثِ
مرکب اضافی خبر، مبتدا باخبر جزاء، شرط مخدوف باجزاء مقولہ ہے، واؤ عاطفہ لَکِنَّ حرف استدراک کُمْ ضمیر اس کا اسم کُنْتُمْ فعل ناقص
تُمْ ضمیر اس کا اسم لَا تَعْلَمُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ لَکِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف
ہوں۔

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: فقہ نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم،
لَا يَنْفَعُ فعل الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول باصلہ مفعول بہ مَعْذِرَتُهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف
علیہ، واؤ عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا يُسْتَعْتَبُونَ فعل مجهول باواؤ ضمیر نائب فاعل جملہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر معطوف، معطوف علیہ
بامعطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واؤ استینافیہ لَامر موطرہ للقسام اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، ضَرَبْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لِلنَّاسِ جاد باجور و

متعلق فی جملہ ہذا الْقُرْآنِ مرکب توصیفی مجرور، جملہ با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم من تبیضیہ کئی مکتبہ مرکب اضافی ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال مجرور، جملہ با مجرور مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں سو او عاطفہ لام موطئہ لقسیم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ جہت فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل ہُمہ ضمیر منصوب مفعول بہ یا آیت متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لام جوابیہ یَقُولْنَ فعل الَّذِینَ کَفَرُوا موصول ہاسلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ان نافیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، اِلَّا حرف استثناء مَبْطُؤْنَ مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ قسم محذوف کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے۔

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: كَذٰلِكَ جملہ با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف طَبَعَا کے مفعول مطلق مقدم يَطْبَعُ فعل اللّٰهُ فاعل علی جملہ قُلُوْبِ مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول لَا يَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ یا معترضہ ہوں۔

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخْفِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: فَأَاءِ نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ يَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْجَاهِلِيْنَ (تفسیر اصْبِرْ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ حرف تھمیں وَعْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی اسم حَقٌّ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں سو او عاطفہ لَا يَسْتَخْفِنُكَ فعل نئی کاف ضمیر مفعول بہ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ موصول ہاسلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ اصْبِرْ پر معطوف ہوں۔



ترکیب سُورَةُ الْقَمَانِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ تَلِكْ اَیْتُ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ۝ هُدٰی وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
یُوقِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴: اَلَمْ خبر ہے مبتدا مخدوف ہذا کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، اَیْتُ مضاف
اَلْكِتَابِ الْحَكِیْمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال ہُدٰی وَرَحْمَةً معطوف علیہ با معطوف موصوف لآمر جاہ
اَلْمُحْسِنِیْنَ موصوف اَلَّذِیْنَ اسم موصول یُقِیْمُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ
عاطفہ یُؤْتُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل الزَّكٰوةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف اَوَّل، واؤ عاطفہ هُمْ ضمیر اَوَّل مؤکد، هُمْ ضمیر ثانی تاکید، مؤکد
باتاکید مبتدا، یُوقِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِالْاٰخِرَةِ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ،
موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت حال، ذوالحال با حال خبر،
مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اَوْ لَیْكَ عَلٰی هُدٰی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا، عَلٰی جارہ ہُدٰی موصوف مِّنْ رَّبِّهِمْ کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت
مجرور، جار با مجرور کَاتِبُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اُولٰٓئِكَ مبتدا، هُمْ ضمیر فصل اَلْمُفْلِحُوْنَ خبر، مبتدا
با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَّشْتَرِیْ لَهٗوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۝ وَ
یَتَّخِذْهَا هُزُوًا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ۝

آیت نمبر ۶: واؤ عاطفہ مِنَ النَّاسِ جار با مجرور کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنْ اسم موصول یَّشْتَرِیْ فعل ہو مستتر فاعل
لَهٗوَ الْحَدِیْثِ مرکب اضافی مفعول بہ، لآمر جاہہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُضِلَّ فعل ہو مستتر ذوالحال بِغَیْرِ عِلْمٍ کَاتِبِیْنَ کے
متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ
یَتَّخِذْ فعل ہو مستتر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ اَوَّل، هُزُوًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور،
جار با مجرور یَّشْتَرِیْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ
اسمیہ خبریہ معطوف ہو، اُولٰٓئِكَ مبتدا، لَهُمْ کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ مُّهِیْنٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر مبتدا

اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَتُنزَّلَتْ سُورَاتُنَا يُدْرِئُهُمْ بِآيَاتِنَا أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا كَثِيرًا مِّمَّا كَسَبُوا بِأَنفُسِهِمْ فَيُجْزَوْنَ لَهَا مَا كَسَبُوا وَعَسَىٰ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

آیت نمبر ۷: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تُلِيٰ فعل مجہول عَلَیْهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے ایاتنا مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، و تُلِيٰ فعل ہو مستتر ذوالحال مُسْتَكْبِرًا بحال اولیٰ مَکَانَ مخفف من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم لَمْ یَسْمَعْ فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر مَکَانَ با اسم و خبر حال دوم مَکَانَ حرف تشبیہ فی اذنیہ کَثْرًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو تو اسم مؤخر مَکَانَ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال سوم ذوالحال باحوال ثلاث و تُلِيٰ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فقہاء فصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا کَانَ حَالٌ مُّشْتَرِئًا لَهَا الْحَدِيثُ مَا ذُو كِرًا (فقیہ) بَشِيرٌ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ بآء جاد عَذَابٍ اَلِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ ۝ خُلِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ

حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

آیت نمبر ۹، ۸: اِنْ حرف تحقق الَّذِينَ اِسْم موصول آمَنُوا اِسْم موصول باو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا اِسْم موصول نائب فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلحان کا اسم، لَهُمْ کَثْرَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّاتِ النَّعِيمِ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ خَالِدِينَ اِسْم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيهَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہے لَهُمْ کی هُمْ ضمیر سے اِجْتِنَاتِ النَّعِيمِ سے وَعَدَّ اللّٰهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مخدوف وَعَدَّ کا، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس کی دو خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلْفِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ

فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

آیت نمبر ۱۰: خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل السَّمَوَاتِ ذوالحال بآء جاد عَمَدٍ مضاف عَمَدٍ موصوف تَرَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاد با مجرور کَثْرَةً کے متعلق ہو کر حال ذوالحال بحال خَلَقَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آَلْفِي فعل ہو مستتر فاعل فی الْأَرْضِ جاد با مجرور متعلق ہوئے رَوَاسِي اِسْم موصول مضاف مخدوف جِبَالًا کے مفعول بہ اِنْ مصدریہ اور اس کے بعد لا مخدوف ہے تُبِيدَ فعل ہی مستتر فاعل بِكُمْ متعلق سے مل کر تَرَوْنَ اِسْم موصول با فاعل و متعلق مطلق اول ہوا و عاطفہ بَثَّ

فعل ہو مستر قائل فیہا جاد باجمر و متعلق ہوئے، مِن جادہ کی ذاتیہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجمر و کائنتہ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف حیوانات کے بقیہ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستتر ہو سوا و عاطفہ اَلْوَلْنَا فعل نا ضمیر قائل مِنَ السَّمَاءِ جاد باجمر و ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر حال مقدم مآء و الحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَبْتَنَّا فعل نا ضمیر قائل فیہا جاد باجمر و متعلق ہوئے، مِن جادہ کی مضاف زَوْجِ کریمہ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاد باجمر و ظرف مستقر نَبَاتًا موصوف محذوف کے واسطے مفعول مطلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف یہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

هَذَا خَلَقَ اللهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: هَذَا مَبْدَا، خَلَقَ اللهُ مَرْكَبِ اِضَافِي خَبْرٍ، مَبْدَا بِاِخْبَرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ هُوَ فَاءٌ نَصِيحَةٍ اِوْرَاسِ كِي شَرْطِ مَحْذُوفٍ هِيَ اِذَا كَانَ كُلُّ هِيَ بِهٖ خَلَقَ اللهُ (فَعِيْر) اَرُوْا فَعْلٌ وَاذْ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ نَوْنٌ وَاقَابِيَةٌ كَايَا، ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَوَّلٌ مَّا اسْتَفْهَمِيَةٍ مَبْدَا، ذَا اِسْمٍ مَوْصُوْلٍ خَلَقَ فَعْلٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ مِنْ دُوْنِهٖ جَادٌ بِاِجْمَرٍ وَّرَظْفٌ مَسْتَقْرٌ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ عَبْدٌ ثُمَّ هُمْ هُكَىءَ كَيْ مَتَعْلَقٌ هُوَ كَرْصَلَةٍ، مَوْصُوْلٌ بِاِصْلَةٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ جَمَلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ صَلَةٍ، مَوْصُوْلٌ بِاِصْلَةٍ خَبْرٍ، مَبْدَا بِاِخْبَرِ جَمَلَةٍ اِنْتِثَابِيَّةٍ اسْتَفْهَامِيَّةٍ هُوَ كَرَاوِي كَيْ دُو مَفْعُوْلٍ كَيْ قَائِمٍ مَقَامٍ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَّمَفَاعِلٍ مَثَلًا جَزَاءً، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ بَلٌّ عَاطِفَةٌ بَرَاءٌ اِضْرَابِ اَلظَّالِمُوْنَ مَبْدَا، فِي جَادٍ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ مَجْرُورٍ، جَادٌ بِاِجْمَرٍ وَّرَظْفٌ كَايُنُوْنَ كَيْ مَتَعْلَقٌ هُوَ كَر خَبْرٍ، مَبْدَا بِاِخْبَرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَّةٍ هُوَ

● رکوع نمبر ۲ ●

وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَ مَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۗ وَ مَنْ

كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: وَاوَاِسْتِثْنَاوِيَّةٍ لَّا مَوْطِئَ لِقَسْمٍ اَوْرِ قَسْمٍ مَحْذُوفٍ هِيَ قَدْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَتَيْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ لُقْمَانَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَوَّلٌ، اَلْحِكْمَةُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ ثَانِي، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَّمَفْعُوْلِيْنَ مَفْسَّرٌ، اَنْ حَرْفٌ تَفْسِيْرٌ (كِيُوْنَكِيءَ حَكْمَتٌ دِيْنِيٌّ فِيْ قَوْلٍ كَا مَعْنَى هِيَ اِسْ طَرَحٌ كِيءَ اِيْتَاءِ حَكْمَتٍ كَا مَعْنَى تَعْلِيْمٍ حَكْمَتٌ هِيَ اَوْرِ تَعْلِيْمٍ اَكْثَرُ قَوْلٍ كَيْ سَاثَمٌ هُوَتِي هِيَ) اَشْكُرُ فَعْلٌ اِمْرَاَتٌ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ لِلّٰهِ مَتَعْلَقٌ سِيءَ مَلٍ كَر مَفْسَّرٌ، مَفْسَّرٌ بِاِ مَفْسَّرٍ جَوَابٌ قَسْمٍ، قَسْمٌ بِاِجْوَابِ قَسْمٍ جَمَلَةٍ اِنْتِثَابِيَّةٍ قَسْمِيَّةٍ هُوَ سَاوَاِسْتِثْنَاوِيَّةٍ مِّنْ اِسْمٍ شَرْطٍ مَبْدَا، يَشْكُرُ فَعْلٌ بِاِ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ مَّا كَا نِيءَ يَشْكُرُ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ لِنَفْسِهٖ مَتَعْلَقٌ سِيءَ مَلٍ كَر جَزَاءً، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ كَر مِّنْ كِيءَ خَبْرٍ، مَبْدَا بِاِخْبَرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ اَوْ كَر مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ، وَاوَاِسْتِثْنَاوِيَّةٍ مِّنْ اِسْمٍ شَرْطٍ مَبْدَا، كَفَرَ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ سِيءَ مَلٍ كَر شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَللّٰهُ كَس كَا اِسْمٌ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ وَّخَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ اِسْمٌ وَّخَبْرٌ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ جَزَاءً، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ مِّنْ كِيءَ خَبْرٍ، مَبْدَا بِاِخْبَرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوْفَةٌ هُوَ

وَ اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يَبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۳: واؤ استینافیہ اذ مضاف قال فعل لقمان ذوالحال واؤ حالیہ ہو ضمیر مبتدا، یعیظ فعل ہو مستتر قائل ہضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بذوالحال باحال قائل لایقہ جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، یناء حرف نداء اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل آکا ضمیر مستتر قائل یعنی مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، لا تشکرک فعل انت مستتر قائل باللہ متعلق سے مل کر جواب نداء، نداء با جواب نداء مفعول، قول با مقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہو فعل محذوف اذکو کا... الخ ان حرف تہنئ الشکرک اس کا اسم، لام مذعلقہ ظلمہ عظیمہ مرکب توصیفی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ۝

آیت نمبر ۱۴: واؤ استینافیہ ووصینا فعل نا ضمیر قائل الإنسان مفعول بہ یوالدیه متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ان حرف تفسیر اشکو فعل امر انت مستتر قائل لی جہا با مجرور معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یوالدیک جہا با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مفسر، مفسر با مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حملت فعل ہضمیر مفعول بہ، امہ مرکب اضافی ذوالحال وھنما موصوف علی وھن کا ثنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فعل محذوف ھن کا مفعول مطلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ فصائلہ مرکب اضافی مبتدا، فی عامین کا ثنا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مترضہ ہوالی کا ثنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم المصیر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

وَإِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۵: واؤ عاطفہ ان شرطیہ جاھدا فعل الف ضمیر قائل علی حرف جار ان مصدریہ نامیہ تشکرک فعل انت مستتر قائل بی جہا با مجرور متعلق ہوئے، ما اسم موصول لیس فعل ناقص لک کا ثنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم علم مصدریہ متعلق مقدم سے مل کر اسم مؤخر، لیس با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لا تطع فعل انت مستتر قائل ھما مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واؤ عاطفہ صاحب فعل امر انت مستتر قائل ھما ضمیر مفعول بہ فی الدنیا متعلق معروفاً بواسطہ موصوف محذوف صحابا مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعولین معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اتبع فعل امر انت مستتر قائل سبیل من اناب الی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ سبیل کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با قائل

و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔ **ثُمَّ** عاطفہ الی طرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم **مَزَجِعُكُمْ** مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، فاء عاطفہ **اَتَّبِعْنَا** فعل انما مستتر فاعل **كُمُ** ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما موصول **كُنْتُمْ** فعل ناقص **ثُمَّ** ضمیر اس کا اسم، **تَعْمَلُونَ** فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جارہ با مجرور **اَتَّبِعْنَا** کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

يُبَيِّنُ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاتِ بِهَا اللهُ اِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

آیت نمبر ۱۶: **يَا بَيِّنُ** کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ ندا ہے ان حرف تحقیق **هَا** ضمیر اس کا اسم ان شرطیہ **تَكُ** فعل ناقص **هِيَ** مستتر فاعل **مِثْقَالَ** مضاف **حَبَّةٍ** موصوف **مِنْ خَرْدَلٍ** کا لائنہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ **كُنْ** فعل ناقص **هِيَ** مستتر اس کا اسم، **فِي صَخْرَةٍ** معطوف علیہ، **اَوْ** عاطفہ **فِي السَّمَوَاتِ** معطوف اول، **اَوْ** عاطفہ **فِي الْاَرْضِ** معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کا لائنہ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرطیہ **يَاتِ** فعل **بِهَا** جارہ با مجرور متعلق ہوئے، **اللَّهُ** فاعل، فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب **نداء**، **نداء** با جواب **نداء** جملہ انشائیہ **ندائے** ہوا۔ ان حرف تحقیق **اللَّهُ** اس کا اسم **لَطِيفٌ خَبِيرٌ** دو خبر **ان** با اسم و خبر **ین** جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

يُبَيِّنُ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ۝

آیت نمبر ۱۷: **يَا بَيِّنُ** کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ ندا ہے **اَقِمِ** فعل امر **اَنْتَ** مستتر فاعل **الصَّلَاةَ** مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، **وَاَوْ** عاطفہ **اُمُرْ** فعل امر **اَنْتَ** مستتر فاعل **بِالْمَعْرُوفِ** متعلق سے مل کر معطوف اول، **وَاَوْ** عاطفہ **اَنْهَ** فعل امر **اَنْتَ** مستتر فاعل **عَنِ الْمُنْكَرِ** متعلق سے مل کر معطوف ثانی، **وَاَوْ** عاطفہ **اَصْبِرْ** فعل امر **اَنْتَ** مستتر فاعل **عَلٰى جَارِه** ما اسم موصول **اَصَابَكَ** فعل **هُوَ** مستتر فاعل **كَانَ** ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جارہ با مجرور **اَصْبِرْ** کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات **ملاشہ** جواب **نداء**، **نداء** با جواب **نداء** جملہ انشائیہ **ندائے** ہوا۔ ان حرف تحقیق **ذٰلِكَ** اس کا اسم **مِنْ جَارِه** **عَزْمِ الْاُمُورِ** مرکب اضافی مجرور، جارہ با مجرور **كَانِ** کے متعلق ہو کر خبر **ان** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

آیت نمبر ۱۸: **وَاَوْ** عاطفہ **لَا تَصْعَرَ** فعل **اَنْتَ** مستتر فاعل **خَدَّكَ** مرکب اضافی مفعول بہ **لِلنَّاسِ** متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، **وَاَوْ** عاطفہ **لَا تَمْشِ** فعل **اَنْتَ** مستتر فاعل **فِي الْاَرْضِ** متعلق **مَرَحًا** بواسطہ موصوف محذوف کے مفعول مطلق سے مل کر

معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں اِن حرف تحقیق اللہ اس کا اسم لایَجِبُ فعل ہو مستتر فاعل کل مضاف مُخْتَالِ
فَخُوْر مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ
مطلہ ہوں۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

آیت نمبر ۱۹: واؤ عطف اقصید فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل فِي مَشْيِكَ متعلق سے مل کر جملہ انتہائی معطوف علیہ، واؤ عطف
اَعْظُضْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مِنْ صَوْتِكَ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں اِن حرف تحقیق
اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ مرکب اضافی اس کا اسم، لام مذ حلقہ صَوْتُ الْحَمِيرِ مرکب اضافی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطہ ہوں۔
رکوع نمبر ۳

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً وَاَمِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدٰى وَّلَا كِتٰبٍ

مَنْبِرٍ ۝

آیت نمبر ۲۰: ہمزہ استفہامیہ لَمْ تَرَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اِن حرف تحقیق اللہ اس کا اسم سَخَّرَ فعل ہو مستتر فاعل مَّا اسم
موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر فعل مخدوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عطف مَّا فِي الْاَرْضِ کی
ترکیب مَّا فِي السَّمٰوٰتِ کی مثل ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با سَخَّرَ کا مفعول بہ، لَكُمْ جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل
با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف اَسْبَغَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جارہ با مجرور متعلق ہوئے نِعْمَتُهُ
مرکب اضافی ذوالحال ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً معطوف علیہ با معطوف حال بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ
خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر لَمْ تَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انتہائی
استفہامیہ ہوں واؤ استثنائیہ مِنَ النَّاسِ کٰثِرٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّنَ النَّاسِ موصول یُّجَادِلُ فعل ہو مستتر ذوالحال بآء جارہ غیر
مضاف عِلْمٍ معطوف علیہ، واؤ عطف لَا زِلْدَةَ هُدٰى معطوف اول، واؤ عطف لَا زِلْدَةَ كِتٰبٍ مَنْبِرٍ مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف
علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جارہ با مجرور مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال یُّجَادِلُ کا فاعل فی
اللہ جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوں۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَّا وَاٰبَاؤُنَا اَوْ لَوْ
كَانَ الشّٰيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السّٰعِيْرِ ۝

آیت نمبر ۲۱: واؤ عطف اِذَا شرطیہ مفعول فی مقدم قِيْلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
قول، اِتَّبِعُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل مَّا اسم موصول اَنْزَلَ فعل اللہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ

جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ شرط، قالوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، بکل عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لا تتبع ما أنزل اللہ، تتبع فعل نَحْنُ مستتر فاعل ما موصولہ و جَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَیْهِ متعلق اباء تارکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ہمزہ استفہامیہ واو عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے ایتَّبِعُوا نَهْمًا لَوْ شِئْتُمْ لَکَانَ نَاقصہ الشَّیْطَانِ اس کا اسم یدْعُو فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الی عَذَابِ السَّعِیرِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر شرط، جزاء محذوف ہے فیتَّبِعُونَهُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہوا۔

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۲۲: واو استینافیہ من شرطیہ مبتدا، یُسْلِمْ فعل ہو مسترزوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا، مُحْسِنٌ خبر، مبتدا باخبر حال، ذوالحال باحال فاعل وَجْهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ الی اللہ جارہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قد علامت فعل، اسْتَمْسَكَ فعل ہو مستتر فاعل بآء جارہ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مرکب توصیفی مجرد، جارہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ الی اللہ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَاقِبَةُ الْأُمُورِ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۲۳: واو عاطفہ من شرطیہ مبتدا، كَفَرَ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لَا يَحْزُنُ فعل نہی کاف ضمیر مفعول بہ كُفْرُهُ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ إِلَيْنَا جارہ باجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرْجِعُهُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ نُنَبِّئُهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما موصولہ عَمِلُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرد، جارہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ مطلقہ ہوا۔ إِنَّ حرف تحقیق اللہ کاس کا اسم عَلِيمٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بآء جارہ ذَاتِ الصُّدُورِ مرکب اضافی مجرد، جارہ باجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

لَمَّا نَبَّئْتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّضْتَهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيمٍ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۲۳: لَمَّا نَبَّئْتَهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف زمانا کے مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ نَضَّضْتَهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الی عَذَابٍ عَلِيمٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ

خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہوں

وَلَیْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْکَیْنِ ۝

آیت نمبر ۲۵: واؤ استثنائیہ لام موطنہ للضم اور ضم مخدوف جان شریعتاً لہذا من خلق السموات والأرض لیسئلون
الله قلی الحمد لله بل الکیونہم لیسئلون اس جیسی آیت کی ترکیب سے ہمیں دوسرے کون سے کلمے بھی
یہ ما فی السموات والأرض إن الله هو الغنی الحئید ۝

آیت نمبر ۲۶: لله جہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ ماس موصول فی جہ السموات والأرض معطوف علیہ
با معطوف مجرور، جہ با مجرور فعل مخدوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ موصول بہلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولین
حرف تحقیق اللہ اس کا اسم ہو ضمیر فصل الغنی الحئید و خبر بان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں
وَلَوْ أَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمْدَدُ مِنْ بَعْدِہِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۝

آیت نمبر ۲۷: واؤ عاطفہ لو شرطیہ ان حرف تحقیق ما موصول فی الأرض فعل مخدوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ موصول
باصلہ ذوالحال من شجرۃ جہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر حال مذوال بال بحال ان کا اسم اقلام خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
فاعل ہوا فعل مخدوف ثبوت کا، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط واو حالیہ البحر یمد یمد فعل ضمیر مفعول بہ من بعدہ
کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم سبعة ابھر مرکب اضافی یا تمیز با تمیز ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ
جملہ فعلیہ خبریہ البحر کی خبر، مبتدأ خبر اقلام کا حال ہے۔ مانائیہ نفدت فعل کلمات اللہ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ جزا، شرط با جزا جملہ شرطیہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عزیز حکیم دو خبر بان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں
مَا خَلَقْکُمْ وَلَا بَعَثْکُمْ اِلَّا کَنْفُسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

آیت نمبر ۲۸: مانائیہ خلقکم مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لازمہ ببعثکم مرکب اضافی معطوف، معطوف
علیہ با معطوف مبتدأ الاحرف استثناء کاف جہ نفس و احدۃ مرکب توصیفی مجرور، جہ با مجرور مشش مفرغ کائنات کے متعلق ہو کر
خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم سمیع بصیر دو خبر بان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ یُولِجُ النَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ یُؤْلِجُ النَّهَارَ فِی النَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ
القَمَرَ کُلٌّ یَجْرِیْ اِلَیَّ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ۝

آیت نمبر ۲۹: ہمزہ استفہامیہ لم توتر فعل انت مستتر فاعل ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یولج فعل ہو مستتر فاعل النیل
مفعول بہ فی النهار متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یولج فعل ہو مستتر فاعل النهار مفعول بہ فی النیل متعلق سے مل

کر معطوف ازل، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو مستتر فاعل الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم بآء جارہما موصولہ تَعْمَلُونَ فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم خَبِيرٌ صیغہ صفت با ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر کُلُّ مبتدأ، یَجْرِي فعل ہو مستتر فاعل اِلٰی جارہ اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سے حال ہو۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيْرُ ۝

آیت نمبر ۳۰: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ بآء جارہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم ہو ضمیر فعل الْحَقُّ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق مَا موصولہ يَدْعُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ دُوْنِهِ كَاثِرًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اَنْ کا اسم الْبَاطِلُ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ازل، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم ہو ضمیر فعل الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور كَاثِرًا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ ۱ ﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴿ ۲ ﴾

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ ۝

آیت نمبر ۳۱: هَمْزہ استفہامیہ لَمْ تَرَ فعل اَلَمْ مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق الْفُلْكَ اس کا اسم تَجْرِي فعل ہی مستتر ذوالحال بِنِعْمَةِ اللّٰهِ ظرف مستقر مَقْرُوْنَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل فِي الْبَحْرِ جار با مجرور متعلق ازل ہوئے، لام جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُرِيْ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ جارہ اٰيٰتِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ با اسم و خبر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق فِي ذٰلِكَ ظرف مستقر كَاثِرَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم لام مذ حلقہ اٰیات موصوف لام جارہ كَلِّ مضاف صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف، الیہ مجرور، جار با مجرور كَاثِرَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّ مَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خٰتَرٍ كَفُوْرٍ ۝

آیت نمبر ۳۲: **وَإِذْ عَاطَفَهُ إِذْ أَشْرَطِيهِ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ غَشِيٌّ فَعْلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مَوْجُحٌ مَوْصُوفٌ كَالْقَلْبِ جَارٌ بِجَرٍّ وَرَكَائِبٌ**
 کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت فاعل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، دَعَوَا فَعْلٌ وَادُّ ضَمِيرٌ وَالْحَالُ مُخْلِصِينَ اس
 فاعل هُمْ مستتر فاعل لہ متعلق الدین مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اللہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ
 جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں فاء عاطفہ لئنا شرطیہ مفعول فی مقدم تَجِي فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الی الی متعلق
 سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ مِنْهُمْ كَائِبٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مُقْتَصِدٌ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ
 خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں و استئنافیہ مَا نَأْتِيهِ يَجْعُدُ فَعْلٌ بَاءٌ جَارٌ لِيَتَنَّا مَرْكَبٌ اضْطَائِبٌ جَرٌّ، جَارٌ بِجَرٍّ وَرَكَائِبٌ مستتر مقدم الی
 حرف استثناء كُلُّ مضاف خَشَاءٌ كَفُورٌ مَرْكَبٌ توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَشْتَبِهٌ مَفْرُغٌ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ
 فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَكَلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ
عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْغُرُورُ

آیت نمبر ۳۳: **يَاءٌ حَرْفٌ نِدَاءٌ قَائِمٌ مَقَامُ أَدْعُوْكَ، أَدْعُوْكَ فَعْلٌ أَيْ مَوْصُوفٌ هَا بَرَأَيْ عِبَادَةَ النَّاسِ صِفَتٌ،**
 موصوف بہ صفت مَعْلًا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اتَّقُوا فَعْلٌ وَادُّ ضَمِيرٌ فاعل رَبَّكُمْ مَرْكَبٌ اضْطَائِبٌ
 مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، وَاوْءَاطَفَهُ إِحْشُوا فَعْلٌ اِرْءَاوْءَ ضَمِيرٌ فاعل يَوْمًا مَوْصُوفٌ لَا يَجْزِي فَعْلٌ وَالِدٌ مَعطوف
 علیہ، وَاوْءَاطَفَهُ لَا زَلَّةَ مَوْلُودٌ مَوْصُوفٌ (مظہری) هُوَ مبتدا، جَارٌ اس فاعل هُوَ مستتر فاعل عَنْ وَالِدِهِ جَارٌ بِجَرٍّ وَرَكَائِبٌ بواسطہ
 موصوف محذوف جزاء کے مفعول مطلق، اسم فاعل بافاعل و متعلق مطلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر مَوْلُودٌ کی صفت،
 موصوف بہ صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا يَجْزِي كَالْفَاعِلِ عَنْ وَكَلِدِهِ جَارٌ بِجَرٍّ وَرَكَائِبٌ متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ
 خبریہ ہو کر یَوْمًا کی صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء باجواب
 نداء جملہ انشائیہ نداء ہوا، اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ وَعَدَّ اللَّهُ مَرْكَبٌ اضْطَائِبٌ اس کا اسم حَقٌّ خَيْرٌ اِنَّ بِاسْمِ وَخَيْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں فاء
 نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتَ اَنَّ اَكْثَرَ لَا يَجْزِي عَنْ اَكْثَرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (تفسیر) لَا تَغُرَّنَّ فَعْلٌ نَمِي
 ثُمَّ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ توصیفی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاوْءَاطَفَهُ لَا يَغُرَّنَّ فَعْلٌ
 نَمِي كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ بِاللَّهِ متعلق الْغُرُورُ فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ
 شرطیہ ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْضِ حَامِدٌ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

آیت نمبر ۳۳: اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ اللّٰهِ اس کا اسمِ عِنْدَهُ مرکب اضافی کا حَاصِلٌ مخدوف کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدمِ عِلْمُ السَّاعَةِ مرکب اضافی مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَنْزِلُ فعل ہو مستتر فاعل اَلْقَيْنَا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا فِي الْاَرْحَامِ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو سو واو عاطفہ مَا نَافِیۃ تَنْذِرِیْ فعل لَنْفُسِ فاعل مَا نَافِیۃ استفہامیہ مفعول بہ مقدم تَنْكِسِبُ فعل ہی مستتر فاعل عَدَا مفعول فیہ اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر تَنْذِرِیْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَافِیۃ تَنْذِرِیْ فعل لَنْفُسِ فاعل بَآءِ جَارِ مَاۗیْ اَرْضِیْں مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم تَمُوْتُ فعل ہی مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر تَنْذِرِیْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو لِاِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ اللّٰهِ اس کا اسم عَلَیْہُمْ خَبَرٌ و خبر، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہو۔

ترکیب سُورَةُ السَّجْدَةِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ التَّمَّ ۝ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱: التَّمَّ خبر ہے مبتدا مخدوف ہڈی کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے تَنْزِیْلُ مضاف الیہ کتاب ذوالحال لائلی جس کی ریب اس کا اسم فیہ جدا بجز در کائین کے متعلق ہو کر خبر لائلی جس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا، من جارہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مرکب اضافی مجرور، جدا بجز در کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتٰهُمْ مِنْ نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعٍ ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳، ۴: اَمْ یَقُولُونَ فعل باوا ضمیر فاعل قول، اَفْتَرَاهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو بل برائے اضراب ہو ضمیر مبتدا، الْحَقُّ ذوالحال من رَبِّكَ کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لآہ جارہ تعلیل اس کے بعد ان مقدر ہے تَنْذِیْرٍ فعل آت ضمیر ذوالحال لعل حرف ترحی ضمیر اس کا اسم یَهْتَدُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترحیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل قَوْمًا موصوف ما تانیہ آتی فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، من جارہ زلذہ نَّذِیْرٍ موصوف من قَبْلِكَ جدا بجز در کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت علامر فروع فاعل، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف با صفت تَنْذِیْرٍ کا مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مجرور، جدا بجز در متعلق ہوئے تَنْزِیْلُ مصدر کے، اَللّٰهُ مبتدا، الَّذِیْ اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل السَّمٰوٰتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْاَرْضَ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول بَیْنَهُمَا مرکب اضافی مفعول فیہ ہوا فعل مخدوف تَبَّتْ کا، فعل با فاعل ومفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خَلَقَ کا مفعول بہ، یعنی جارہ سِتَّةِ اَیَّامٍ مرکب اضافی یا میز با تمیز مجرور، جدا بجز در متعلق ہوئے خَلَقَ کے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اسْتَوٰی فعل ہو مستتر فاعل عَلٰی الْعَرْشِ جدا بجز در متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لآ تانیہ لَكُمْ جدا بجز در طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم من دُوْنِهٖ جدا بجز در کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم من جارہ زلذہ مَوْلی معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زلذہ شَفِیْعٍ معطوف، معطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال علامر فروع

مبتداً مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہمیں کہ استفہامیہ فاء عاطفہ معطوف علیہ مذرف لایَنْظُرُونَ، لاکتدکروُن فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متاخر ہوں

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

آیت نمبر ۵: يُدَبِّرُ فعل ہو مستتر فاعل الأمر مفعول بہ مِنَ السَّمَاءِ جار با مجرور متعلق ازل، إِلَى الْأَرْضِ جار با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یَعْرُجُ فعل ہو ضمیر ذوالحال فی جارہ یَوْمٍ موصوف کان فعل ناقص مِقْدَارُهُ مرکب اضافی اس کا اسم اَلْفَ سَنَةٍ مرکب اضافی موصوف مِنْ جارہ مَا اسم موصول تَعُدُّونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ یَوْمٍ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل إِلَيْهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے خَلَقَ کی ہو ضمیر سے، یا اسْتَوَى کی ہو ضمیر سے حال ہے۔ یا اللَّهُ کی خبر ہے۔

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

آیت نمبر ۶، ۷، ۸: ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر ازل، الْعَزِيزُ دوسری خبر، الرَّحِيمُ خبر ثالث، الَّذِي اسم موصول أَحْسَنَ فعل ہو مستتر فاعل كُلَّ شَيْءٍ موصوف خَلَقَهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بَدَأَ فعل خَلَقَ مصدر مضاف الْإِنْسَانِ مضاف الیہ معنی مفعول بہ مِنْ طِينٍ جار با مجرور متعلق، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق بَدَأَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ازل، ثُمَّ عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل نَسْلَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، مِنْ جارہ سُلَالَةٍ موصوف مِنْ جارہ مَاءٍ مَّهِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کائِنَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور جَعَلَ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَّذِي کا صلہ، موصول باصلہ خبر راجع، مبتدأ با خبر راجعہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا
مَّا تَشْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۹: ثُمَّ سَوَّاهُ معطوف سَوَّى فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نَفَخَ فعل ہو مستتر فاعل فِيهِ متعلق ازل، مِنْ رُّوحِهِ متعلق ثانی سے مل کر معطوف ازل، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمُ متعلق وَالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَقْبَدَةَ معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔
قَلْبًا بواسطہ موصوف محذوف شکر کے مفعول مطلق مقدم مآزلہ تَشْكُرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ
خبریہ متاخر ہوں۔

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتَانَا لَنْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واوا استینافیہ قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، ہمزہ استفہامیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ضَلَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی
الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے تَبَعَتْ، شرط باجزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔
ہمزہ استفہامیان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لام مذ حلقہ فی جارہ خَلْقٍ جَدِيدٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کَانُوا کے متعلق
ہو کر خبر، مبتدا با خبر جزاء محذوف کی تفسیر ہے۔ بَلْ برائے اضراب هُمْ ضمیر مبتدا بآء جارہ لِقَائِي رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور
متعلق مقدم کَفِرُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، يَتَوَفَّيْكُمْ فعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مَلَكُ الْمَوْتِ مرکب اضافی موصوف
الَّذِي اسم موصول وُكِّلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل بِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف
با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ تُرْجَعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل إِلَىٰ رَبِّكُمْ متعلق مقدم سے مل
کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

﴿ ۲ ﴾ رکوع نمبر ۲ ﴿ ۱ ﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طَرَبْنَا أَبْصَرْنَا وَسَبَعْنَا

فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: واوا استینافیہ لَوْ شرطیہ تَرَىٰ فعل آتت مستتر فاعل اذ مضاف الْمُجْرِمُونَ مبتدا، نَاكِسُوا مضاف رُءُوسِهِمْ مرکب
اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ
خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے لَوْ آیت أَمْرًا عَظِيمًا، عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کَانُوا کے مفعول فیہ ہو کر حال ہے رُءُوسِهِمْ
کی هُمْ ضمیر سے، یا نَاكِسُوا کا مفعول فیہ ہے۔ رَبَّنَا دارا صل یَا رَبَّنَا ہے اور یہ ندا ہے أَبْصَرْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ،
واوا عاطفہ سَبَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب ندا، ندا با جواب ندا قَائِلِينَ محذوف کا مقولہ
ہو کر حال ہے رُءُوسِهِمْ کی هُمْ ضمیر سے۔ فَاد فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا اعْتَرَفْنَا بِتَقْصِيرِنَا لِقَائِهِمْ لَنْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ نَعْمَلْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر جزاء ہے
شرط مقدران تَرْجَعْنَا، اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مؤقنون خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ کو شرطیہ شئنا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر شرط، لام جوابیہ آتینا فعل نا ضمیر فاعل کل نفس مرکب اضافی مفعول بہ اول، ہذا ہا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا و حالہ لیکن حرف استدراک مہمل حق فعل القول ذوالحال موقی طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل حال ہے ہذا ہا سے۔ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے املئن فعل نا ضمیر فاعل جہنم مفعول بہ من جہا الجنتہ والناس معطوف علیہ با معطوف مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد با تاکید مجرور، جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۴: فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے ان نسیئتم ہذا کلمہ، ذوقوا فعل امر واو ضمیر فاعل بآء جارہ ما موصولہ نسیئتم فعل ثم ضمیر فاعل لقاء مضاف یومکم مرکب اضافی موصوف ہذا صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نسیئنا فعل نا ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا و عاطفہ ذوقوا فعل امر واو ضمیر فاعل عذاب الخلد مرکب اضافی مفعول بہ، بآء جارہ ما موصولہ کنتم فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل ہاواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۵: ان حرف تحقیق ما کا فیہ من فعل بایاتنا جارہا با مجرور متعلق ہوئے الذین اسم موصولہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، ذکرُوا فعل مجہول ہاواو ضمیر نائب فاعل بہا متعلق سے مل کر شرط، خروا فعل واو ضمیر ذوالحال سجد احال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ سبحوا فعل واو ضمیر ذوالحال بحمد ربہم جارہا با مجرور متکسین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل واو حالہ ہم ضمیر مبتدأ، لا یستکبرون فعل ہاواو ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ثانی ہے سبحوا کی واو ضمیر فاعل سے، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء صلہ، موصول باصلہ فیہ من کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ⑩

آیت نمبر ۱۲: تَتَجَافَى فعل جُنُوبُهُمْ مرکب اضافی فاعل عَنِ الْمَضَاجِعِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستوف ہوا۔
 يَدْعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ خَوْفًا وَ طَمَعًا معطوف علیہ بالمعطوف مفعول لہ، فعل ہاقعل و مفعولین جملہ
 فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ من جادہ مَا اس موصول رَزَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ
 مجرور، جادہ مجرور متعلق مقدم يَنْفِقُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ مستوف
 ہوا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑪

آیت نمبر ۱۷: فَاہ فصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّعْلَمَ مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ، لَا تَعْلَمُ فعل نَفْسٌ فاعل
 مَا اس موصول اُخْفِيَ فعل ہو متضرب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ ذوالحال ہا حال مِنْ جادہ قُرَّةِ اَعْيُنٍ مرکب اضافی
 مجرور، جادہ مجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فعل ہاقعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ
 ہوا۔ جَزَاءُ مصدر بناء جادہ مَا اس موصول کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کاسم يَعْمَلُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اس
 و خبر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق مفعول لہ ہوا فعل محذوف جُوُزُوا کا۔

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ⑫

آیت نمبر ۱۸: هَمْز کا استفہامیہ فَاہ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبادت ہے اَيَسْتَوِي وَلِي اللّٰهِ وَعَدُو اللّٰهِ،
 مَنْ اس موصول كَانَ فعل ناقص ہو متضرب اسم مؤمنا خبر سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ، کاف جادہ مَنْ اس موصول كَانَ فعل ناقص
 ہو متضرب اسم فاسقا خبر سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جادہ مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ
 بالمعطوف جملہ مستوف انشائیہ ہوا۔ لَا يَسْتَوُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ الْمَآوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑬

آیت نمبر ۱۹: اَمَّا حرف شرط و تفصیل الَّذِينَ اس موصول اَمَنُوا فعل ہاواؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عَمِلُوا فعل
 واؤ ضمیر فاعل الصّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ متضمن معنی شرط ہا فَاہ جزائیہ
 لَهُمْ جادہ مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّٰتِ الْمَآوٰى مرکب اضافی ذوالحال نُزُلًا موصوف بناء جادہ مَا موصول کَانُوا فعل
 ناقص واؤ ضمیر اس کاسم يَعْمَلُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اس و خبر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جادہ مجرور کائنات کے
 متعلق ہو کر صفت، موصوف ہصفت حال، ذوالحال ہا حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر مبتدأ اول کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ خبر جملہ اسیہ
 خبریہ ہوا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: واؤ عطفہ امتاحرف شرط و تفصیل الَّذِينَ اسم موصول فَسَقُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدا قائم مقام شرط، فقاء جزائیہ مَأْوَاهُمْ مرکب اضافی مبتدا، النَّارُ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اہل کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں کَلَّمَا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم، أَرَادُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ ناصب یَخْرُجُوا فعل واؤ ضمیر فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، أُعِيدُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل فِيهَا متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عطفہ قِيلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر قول، ذُوقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل عَذَابَ النَّارِ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم بہ جہد باجہر متعلق مقدم تُكذِّبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت ذُوقُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَنذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: واؤ عطفہ لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے لَنذِيقَنَّ فعل نَحْنُ مشترک فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ جادہ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ مرکب توصیفی مجرور، جادہ باجہر و کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم دُونَ مضاف الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں لَعَلَّ حرف ترجی ہُمْ ضمیر اس کا اسم یَرْجِعُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معللہ ہوں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: واؤ استینافیہ مَنْ اسم استفہام مبتدا، أَظْلَمُ اسم تفضیل ہو مشترک فاعل مِنْ جادہ مَنْ اسم موصول ذُكِّرَ فعل مجہول ہو مشترک نائب فاعل بِآيَاتِ رَبِّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطفہ أَعْرَضَ فعل ہو مشترک فاعل عَنْهَا متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجہر و متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم مُنتَقِمُونَ اسم فاعل نَحْنُ مشترک فاعل مِنَ الْمُجْرِمِينَ متعلق مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿ ۳ ﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا إِنَّا صَبَرْنَا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۳، ۲۴: واوا استیغاب لآمر موطئہ للقسّم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل مؤنثی مفعول بہ اذّل، اَلْكِتَابِ مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں فاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِنْ تَسَاءَلْتُمْ، لَا تَكُنْ فاعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم فی جادہ مؤنثیہ موصوفہ مِنْ لِقَائِهِ كَائِنَتِهِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جادہ باجورر کائنتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ جَعَلْنَا فاعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اذّل، هُدَى موصوفہ لآمر جادہ یقویٰ اسْمُ اِذِ اِذِلَّ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجورر کائنتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلْنَا فاعل نا ضمیر فاعل مِنْهُمْ جادہ باجورر مفعول بہ یعنی کی جگہ میں ہے اِتَتْهُ موصوفہ يَهْدُونَ فاعل واو ضمیر ذوالحال بِأَمْرٍ قَا كَائِنَتَيْنِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل صفت، موصوفہ باصفت مفعول اذّل، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں لَمَّا ظَرَفِيهِ مَقْنَنٍ معنی شرط مفعول فیہ مقدم صَبَرُوا فاعل باواو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ كَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يُوَقِّتُونَ فاعل واو ضمیر فاعل بِأَيَاتِنَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، جزاء محذوف ہے جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑤

آیت نمبر ۲۵: اِنَّ حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدا، يَفْصِلُ فاعل هُوَ مستتر فاعل بَيْنَ مضاف هُم ضمیر ذوالحال يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَائِنَتَيْنِ کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ يَفْصِلُ کا، فی جادہ صا اسم موصول كَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَخْتَلِفُونَ فاعل واو ضمیر فاعل فِيهِ متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجورر يَفْصِلُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق خبر، مبتدا باخبران کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ⑥

آیت نمبر ۲۶: هَمْزہ استغابیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت، ہے اَغْفَلُوا، لَمْ يَهْدِ فاعل هُوَ مستتر راجع بسوئے رَبَّكَ فاعل لَهُمْ جادہ باجورر متعلق، فعل بافاعل و متعلق، معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں كَمْ خبریہ مفعول بہ مقدم اَهْلَكْنَا فاعل نا ضمیر فاعل مِنْ قَبْلِهِمْ كَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر حال مقدم من جادہ الْقُرُونِ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مجرور، جادہ باجورر کائنتا کے متعلق ہو کر كَمْ خبریہ کا حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں يَمْشُونَ فاعل واو ضمیر فاعل فِي مَسْكِنِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق فِي ذَلِكَ كَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر اِنَّ کی خبر مقدم، لآمر مذ حلقہ آیات اسم مؤخر، اِنَّ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں هَمْزہ استغابیہ فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے اَغْفَلُوا عَنْ آيَاتِنَا، لَا يَسْمَعُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متانفہ ہوں

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ ۚ وَ

أَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: ہمزہ استفہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، لَمْ يَزُوا، مَعْنَى لَمْ يَعْلَمُوا، فَعَلٌ وَأَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ أَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ تَأْخِيرٌ اس کا اسم نَسْوُوقٌ فَعْلٌ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ الْمَاءُ مَفْعُولٌ بِرِالِي جَدِهِ الْأَرْضِ الْجُزْءُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عَاطِفُهُ نُخْرِجُ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ فَاعِلٌ بِهِ جَدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ زَرْعًا مَوْصُوفٌ تَأْكُلُ فَعْلٌ مِنْهُ جَدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ أَنْعَامُهُمْ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ عَاطِفُهُ أَلْفُسُهُمْ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ نُخْرِجُ كَمَا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ أَنْ كِي خَبْرٌ، أَنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ تَأْوِيلٌ مَفْرُودٌ لَمْ يَزُوا كَمَا مَفْعُولٌ كَمَا قَامَ مَقَامَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمَلَةٌ مُسْتَانِدَةٌ هُوَ هَمَزَةٌ تَأْخِيرِيَّةٌ فَاعِلٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هُوَ، تَقْدِيرٌ عِبَارَتٌ هِيَ أَلَا يُلْقُونَ أَنْظَارَهُمْ، لَا يُبْصِرُونَ فَعْلٌ بِأَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمَلَةٌ مُسْتَانِدَةٌ هُوَ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینائیہ یَقُولُونَ فَعْلٌ بِأَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ قَوْلٌ، مَتَى اسْتِفْهَامِيَّةٌ كَالِئِنَّ كَمَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرِخْرٌ مُقَدِّمٌ هَذَا الْفَتْحُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مُبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ انْشَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ، وَأَوْ اسْمٌ كِي جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ فَبَيِّنُوا النَّاسَ وَفَتَنَهُ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فَعْلٌ أَمْرٌ بِأَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَوْلٌ هُوَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ مُقَدِّمٌ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَفْعُولٌ بِهِ مُقَدِّمٌ إِيْمَانُهُمْ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ عَاطِفُهُ هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ لَا يُنظَرُونَ فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ بِأَوْ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمَلَةٌ انْشَائِيَّةٌ أَمْرِيَّةٌ هُوَ

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: فَأَمَّا نَصِيرٌ أَوْ اسْمٌ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ إِذَا عَرَفْتَ حَالَهُمْ وَمَا لَهُمْ، أَعْرِضْ فَعْلٌ أَمْرٌ أَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ عَنْهُمْ مُتَعَلِّقٌ سَلٌّ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ عَاطِفُهُ انْتَظِرْ فَعْلٌ أَمْرٌ أَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ سَلٌّ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالِئِنَّ مُنْتَظَرُونَ خَبْرٌ، إِنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ

ترکیب سُورَةِ الْأَحْزَابِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** فعل امر آتت مستتر فاعل **اللَّهُ** مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ **لَا تُطِعِ** فعل نہی آتت مستتر فاعل **الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ** معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ **اتَّبِعْ** فعل امر آتت مستتر فاعل **مَا** موصول یوحی فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل **إِلَيْكَ** متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاصلہ ذوالحال **مِنْ رَبِّكَ** کا کئی کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ **تَوَكَّلْ** فعل امر آتت مستتر فاعل **عَلَى اللَّهِ** متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جواب نداء، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ ہوں۔

إِنَّ حرف تحقیق **اللَّهُ** اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اسم **عَلَيْنَا حَكِيمًا** اس کی دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبر **إِنَّ** کی خبر، **إِنَّ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہولیان حرف تحقیق **اللَّهُ** اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بآء جاہدہ ما اسم موصول **تَعْمَلُونَ** فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جاہدہ مجرور متعلق مقدم **خَبِيرًا** صیغہ صفت باہو مستتر فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر **إِنَّ** کی خبر **إِنَّ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہولواو استینافیہ کفی فعل بآء جاہدہ زلذہ **اللَّهُ** مرفوع علما فاعل و کینلا تمیز، فعل بافاعل و تمیز جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَرْوَاجَكُمْ اَلَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَ اَللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

آیت نمبر ۳: **مَا جَعَلَ اللَّهُ** فعل **اللَّهُ** فاعل **لِرَجُلٍ** جاہدہ مجرور متعلق ہوئے **مِنْ قَلْبَيْنِ** موصوفین موصوفہ **فِيْ جَوْفِهِ** کا کینین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **مَا جَعَلَ** فعل ہو مستتر فاعل **اَرْوَاجَكُمْ** مرکب اضافی موصوف **اَلَّتِي** اسم موصول **تَطْهَرُونَ** فعل واو ضمیر فاعل **مِنْهُنَّ** متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ اول **اُمَّهَاتِكُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و موصولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ **مَا جَعَلَ** فعل ہو مستتر فاعل **اَدْعِيَاءَكُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ اول **اَبْنَاءَكُمْ** مرکب

اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین جملہ متانفہ ہوں ذالکُم اسم اشارہ مبتدأ، قَوْلُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال بآء جارہ اَفْوَاهِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ اللہ مبتدأ، يَقُولُ فعل ہو مستقر قائل الْحَقُّ بواسطہ موصوف محذوف الْقَوْل کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ، يَهْدِي فعل ہو مستقر قائل السَّبِيلِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متانفہ ہوں

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؕ وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؕ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۵: اَدْعُوا فعل امر واو ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ لِأَبَائِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں ہو ضمیر مبتدأ، اَقْسَطُ اسم تفضیل ہو مستقر ذوالحال عِنْدَ اللَّهِ مرکب اضافی کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، اسم تفضیل بافاعل خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں فاء استینافیہ ان شرطیہ لَمْ تَعْلَمُوا فعل واو ضمیر قائل آبَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِخْوَانِكُمْ مرکب اضافی ذوالحال فِي الدِّينِ کائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ مَوَالِيكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف خبر ہے مبتدأ محذوف هُمْ کی، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْكُمْ کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَاحٌ موصوف فی جارہ مَا موصولہ اَخْطَأْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر قائل یہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور کائِنِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت لَيْسَ کا اسم مؤخر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں واو عاطفہ لَكِنْ حرف استدراک مہمل مَا اسم موصول تَعَمَّدَتْ فعل قُلُوبُكُمْ مرکب اضافی قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اور خبر محذوف ہے تَوَاحِدُونَ یہ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ کَانَ فعل ناقص اللہ اس کا اسم غَفُورًا رَحِيمًا و خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

النَّبِيِّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

آیت نمبر ۶: النَّبِيِّ مبتدأ، أُولَىٰ اسم تفضیل ہو مستقر قائل بِالْمُؤْمِنِينَ جاد باجرور متعلق اول من انفسهم جاد باجرور متعلق ثانی، اسم تفضیل با قائل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ اَزْوَاجَهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، اَمَّهُتَهُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں واو عاطفہ اَوْلُوا الْأَرْحَامِ مبتدأ اول، بَعْضُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ ثانی، اَوْلَىٰ اسم تفضیل ہو مستقر قائل بِبَعْضٍ جاد باجرور متعلق اول، فِي كِتَابِ اللَّهِ جاد باجرور متعلق ثانی، مِنْ جادہ الْمُؤْمِنِينَ وَ

الْمُهَاجِرِينَ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جاد باجرور متعلق ثالث، اسم تفضیل با فاعل و متعلقات ثلاثہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں بالآخر استثناء آن ناصر تفعّلوا فعل واو ضمیر فاعل ائی اولیائکم متعلق معرّوفاً مفعول بہ سے مل کر مستثنیٰ منقطع ہوا، کان فعل ناقص ذلک اس کا اسم مسطوراً اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل، فی الکتاب متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۗ

آیت نمبر ۷: واو استینافیہ اذ مضاف اخذنا فعل نا ضمیر فاعل من النبیین جاد باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ مینک جاد باجرور معطوف اول، واو عاطفہ من جادہ نوح معطوف علیہ، واو عاطفہ ابراہیم معطوف اول، واو عاطفہ موسیٰ معطوف ثانی، واو عاطفہ عیسیٰ مبدل منہ ابن مریم مرکب اضافی بدل، مبدل منہ مبدل معطوف ثالث، معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ مجرور، جاد باجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین اخذنا کے متعلق ہوئے ميثاقهم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ اخذنا فعل نا ضمیر فاعل منهم متعلق ميثاقاً غلیظاً مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف بالمضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کز کا، اذ کز فعل امر آت مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

لَيَسْئَلَنَّ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۗ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۗ

آیت نمبر ۸: لام جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یسئل فعل ہو مستتر فاعل الصّٰدِقِيْنَ مفعول بہ عن صِدْقِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور متعلق ہوا فعل محذوف فعلنا کا، فعلنا فعل نا ضمیر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ اعدّ فعل ہو مستتر فاعل للکافرین جاد باجرور متعلق ہوئے عذاباً الیماً مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۙ

آیت نمبر ۹: یاء حرف نداء قائم مقام اذعو کے، اذعو فعل انا مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے نبیہ الذین اسم موصول اَمَنُوْا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت ملامت موصوب مفعول بہ برائے اذعو، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، اذکووا فعل امر واو ضمیر فاعل نعمة اللہ مرکب اضافی ذوالحال جاد باجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ اذ مضاف جآءت فعل کم ضمیر مفعول بہ جنوداً فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف

علیہ، فاء عاطفہ آرسلنا فعل نا ضمیر فاعل علیہم جار مجرور متعلق یہاں معطوف علیہ، واو عاطفہ جنودا موصوف کم تکروا فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اذ کروا کا مفعول فیہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہو لو واو عاطفہ کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم بناء جارہما اسم موصول یعملون فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہو کے بصیر کے، بصیر صینہ صفت ہو ضمیر فاعل، صینہ صفت بافاعل و متعلق خبر، کان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ١٠

آیت نمبر ۱۰: اذ مضاف جاؤوا فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ من فوقکم جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ من جارہ اسفل اسم تفضیل ہو ضمیر فاعل منکم جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ زاعت فعل الالبصار فاعل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ بلغت فعل القلوب فاعل الحناجر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ تظنون فعل واو ضمیر فاعل باللہ جار مجرور متعلق الظنون مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل ہے اذ جاء وکم سے۔

هَذَا لِكِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزُلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١

آیت نمبر ۱۱: هذا لک اسم اشارہ ملامت منسوب مفعول فیہ مقدم ابتلی فعل مجہول المؤمنون نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ زلزلوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل زلزالا شدیدا مرکب توصیفی مفعول مطلق، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاثر ہو۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٢

آیت نمبر ۱۲: واو عاطفہ اذ مضاف یقول فعل المنفقون معطوف علیہ، واو عاطفہ الذین اسم موصول فی قلوبہم ظرف مستقر کسبت کے متعلق ہوئے، مرض فاعل، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل قول، مآنایہ وعد فعل نا ضمیر مفعول بہ اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف فاعل، الا حرف استثناء غرورا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ اذ کا مضاف الیہ ہے۔

وَ اِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ اٰهْلِ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَ يَسْتَاْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يَّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝۱۳

آیت نمبر ۱۳: واؤ عطفہ اذ مضارع قائل فعل طائفہ موصوفہ منہم طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت فاعل، فعل بافاعل قول، بیاہ حرف مدعا اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل انا مستر فاعل اهل یثرب مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر مدعا ہوا، لانی جنس مقام اس کا اسم لکم طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، لانی جنس با اسم و خبر جواب مدعا، مدعا با جواب مدعا مقولہ، قول با مقولہ اذ کا مضارع الیہ ہے۔ فاء تقریر یا از جمعوا فعل امر باوا ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امر یہ ہوں۔

واؤ استینائیہ یستأذین فعل فریق موصوفہ منہم طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت فاعل الکتب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ یقولون فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ان حرف تحقیق بیوتنا مرکب اضافی اسم، عورۃ خبر، ان با اسم و خبر معطوف علیہ، واؤ عطفہ ما مشابہ "یہ کیس ہی ضمیر اس کا اسم بیاہ زائد عورۃ ملامت منسوب خبر، ما با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ فریق سے حال ہے۔ ان نافیہ یریدون فعل واو ضمیر فاعل الا حرف استثنائیہ اور مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطلہ ہوں۔

وَ لَوْ دَخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سَبَلُوْا الْفِتْنَةَ لَا تَوَّاهَا وَ مَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلَّا

کِسِيْرًا ۝۱۴

آیت نمبر ۱۴: واؤ عطفہ لو شرطیہ دُخِلَتْ فعل مجہول ہی مستتر ذوالحال من اقطارہا طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل علیہم جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم عطفہ سَبَلُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْفِتْنَةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لام جوابیہ اتوا فعل باوا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عطفہ ما نافیہ تَلَبَّثُوْا فعل واو ضمیر فاعل بہا جملہ با مجرور متعلق ہوئے، الا حرف استثنائہ کِسِيْرًا تَلَبَّثُوْا موصوفہ محذوف کے واسطے سے مفعول مطلق، یا بواسطہ موصوفہ محذوف ز ما تان کے مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهِدُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْتُوْنَ اِلَّا دَبَّارًا ۚ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝۱۵

آیت نمبر ۱۵: واؤ عطفہ لام موطنہ للقس قد علامت فعل كانوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم عاهدوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ من قبل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم، لا یوتون فعل واو ضمیر فاعل الا دبار مفعول بہ، ہانی، اور مفعول اول محذوف ہے العادو، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں واؤ استینائیہ کان فعل ناقص عاهد اللہ مرکب اضافی اس کا اسم مسؤلہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تَمْتَعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۶

آیت نمبر ۱۲: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمَ تَأْتِي السُّمُومَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُبَالِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾
 خبریہ دال بر جزاء، ان شرطیہ فَوَزَّيْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل مِنْ جَدَاهِ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا و عاطفہ اِذَا کلمہ جواب و جزاء مہمل لَا تَكْتُمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف زَمَانًا کے مفعول فیہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اَللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوًّاۙ اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةًۙ وَا لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَا لَا نَصِيْرًا ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمَ تَأْتِي السُّمُومَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُبَالِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾
 موصول يَعْصِيكُمْ فعل هُوَ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بِهِ مِنَ اللّٰهِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ جزاء مقدم، ان شرطیہ اَرَادَ فعل هُوَ مستتر فاعل بِكُمْ متعلق سُوًّا مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ اَرَادَ فعل هُوَ مستتر فاعل بِكُمْ متعلق رَحْمَةً مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مؤخر، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا و استثنائیہ لَا يَجِدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل لَهُمْ جاد با مجرور مفعول بہ ثانی کی جگہ میں ہے مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ جَدَاهِ زَلَّهَ وَلِيًّا معطوف علیہ، او عاطفہ لَا زَلَّهَ نَصِيْرًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال مفعول بہ اِذْل، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَا الْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ؕ وَا لَا يَأْتُوْنَ الْبَاسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۴﴾ اَشْحٰةٌ عَلَيْكُمْ ؕ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرًا اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِيْئَةِ جَدَادٍ اَشْحٰةٌ عَلٰى الْخَيْرِ ؕ اَوْ لِيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَبَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَا كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۴، ۱۵: قَدْ حرف تحقیق يَعْلَمُ فعل اللّٰهُ فاعل اَلْاَسْمِ موصول مُعَوِّقِيْنَ ذوالحال مِنْكُمْ كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، او عاطفہ الْقَائِلِيْنَ اَسْمِ فاعل هُمْ مستتر فاعل لِاِخْوَانِهِمْ متعلق سے مل کر قول، هَلُمَّ اِسْمِ فعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل اِلَيْنَا متعلق سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال واو حالیہ لَا يَأْتُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال اَشْحٰةٌ صیغہ صفت هُمْ مستتر فاعل عَلَيْكُمْ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل الْبَاسِ مفعول بہ، الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف اِثْبَاتًا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین حال، ذوالحال با حال يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ

فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاء استینافیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعلِ الْخَوْفِ فاعل سے مل کر شرط، آیاتِ فعل تاء مفتوحہ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ يَنْظُرُونَ فعلِ وَاوْضَمِيرِ ذَوَالْحَالِ تَدْوُرُ فعلِ اَعْيُنُهُمْ مرکب اضافی فاعل کاف جادہ الَّذِي اسم موصول يُغْشَى فعل مجہول عَلَيَّهِ جادہ باجور نائب فاعل مِنَ الْمَوْتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجور کائِنَا کے متعلق ہو کر دَوَّرًا تَامُوصُوفٍ محذوف کے واسطے سے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق حال، ذوالحال باحال فاعلِ الْيَتَامَى جادہ باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فاء عاطفہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذَهَبَ فعلِ الْخَوْفِ فاعل سے مل کر شرط، سَلَقُوا فعلِ وَاوْضَمِيرِ ذَوَالْحَالِ اَشِيْحَةً صِفَةٌ باهْمُ مستتر فاعل عَلَى الْخَيْرِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل بَاءُ جادہ الْمَسِيْنَةِ حِدَادٍ مرکب توصیفی مجرور، جادہ باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، لَمْ يُوْصِيُوْا فعلِ وَاوْضَمِيرِ فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَحْبَطَ فعلِ اَللّٰهُ فاعل اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو اعتراضیہ کَانَ ناقصہ ذَلِيْكَ اس کا اسمِ يَسِيْرٍ اسیغہ صفت هُوَ مستتر فاعل عَلَى اَللّٰهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْلًا ۝

آیت نمبر ۲۰: يَحْسَبُونَ فعلِ وَاوْضَمِيرِ فاعلِ الْأَحْزَابِ مفعول بہ اَوَّلُ لَمْ يَذْهَبُوا فعلِ باوْضَمِيرِ فاعل سے مل کر مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہوا۔ واو عاطفہ اِنْ شرطیہ یَأْتِ فعلِ الْأَحْزَابِ فاعل سے مل کر شرط، يَوَدُّوْا فعلِ وَاوْضَمِيرِ فاعل لَوْ شرطیہ اَنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ هُمْ ضمیر اس کا اسم بَادُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال فی الْأَعْرَابِ "کائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر اَوَّلُ يَسْأَلُونَ فعلِ وَاوْضَمِيرِ فاعلِ عَنْ اَنْبَائِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر دوم، اَنْ با اسم و خبرین بتاویل مصدر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف تَبَيَّنَتْ كَانَتْ خَيْرًا (مظہری) شرط باجزاء مَعْلَا منصوب يَوَدُّوْا کا مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ معطوف ہوا۔ واو عاطفہ لَوْ شرطیہ كَانُوا فعل ناقص وَاوْضَمِيرِ اس کا اسم فِيكُمْ کائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مآنانیہ قَاتَلُوا فعلِ وَاوْضَمِيرِ فاعلِ اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف زَمَانًا کے مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

﴿ رُكُوْعٌ نُمْبَرٌ ۳ ﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ۝

آیت نمبر ۲۱: لَا مَوْطَءٌ للقسَمِ اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعلِ كَانَ فعل ناقص لَكُمْ جادہ باجور مبدل منہ لَا مَوْطَءٌ جادہ مَعْنِ اسم موصول كَانَ فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم يَرْجُوْا فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ اَللّٰهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْيَوْمِ الْأَخِرِ مرکب توصیفی معطوف،

معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ذکر فعل ہو
 مستتر فاعل اللہ مفعول بہ، کیونکہ بواسطہ موصوف محذوف ذکر کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف
 صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہ با مجرور بدل، مبدل منہ با بدل کا کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی رسول اللہ کائنۃ کے متعلق ہو کر حال
 مقدم اسوۃ حسنۃ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر و ذوالحال با حال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ
 قسمیہ ہو۔

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝

آیت نمبر ۲۲: واو عاطفہ لتاثر طبعیہ مفعول فی مقدم، رای فعل الْمُؤْمِنُونَ فاعل الْأَحْزَابِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول، هَذَا اسم اشدہ مبتدا، مَا اسم موصول وَعَدَ فعل ناقص مفعول بہ مقدم اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَدَقَ فعل اللَّهُ وَرَسُولُهُ معطوف علیہ
 با معطوف فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ مَا نافیہ زَادَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، الْأَحْزَابُ
 استثناء إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ بیانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف بیانی، معطوف علیہ
 با معطوفین صلہ، موصول با صلہ هَذَا کی خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

آیت نمبر ۲۳: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم رَجَالٌ موصول صَدَقُوا فعل واو ضمیر
 فاعل مَا اسم موصول عَاهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل اللَّهُ مفعول بہ عَلَيْهِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ صَدَقُوا کا مفعول بہ، فعل
 با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اسقاء تفریہ مِنْهُمْ کائِنُونَ
 کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَّنْ اسم موصول قَضَىٰ فعل ہو مستتر فاعل نَحْبَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ
 مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْهُمْ کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَّنْ اسم موصول يَنْتَظِرُ فعل ہو مستتر فاعل سے
 مل کر صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ مَا نافیہ بَدَّلُوا فعل واو ضمیر فاعل تَبْدِيلًا مفعول
 مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف بیانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہو۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ
 اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

آیت نمبر ۲۴: لام جارہ تعلیلیہ لِيَجْزِيَ فعل اللَّهُ فاعل الصَّادِقِينَ مفعول بہ بِصِدْقِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف علیہ، واو عاطفہ یُعَذِّبُ فعل ہو مستتر فاعل المُنَافِقِیْنَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ یَتُوبُ فعل ہو مستتر فاعل عَلَیْهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف وال بر جزاء، ان شرطیہ شَاءَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط، شرط وال بر جزاء سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوا فعل محذوف وَقَعَ جَمِیْعُ مَا وَقَعَ کا، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہولان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم کان فعل ناقص غَفُورًا رَحِیْمًا اس کی دو خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واو استینافیہ رَدَّ فعل اللہ فاعل الَّذِينَ اس موصول کَفَرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال بآء جار و غَيْظِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کَاثِبِينَ کے متعلق ہو کر حال اول، لَمْ يَنَالُوا فعل واو ضمیر فاعل خَيْرًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ثانی ذوالحال با حالین فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ رَدَّ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں واو عاطفہ كَفَى فعل اللہ فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ اول، الْقِتَالَ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ كَانَ فعل ناقص اللہ اس کا اسم قَوِيًّا عَزِيزًا اس کی دو خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: واو عاطفہ أَنْزَلَ فعل ہو مستتر فاعل الَّذِينَ اس موصول ظَاهَرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ظرف مستقر کَاثِبِينَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال با حال فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَذَفَ فعل ہو مستتر فاعل فِي قُلُوبِهِمْ جار مجرور متعلق الرُّعْبَ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں تَقْتُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل فَرِيقًا مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَأْسِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل فَرِيقًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قُلُوبِهِمْ کی ضمیر سے حال

وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا ۚ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: واو عاطفہ أَوْرَثَ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول أَرْضَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ دِيَارَهُمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ أَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ أَرْضًا موصوف لَمْ تَطَّوْهَا فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ملامتہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل

و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ آنزول پر معطوف ہے۔ واو استثنائیہ کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم قدیر اصیغہ صفت ہو مستتر فاعل علی کل شیء متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أَمْتَعِكُنَّ وَأُسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ⑤

آیت نمبر ۲۸: یاء حرف نداء اذعو کے قائم مقام، ائی موصوف ہا برائے تنبیہ النبی صفت، موصوف با صفت ملامت منسوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، قل فعل امر بالآت مستتر فاعل لآزواجك متعلق سے مل کر قول، ان شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص مع اسم، تُرِيدُونَ فعل نون مفتوحہ فاعل الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مرکب توصیفی معطوف علیہ، واو عاطفہ زینتہا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ تعالیٰ فعل امر بانون مفتوحہ فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوں اُصْرِحْ فعل مضارع مجزوم انا مستتر فاعل کُن ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اُسْرِحْ فعل انا مستتر فاعل کُن ضمیر مفعول بہ سَرَاحًا جَمِيلًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء اور اس کی شرط محذوف ہے ان تَعَالَيْنَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَ رِسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ
أَجْرًا عَظِيمًا ⑥

آیت نمبر ۲۹: واو عاطفہ ان شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص نون مفتوحہ اس کا اسم تُرِيدُونَ فعل نون مفتوحہ اس کا فاعل اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رِسُولَهُ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ الدَّارَ الْآخِرَةَ مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم أَعَدَّ فعل ہو مستتر فاعل لامر جادہ الف لامر اسم موصول مُحْسِنَاتِ اسم فاعل هُنَّ ضمیر مستتر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اسم فاعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق أَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعِفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ
كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑦

آیت نمبر ۳۰: یاء حرف نداء اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل انا مستتر فاعل نِسَاءَ النَّبِيِّ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، مَنِ اسم شرط مبتدایات فعل ہو مستتر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال

فاعل، بآء جارہ فَا حِشَّةٌ مُّبَيَّنَةٌ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، یُضَاعَفُ فعل مجہول لہا متعلق الْعَذَابُ نائب فاعل ضَعْفَيْنِ مفعول مطلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واؤ استینافیہ مَنْ اسم شرط مبتدا، يَقْنُتْ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنْكَ كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل لام جارہ اللَّهُ وَرَسُولِهِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَعْمَلْ فعل ہی مستتر فاعل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، نُؤْتِيهَا فعل نحن مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ اِذْ، اَجْرَهَا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، مَرَّتَيْنِ مفعول مطلق عددی سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَعْتَدْنَا فعل تا ضمیر فاعل لہا متعلق رِزْقًا كَرِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہو۔

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انا مستتر فاعل نِسَاءَ النَّبِيِّ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، لَسْتُنَّ فعل ناقص نون مفتوحہ اس کا اسم، کاف جارہ اَحَدٍ موصوف من النِّسَاءِ کاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کَاتِبَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہو لہذا اِنْ شرطیہ اتَّقَيْتُنَّ فعل نون مفتوحہ فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کی تقدیر عبارت ہو گی لَا یَكُنْ مِنْكُمْ خَضَعُ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (اگر یہ تقدیر عبارت نہ نکالیں تو خبر کا عطف انشاء پر لازم آئے گا لَا یَكُنْ فعل ناقص مِنْكُمْ کَاتِبَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قُلْنَ فعل امر نون مفتوحہ فاعل قَوْلًا مَعْرُوفًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيَطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ۝

آیت نمبر ۳۳: واوَعاطفہ قَزَنَ فعل امر لون مفتوحہ فاعل فی بیوتِکُنَّ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واوَعاطفہ لا اَبْرَجَنَ فعل نمانون مفتوحہ فاعل تَبَّحْ مضاف الجاہلیۃ الأولى مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول مطلق، فعل بافاعل ومفعول مطلق معطوف اول، واوَعاطفہ اَقَمْنَ فعل لون مفتوحہ فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، واوَعاطفہ اَتَيْنَ فعل امر لون مفتوحہ فاعل الزَّكٰوة مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، واوَعاطفہ اَطَعْنَ فعل امر لون مفتوحہ فاعل اللّٰہ ورسولہ معطوف علیہ بامعطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ معطوف رابع، معطوف علیہ بامعطوفات اربعہ جملہ معطوفہ ہولان حرف تحقیق مآ کافہ یُریدُ فعل اللّٰہ فاعل لام جارہ تعلیلیہ یُدْہِبُ فعل ہو مستتر فاعل عَنْكُمْ متعلق اَلَّذِیْنَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واوَعاطفہ یَطَهِّرْ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ تَطْهِيرًا مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف بتاویل مصدر مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَ اذْکُرْنَ مَا یُتْلٰی فِیْ بُیُوْتِکُنَّ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ کَانَ لَطِیْفًا خَبِیْرًا ۝

آیت نمبر ۳۴: واوَعاطفہ اذْکُرْنَ فعل امر لون مفتوحہ فاعل مَا اسم موصول یُتْلٰی فعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل فی بُیُوْتِکُنَّ جارہ مجرور متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من جارہ آیات اللّٰہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واوَعاطفہ الْحِکْمَةِ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مجرور، جارہ مجرور کا ئنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اذْکُرْنَ کا مفعول بہ، فعل امر بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہولان حرف تحقیق اللّٰہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم لطیفًا خبیرًا دو خبر، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

● رکوع نمبر ۵ ●

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَنِیْتِیْنَ وَالْقَنِیْتِیْنَ
وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَّصِدِقِیْنَ وَالْمُتَّصِدِقٰتِ وَالصّٰبِیْنَ وَالصّٰبِیٰتِ وَالْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ
وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَالذّٰكِرٰتِ دَاعِدًا اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ۝

آیت نمبر ۳۵: اِنَّ حرف تحقیق الْمُسْلِمِیْنَ معطوف علیہ، واوَعاطفہ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَنِیْتِیْنَ وَالْقَنِیْتِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَّصِدِقِیْنَ وَالْمُتَّصِدِقٰتِ وَالصّٰبِیْنَ وَالصّٰبِیٰتِ وَالْحٰفِظِیْنَ اسم موصول حاظنین اسم فاعل ہُمْ مستتر فاعل فُرُوْجَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول موصول باصلہ سولہواں معطوف، یوں بھی کہہ سکتے ہیں الْحٰفِظِیْنَ اسم فاعل ہُمْ مستتر فاعل فُرُوْجَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر سولہواں معطوف، واوَعاطفہ الْحٰفِظٰتِ ستر ہواں معطوف، واوَعاطفہ الذّٰكِرِیْنَ اسم

فعل **هُمْ** مستتر فاعل **اللہ** مفعول بہ، گھڑا ابواسطہ موصوف محذوف ذکر کے مفعول مطلق، اسم فاعل بافاعل و مفعولین اشدھراں معطوف، واو عاطفہ **الذاکرات** انیسواں معطوف **المسلیین** معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ان کا اسم، **اعَدَّ** فعل **اللہ** فاعل **لَهُمْ** جار مجرور متعلق، **مَغْفِرَةٌ** معطوف علیہ، واو عاطفہ **اَجْرًا عَظِيمًا** مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ، ان کی خبر ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

آیت نمبر ۳۶: واو استینافیہ مانا یہ کہ ناصہ لہ جارہ **مؤمنین** معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ، **مؤمنۃ** معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جارہ مجرور طرف مستقر **حاصل** کے متعلق ہوئے، **حاصل** اسم فاعل **هُوَ** مستتر فاعل **إِذَا** مضاف **قَضَى** فعل **اللہ** و **رَسُولُهُ** معطوف علیہ ہا معطوف فاعل **أَمْرًا** مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مفعول فیہ **حاصل** کا اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، **أَنْ** ناصب **يَكُونَ** فعل ناقص **لَهُمْ** کائنۃ کے متعلق ہو کر **يَكُونَ** کی خبر مقدم، **الْخِيَرَةُ** ذوالحال **مِنْ** **أَمْرِهِمْ** کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال **بِحَالٍ** **يَكُونَ** کا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتبادل مصدرگان کا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ

تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ؕ فَلَمَّا قَضَى

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْأَيَّامِ الَّتِي ابْتَدَأَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا نِكَاحًا ۚ وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ مِنَّا مَالَ يُسْرًا يُسْرًا فَمِنَّا مَا يَبْتَغُونَ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

آیت نمبر ۳۷: واو استینافیہ **إِذْ** مضاف **تَقُولُ** فعل **أَنْتَ** فاعل لہ جارہ **الَّذِي** اسم موصول **أَنْعَمَ** فعل **اللہ** فاعل **عَلَيْهِ** متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **أَنْعَمْتَ** فعل ثناء مفتوح فاعل **عَلَيْهِ** متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ، موصول حاصلہ مجرور، جارہ مجرور **تَقُولُ** کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، **أَمْسِكْ** فعل امر **أَنْتَ** مستتر فاعل **عَلَيْكَ** متعلق **زَوْجَكَ** مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **اتَّقِ** فعل امر **أَنْتَ** مستتر فاعل **اللہ** مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **تُخْفِي** فعل **أَنْتَ** مستتر ذوالحال واو حال **تُخْفِي** فعل **أَنْتَ** مستتر فاعل **الَّذِينَ** ذوالحال واو حال **اللہ** مبتدا، **أَحَقُّ** اسم تفضیل **هُوَ** مستتر فاعل **أَنْ** ناصب **تَخْشَى** فعل **أَنْتَ** مستتر فاعل **تُخْفِي** مفعول بہ سے مل کر بتبادل مصدر منصب بنزع الخافض (کیونکہ **يَأْتِي** ہے) **أَحَقُّ** کے متعلق، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال **بِحَالٍ** **تُخْفِي** کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ حال، ذوالحال **بِحَالٍ** **تُخْفِي** کا فاعل **فِي نَفْسِكَ** جارہ مجرور متعلق، **مَا** اسم موصول **اللہ** مبتدا، **مُبْدِيهِ** مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر صلہ، موصول حاصلہ مفعول بہ، **تُخْفِي**

فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف
 اذ نزلنا آتانا استثنائیہ لئلا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم قضی فعل زید نازل منہا متعلق و کلام مفعول بہ سے مل کر شرط، زو و جننا فعل
 تاضیر فاعل کان ضمیر معنوں بہ ۱۱، ہا ضمیر مفعول بہ ثانی، لام جارہ تعلیلیہ فی حرف مصدری ناصبہ (یہ کی تعلیل کے لئے نہیں ہے
 کیونکہ اگر یہ برائے تعلیل ہوتا تو اس پر دو سرار نہ لکھ لیا جاتا لہذا لایکون فعل ناقص علی المؤمنین ظرف مستقر
 کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، حجاج موصوف فی جارہ ازواج اذ عینا لہم مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد کائن کے متعلق ہو کر صفت
 اولی، اذ ا مضاف قصوا فعل واو ضمیر فاعل منہن متعلق و کلام مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کائن کا مفعول فیہ
 صفت ثانیہ، موصوف با مستقیم اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرد، جار با مجرد زو و جننا کے متعلق، فعل بافاعل و مفعولین
 و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزا، شرط با جزا جملہ شرطیہ متانفہ ہوا و استثنائیہ کان فعل ناقص امر اللہ مرکب اضافی اسم مفعول لا خبر، فعل
 ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: مانا یہ کان فعل ناقص علی النبی ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں جارہ زائدہ حرج
 موصوف فی جارہ ما اسم موصول فرض فعل اللہ فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد کائن کے
 متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت علام فروع اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سُنَّةَ اللہ مرکب اضافی ذوالحال
 فی حرف جر الذین اسم موصول خَلَوْا فعل واو ضمیر فاعل من قبیل متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد کائن کے متعلق
 ہو کر حال، ذوالحال باحال منصوب علی الاغراب مفعول بہ ہے فعل محذوف التزموا کا یا مفعول مطلق ہے فعل محذوف سن کا، واو
 اعتراضیہ کان فعل ناقص امر اللہ مرکب اضافی اس کا اسم قَدَرًا مَّقْدُورًا مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ
 معترضہ ہوا

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: الذین اسم موصول یبلیغون فعل واو ضمیر فاعل رسل اللہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یخشون فعل واو ضمیر فاعل تاضیر مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لایخشون فعل واو ضمیر
 فاعل احدا مستثنی منہ، الا حرف استثناء اللہ مستثنی، پھر یہ مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین
 صلہ، موصول با صلہ خبر ہے مبتدا محذوف ہم کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یا موصول با صلہ الذین خَلَوْا کا بدل ہے واو عاطفہ کفی
 فعل بناء جارہ زائدہ لفظ اللہ ملامر فروع ذوالحال حسیباً حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ؕ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

آیت نمبر ۳۰: مَا نَافِيَةٌ كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ مُّحَمَّدًا اس کا اسم ابا احد مرکب اضافی موصوف من رِجَالِكُمْ ظرف مستقر کا مبتدأ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لیکن حرف استدراک مہملہ رَسُوْلَ اللّٰہِ مرکب اضافی معطوف اَوَّل، واو عاطفہ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ بہ معطوفین کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں واو اعتراضیہ کان فَعْلٌ نَاقِصٌ اللّٰہِ اس کا اسم عَلِيْمًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بِكُلِّ شَيْءٍ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں

﴿ رُكُوْعٌ ۶ ﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝۳۱ وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ۝۳۲

آیت نمبر ۳۱، ۳۲: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے اذْكُرُوْا فَعْلٌ امر واو ضمیر فاعل اللّٰہِ مفعول بہ ذِكْرًا كَثِيْرًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبِّحُوْا فَعْلٌ امر واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا معطوف علیہ بہ معطوف مفعول فیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بہ معطوف جواب ندا، ندا با جواب ندا جملہ انشائیہ ہوں

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَیْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ كَانَ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

آیت نمبر ۳۳: هُوَ ضمیر مبتدأ الَّذِيْ اس موصول یُصَلِّيْ فَعْلٌ هُوَ مستتر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلَائِكَتُهٗ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بہ معطوف فاعل عَلَیْكُمْ جار مجرور متعلق اَوَّل، لام جارہ اس کے بعد اَن مَقْدَرٌ ہے یُخْرِجُ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ الظُّلُمٰتِ متعلق اَوَّل، اِلَى النُّوْرِ متعلق ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور یُصَلِّيْ کے متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو اعتراضیہ کان فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ ضمیر اس کا اسم رَحِيْمًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بِالْمُؤْمِنِيْنَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۝۳۴ وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝

آیت نمبر ۳۴: تَحِيَّةٌ مصدر مضاف ہُمْ ضمیر مضاف الیہ ذوالحال یَوْمَ مضاف یَلْقَوْنَ فَعْلٌ واو ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف بہ مضاف الیہ کَارِنِيْنَ کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مضاف بہ مضاف الیہ مبتدأ، سلام خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو عاطفہ اَعَدَّ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق اَجْرًا كَرِيْمًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

آیت نمبر ۳۶، ۳۵: یہاں حرف ندا مادِ ادْعُو کے قائم مقام، اَدْعُو فعل انا مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تعبیر اللہ صفت، موصوف ہ صفت محلا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر ذوالحال شاہدًا معطوف علیہ، واو عاطفہ مُبَشِّرًا معطوف اول، واو عاطفہ نَذِيرًا معطوف ثانی، واو عاطفہ دَاعِيًا اسم فعل ہو مستتر فاعل اِلَى اللّٰهِ متعلق اول، بِإِذْنِهِ متعلق ثانی سے مل کر معطوف ثالث، واو عاطفہ سِرَاجًا مُنِيرًا مرکب توصیفی معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَطْعِ الْكٰفِرِينَ وَ الْمُنٰفِقِينَ وَ دَعِ اٰذِيَهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَ كَيْلًا ۝

آیت نمبر ۳۸، ۳۷: واو عاطفہ بَشِّرْ فعل امر آت مستتر فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ بآء جارہ اِنَّ حرف تحقیق لَهُمْ ثابت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم فَضْلًا كَبِيرًا مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر بتاویل مفرد مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَطْعِ فعل نہی آت مستتر فاعل الْكٰفِرِينَ وَ الْمُنٰفِقِينَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ دَعِ فعل امر آت مستتر فاعل اٰذِيَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ تَوَكَّلْ فعل امر آت مستتر فاعل عَلٰى اللّٰهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ بواسطہ عطف کے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ کا جواب نداء۔

سوال: بَشِّرْ فعل امر ہے تو اس کا عطف اِنَّا اَرْسَلْنَا کہیسی ہوگا کیونکہ یہ عطف الانشاء علی الخبر ہے؟

جواب: یہ عطف القصد علی القصد کے قبیل سے ہے مزید دو (۲) جواب روح المعانی میں دیکھو۔

واو استینافیہ کفی فعل بآء جارہ زَلَدًا لِلّٰهِ ذَالِحًا وَ كَيْلًا حَال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سِرًّا حَسْبًا ۝

آیت نمبر ۳۹: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اِذَا اِشْرَاطِيہ مفعول فیہ مقدم نَكَحْتُمُ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل الْمُؤْمِنَاتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ طَلَقْتُمُ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ وین جارہ قبلی مضاف اَنْ تَمْسُوهُنَّ فعل واو ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ مآنانیہ لَكُمْ جارہ با مجرور

کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم علیہن جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم من جادہ زلدہ عدۃ موصوف تفتقدون فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف با صفت علما رفوع ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوا فاء نصیحة اور اس کی شرط محذوف ہے ان لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ مَهْرًا، مَتَّعُوا فاعل امر واؤ ضمیر فاعل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سَمَّوْا فاعل امر واؤ ضمیر فاعل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ سَمَّوْا حَاجِبًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، اور اس کی شرط محذوف ہے اور وہ احناف کے قول کے مطابق یہ ہے اِنْ طَلَقْتُمْ اَزْوَاجَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَ لَمْ تُسْمُوا لَهُنَّ صَدَاقًا (نقیض شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

آیت نمبر ۵۰: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَحْلَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَكَ جار مجرور متعلق اَزْوَاجَكَ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول اَتَيْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل اَجُورَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول مَلَكَتْ فعل يَمِينُكَ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال من جادہ مَا اسم موصول اَفَاءَ فعل اللہ فاعل عَلَيْكَ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف اول، واؤ عاطفہ بَنَاتِ عَمَّتِكَ مرکب اضافی معطوف ثانی، واؤ عاطفہ بَنَاتِ خَالِكَ مرکب اضافی معطوف ثالث، واؤ عاطفہ بَنَاتِ خَلَّتِكَ مرکب اضافی معطوف رابع، واؤ عاطفہ بَنَاتِ خَلَّتِكَ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول هَاجَرْنَ فعل نون مفتوحہ فاعل مَعَكَ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ اَحْلَلْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہوا۔

واؤ عاطفہ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً مرکب توسیفی بواسطہ عطف مفعول بہ ہے اَحْلَلْنَا کا، اِنْ شرطیہ وَهَبَتْ فعل ہی مستتر ذوالحال خَالِصَةً اسم فاعل ہی ضمیر ذوالحال من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کائنتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل لَكَ جار مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال وَهَبَتْ کا فاعل نَفْسَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، لِلنَّبِيِّ جار مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اس کی جزاء محذوف ہے اَحْلَلْنَا کا لہ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ شرطیہ اَرَادَ فعل

النَّبِيِّ فاعل ان ناصب يستنكح فعل هو مستتر فاعل ها ضمير مفعول به سے مل کر بتاویل مصدر مفعول به، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معنی شرط اول کی شرط ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے ان اراد النبي ان يستنكح الواهبة نفسها اخللنا له ان وهبت نفسها (مظہری)

قد علامت فعل، عَلَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ما اسم موصول فَوْضُنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال فی جاہه اَزُوا جِهَهُم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول مَا مَلَكَتْ فاعل اَيَّمَانُهُم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجرور كَانَتَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال عَلَيْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا لاہ جاہہ تعلیلیہ کی حرف مصدری ناصب لَا يَكُونُ فعل ناقص عَلَيْكَ ظرف مستقر كَانَتَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم حَجَّ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے اخللنا کے یا فعل مخدوف شَرَحْنَا هَذَا الشَّيْءَ کے (روح المعانی) واو استینافیہ کان فعل ناقص اللَّهُ اس کا اسم عَفْوًا رَحِيمًا اس کی رو خبر مکان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۚ وَ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَ ۚ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۚ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: تُرْجِي فعل اَنْتَ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول تَشَاءُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْهُمْ جار باجرور كَانَتَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُؤَيِّ فعل اَنْتَ مستتر فاعل إِلَيْكَ جار باجرور متعلق مَنْ اسم موصول تَشَاءُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا واو استینافیہ مَنْ اسم شرط مفعول بہ مقدم ابْتَغَيْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر متصل فاعل مِنْ حرف جر مَنْ اسم موصول عَزَلْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لَانِی جنس جُنَاحِ اس کا اسم عَلَيْنِكَ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر کاتین کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدا، اَدْنَىٰ اسم تفضیل ہو مستتر اس کا فاعل اَنْ ناصب تَقَرَّ فعل اَعْيُنُهُنَّ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَحْزَنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يَرْضَيْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر مرفوع متصل مؤکد كَلَّهِنَّ مرکب اضافی تاکید، مؤکد با تاکید فاعل بَاء حرف جر ما اسم موصول آتَيْتَ فعل تاء ضمیر مفتوحہ فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور يَرْضَيْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر منصوب بِنَزْعِ الْفِاضِ (در اصل اِلَىٰ اَنْ تَقَرَّ هِيَ) متعلق، اسم تفضیل بافاعل و متعلق ذَلِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واو استینافیہ اللَّهُ مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل ما اسم موصول فی

قُلُوْبِكُمْ جاد بجزر فعل مخذوف استغفر کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو سواؤ استینافیہ کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم علیہا علیہا خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

آیت نمبر ۵۲: لَا يَحِلُّ لَكَ جاد بجزر فعل لك متعلق النساء معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ ان نامہ تبدل فعل (یہ اصل میں تکتبدل ہے) ائت مستتر فاعل یہن جاد بجزر متعلق من حرف جر زائد از و اج منصوب ملام مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال واو حالیہ کو شرطیہ اعجب فعل کان ضمیر مفعول بہ حُسْنُهُنَّ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزاء مخذوف ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مبدل منہ، الأ حرف استثناء صا اسم موصول مَلَكَتْ فعل یَمِينُكَ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل لَا يَحِلُّ لَكَ فاعل من بَعْدُ جاد بجزر متعلق منی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو سواؤ استینافیہ کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم رَقِيبًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل علیٰ كُلِّ شَيْءٍ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں

● رکوع نمبر ۷ ●

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ دَوَّ لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِئُ مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لَا يَسْتَجِئُ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ۗ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

آیت نمبر ۵۳: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ کر چکی ہے اور یہ ندائے لَا تَدْخُلُوا فعل نداء ضمیر فاعل بُيُوتِ النَّبِيِّ مرکب اضافی مفعول بہ (علی السبح) الأ حرف استثناء ان نامہ یؤذن فعل مجہول لکم جاد بجزر ملام نوع نائب فاعل الی طَعَامٍ جاد بجزر متعلق، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مضاف الیہ ہو لوقت مضاف مخذوف کا، مضاف با مضاف الیہ مستثنیٰ مفرغ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جواب نداء نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائی ہوں

غَيَّرَ مَضَافًا ظَاهِرِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل اِنَّكَ مركب اضافی مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ حال ہے لاکِنَّ خَلُوعًا کی واؤ ضمیر فاعل سے، واؤ عاطفہ لیکن حرف استدراک مہمل، اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذمعی فعل مجہول کُمْ ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ اُدْخَلُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم طَعْنْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر شرط، فَاء جزائیہ اَنْتُمْ وَا فاعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

واؤ عاطفہ لازلہ مُسْتَأْنِسِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل لِخَدِيثٍ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر بواسطہ عطف حال ہے كَذَّخُوا کی ضمیر فاعل سے، اِنْ حرف تحقیق ذَالِكُمْ اسم اشدہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم یُوذَى فعل ہو ضمیر فاعل اَلَّذِي مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف کان کی خبر، فعل ناقص اسم با خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں واؤ امر اضیاء اللہ مبتداء لایستحیی فعل ہو مستتر فاعل مِنَ الْحَقِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَأَلْتُمْ وَا فاعل هُنَّ ضمیر فاعل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ اول، مَتَاعًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاء جزائیہ اِسْأَلُوا فعل واؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ من حرف جلد و آءِ حِجَابٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ذَالِكُمْ اسم اشدہ مبتداء اَظْهَرُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لآمر حرف جار قُلُوبِكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قُلُوبِهِمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واؤ عاطفہ لآمر نافیہ کان فعل ناقص لَكُمْ جار با مجرور کَانِتَا کے متعلق ہو کر کان کی خبر مقدم، اَنْ ناصب تُوذُوا فعل واؤ ضمیر فاعل رَسُوْلَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لازلہ اَنْ ناصب تَنْكِحُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَزْوَاجَهُمْ مرکب اضافی ذوالحال مِنْ بَعْدِهَا کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ اَبَدًا مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں اِنْ حرف تحقیق ذَالِكُمْ اسم اشدہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی کَانِتَا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم عَظِيْمًا ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا اَوْ تُخَفَّوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: اِنْ شرطیہ دُبَدُّوا فعل واؤ ضمیر فاعل شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ تُخَفَّوْا فعل واؤ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط، فَاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بَاء جارہ کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم عَلِيْمًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل

و متعلق مقدم سے مل کرگان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا
 أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

آیت نمبر ۵۵: لانی جنس جُنَاحِ اس کا اسم عَلَیْهِمْ ظرف مستقر متعلق ہوئے کَافِئِ کے کَافِئِ اسم فاعل ہو ضمیر اس کا فاعل فی حرف جِزَاءِ بَابُئِهِمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ لازلہ مَابْنَائِهِمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ لازلہ إِخْوَانِهِمْ مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ لازلہ مَابْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ مرکب اضافی معطوف رابع، واو عاطفہ لازلہ مَابْنَاءِ أَخَوَاتِهِمْ مرکب اضافی معطوف خامس، واو عاطفہ لازلہ نِسَائِهِمْ مرکب اضافی معطوف سادس، واو عاطفہ لازلہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مرکب اضافی معطوف سابع، معطوف علیہ با معطوفات سبعة مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہو کَافِئِ کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینائیہ اتَّقِينَ فعل امر نون مفتوحہ فاعل اللَّهُ مفعول بہ، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مستانہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم گان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم شَهِيدًا صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل علی حرف جر کُلِّ شَیْءٍ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوا صیغہ صفت کا، صیغہ صفت با فاعل و متعلق خبر ہوئی گان کی، گان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

آیت نمبر ۵۶: اِنَّ حرف تحقیق اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلَائِكَتَهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کا اسم يُصَلُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَلَى النَّبِيِّ جاد با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے یہ ندا ہے صَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل عَلَيْهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَلِّمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل تَسْلِيمًا مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب ندا، ندا، جاد با جواب ندا، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
 مُّهِينًا ۝

آیت نمبر ۵۷: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول يُؤْذُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلواتِ ان کا اسم لَعَنَ فعل هُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، اللّٰهَ فاعل فی حرف

جَاءَ الَّذِينَ وَالْأَخْرَابِ مَعطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اعدّ فعل ہو مستتر فاعل لہم جار مجرور متعلق ہوئے عَدَابًا مَہینتاً مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، انّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ
إِثْمًا مَبِينًا ۝۵۸

آیت نمبر ۵۸: واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول يُؤْذُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ بَاء حرف جار غیو مضاف ما اسم موصول اِکْتَسَبُوا فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مقضیٰ منیٰ شرط، فاء جزائیہ قَدْ حرف تحقیق احْتَمَلُوا فعل واو ضمیر فاعل بُهْتَانًا معطوف علیہ، واو عاطفہ اِثْمًا مَبِينًا مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۸ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَا بَيْنِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۹

آیت نمبر ۵۹: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے یہ ندا ہے قُل فعل امر انت مستتر اس کا فاعل لام حرف جار اَزْوَاجِكَ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَنَاتِكَ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ قول، يُدْنِينَ (اصل میں لِيُدْنِينَ ہے روح المعانی) لِيُدْنِينَ فعل امر نون مفتوحہ فاعل عَلَيَّهِنَّ جار مجرور متعلق اول، مِنْ جَلَا بَيْنِهِنَّ جار مجرور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین لَقَدْ جملہ فعلیہ خبریہ معنی جملہ انشائیہ قول کا مقولہ، قول با مقولہ مل کر جملہ انشائیہ جواب ندا، ندا با جواب ندا یہ جملہ انشائیہ ندا ہے ہوں۔ ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدا، ادْنَىٰ اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل اَنْ ناصب يُعْرَفْنَ فعل مجہول نون مفتوحہ نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل معطوف علیہ، فاء عاطفہ لَا يُؤْذَيْنَ فعل مجہول نون مفتوحہ نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر منصوب بزعم الفاض متعلق ہوئے اسم تفضیل کا اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استینافیہ کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم غَفُورًا رَحِيمًا خبر، کان بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَٰسَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝۶۰

آیت نمبر ۶۰: لا موطر القسم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ لَمْ يَنْتَهِ فعل المنافقون معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم

موصول فی قُلُوْبِهِمْ ظرف مستقر متعلق ہوئے، فعل محذوف تَبَيَّنَ کے، مَوْضِعُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ معطوف
 ازل، واو عاطفہ الْمَزْجُفُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل فی الْمَدِيْنَةِ متعلق سے مل کر معطوف یعنی، معطوف علیہ با معطوفین فاعل، فعل
 بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، لام جوابیہ نُغْرِيْنَ فِعْلٌ تَحْنُ مستتر فاعل کاف ضمیر
 مفعول بہ، بِهَمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لَا يُجَاوِزُونَ فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فِیْهَا جار مجرور متعلق، اِلَّا
 حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف زَمَانًا کے مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب
 قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

مَلْعُوْنِيْنَ ۱۰ اَيْنَمَا ثَقِفُوا اخِذُوا وَقْتِلُوا تَقْتِيْلًا ۱۱

آیت نمبر ۱۰: مَلْعُوْنِيْنَ حال ہے فعل محذوف کے نائب فاعل سے، تقدیر عبادت ہے ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا
 شرطیہ مفعول فیہ مقدم ثَقِفُوا فعل باواو ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم شرط، اُخِذُوا فعل مجہول باواو ضمیر نائب فاعل معطوف علیہ،
 واو عاطفہ قَتِلُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل تَقْتِيْلًا مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ
 شرطیہ ہوں

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الدّٰيْنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۱۲ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۱۳

آیت نمبر ۱۲: سُنَّةَ اللّٰهِ مرکب اضافی ذوالحال فی حرف جر، الدّٰيْنِ اسم موصول خَلَوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ قَبْلُ متعلق
 سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور كَانَتْ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سَنَ کا اور یہ
 دراصل سَنَ اللّٰهُ سُنَّةً ہے۔ واو عاطفہ لَنْ تَجِدَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللّٰهِ متعلق تَبْدِيْلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
 معطوف ہوں

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۱۴ قُلْ اِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۱۵ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۱۶

آیت نمبر ۱۴: يَسْأَلُكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ النَّاسُ فاعل عَنِ السَّاعَةِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہوں قُلْ
 فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق مَا كَانَتْ عَلِمْتُهَا مرکب اضافی مبتدا، عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی ثابت کے متعلق
 ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔ واو عاطفہ مَا اس استفہام مبتدا، يُدْرِيْ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل
 کاف ضمیر مفعول بہ اِذْ لَعَلَّ حرف ترحی السَّاعَةَ اس کا اسم تَكُوْنُ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اسم قَرِيْبًا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
 خبر، لَعَلَّ باسم و خبر جملہ انشائیہ مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

سوال: تَكُوْنُ کا اسم مؤنث کی ضمیر ہے جس کا مرجع السَّاعَةُ مؤنث ہے تو اس کی خبر قَرِيْبًا نہ کر کیوں لائی گئی؟

جواب (۱): قَرِيْبًا خبر نہیں ہے بلکہ یہ بواسطہ موصوف محذوف شَيْئًا کے خبر ہے۔

جواب (۲): قَرِيبًا بوزن فَعِيلٌ ہے اور اس میں مذکر مؤنث برابر ہیں جیسا کہ ان رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ میں ہے۔ (روح المعانی)

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۙ لَا يَجِدُوْنَ وِلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

آیت نمبر ۱۳-۱۵: إِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم لعن فعل ہو مشتقاً عن الْكٰفِرِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعَدَّ فعل ہو مشتقاً عن لَّهُمْ متعلق سَعِيْرًا مفعول بہ، خَالِدِيْنَ اسم فاعل ہُم ضمیر مشتقاً عن فِيْهَا متعلق اَبَدًا مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لہم کی ضمیر سے حال اولیٰ، لَا يَجِدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل وِلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال دوم، وَالْحَالُ بِالْحَالِ اَعَدَّ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَوْمَ تَقُْلِبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ لِيَلِيْنَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۝

آیت نمبر ۶۶: يَوْمَ تَقُْلِبُ فعل مجہول وُجُوْهُهُمْ مرکب اضافی نائب فاعل فِي النَّارِ جاد با مجرور متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم يَقُوْلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل انا مشتقاً عن مبادی مفعول بہ محذوف ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، لِيَلِيْنَنَا حرف تمنیٰ نا ضمیر اس کا اسم اَطَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل الرَّسُوْلُ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء با جواب نداء مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَصَلُّوْنَا السَّبِيْلًا ۝

آیت نمبر ۶۷: واو استثنائیہ قَالُوْا فعل باواو ضمیر فاعل قول ہو اور رَبَّنَا صل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَطَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل سَادَتَنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ كُبَرَاءَنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاَصَلُّوْنَا فعل واو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ السَّبِيْلًا مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

رَبَّنَا اَتِيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُوْهُمْ لَعْنَا كَبِيْرًا ۝

آیت نمبر ۶۸: رَبَّنَا صل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے ات فعل امر اَنْتَ مشتقاً عن هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ ضِعْفَيْنِ موصوف مِنَ الْعَذَابِ ظرف مستقر کَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْعَنُ فعل امر اَنْتَ مشتقاً عن هُمْ ضمیر مفعول بہ لَعْنَا كَبِيْرًا امر رب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف

علیہ بالمعطوف جواب نداء، نداء باجواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۹ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

آیت نمبر ۶۹: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَا تَكُونُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم کان حرف جار الَّذِينَ اسم موصول آذَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل مُوسَى مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ بَرَّاهُ فعل ناقص واؤ ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ فاعل مِنْ جادہ ما اسم موصول قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور کَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء باجواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔ واؤ استینافیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم وَجِيهًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عِنْدَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

آیت نمبر ۷۰: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قُولُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل قَوْلًا سَدِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جواب نداء، نداء باجواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۱: يُصْلِحْ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ متعلق أَعْمَالَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَغْفِرْ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ متعلق ذُنُوبَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جزاء ہے شرط مخدوف اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کی، کیونکہ یہ جواب امر میں واقع ہے۔ واؤ استینافیہ مَنْ اسم شرط مبتدئ، يُطِيعُ فعل ہو مستتر فاعل اللہ و رَسُوْلُهُ معطوف علیہ بالمعطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ قَدْ حرف تحقیق فَازَ فعل ہو مستتر فاعل فَوْزًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

آیت نمبر ۷۲: اِنْ حرف تحقیق نَا ضَمِير اس کا اسم عَرَضْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل الْأَمَانَةَ مفعول بہ، علی جادہ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ معطوف علیہ بالمعطوفین مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ أَبَيْنَ

فعل نون مفتوحه فاعل أَنْ ناصبٌ يَحْمِلُنْ فعل نون مفتوحه فاعل هَا ضمير مفعول به سے مل کر تاویل مصدر مفعول به، فعل بافاعل و مفعول به معطوف علیہ، واو عاطفہ أَشْفَقْنَ فعل نون مفتوحه فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر معطوف اذل، واو عاطفہ حَمَلْ فعل هَا ضمیر مفعول به الْإِنْسَانُ فاعل سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ بِمَعْطُوفَيْنِ عَزَّوَجَلَّتَا کا معطوف، معطوف علیہ بِمَعْطُوفِ إِنْ كِی خبر، إِنْ بِاسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ إِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص هُو مستتر اس کا اسم فَكَلُّوْا مَا خَبَرُ اَوَّلِ جَهْدٍ لَا خَبْرٌ و م، فعل ناقص بِاسْمِ وَخبر، إِنْ بِاسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۳: لام جارہ تعلیلیہ يُعَذِّبُ فعل اللہ فاعل الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ معطوف علیہ بِمَعْطُوفَاتٍ ثلاثہ مفعول به، فعل بافاعل و مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَتُوبُ فعل اللہ فاعل علی جارہ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ معطوف علیہ بِمَعْطُوفٍ مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعْطُوفٍ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور حَمَلْ کے متعلق ہوئے۔ واو استثنائیہ كَانَ فعل ناقص اللہ اس کا اسم غَفُورًا خیر اَوَّلِ رَحِيمًا خبر و م، فعل ناقص بِاسْمِ وَخبر، جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔



ترکیب سُورَةُ سَبَا

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَ
 لَهٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ۝ وَ هُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝ یَعْلَمُ مَا یَلِیْجُ فِی الْاَرْضِ وَ مَا
 یَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعْرُجُ فِیْهَا ۝ وَ هُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝

آیت نمبر ۱: اَلْحَمْدُ مبتدا لام جارہ اللہ موصوف الذی اسم موصول لہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم
 مَا اسم موصول فی السَّمٰوٰتِ طرف مستقر وقع کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول فی الْاَرْضِ
 طرف مستقر وقع کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف
 علیہ، واو عاطفہ لہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْحَمْدُ ذوالحال فی الْاٰخِرَةِ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال
 باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور
 طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ (واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، الْحَکِیْمُ خبر اول، الْخَبِیْرُ خبر ثانی،
 مبتدا با خبر بن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

یَعْلَمُ فعل ہو مستقر فاعل مَا اسم موصول یلج فعل اپنے ہو ضمیر فاعل اور فی الْاَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ،
 موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول یخرج فعل اپنے ہو مستقر فاعل اور مِنْهَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ
 معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول یَنْزِلُ فعل ہو مستقر فاعل مِنَ السَّمَآءِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، واو
 عاطفہ مَا اسم موصول یَعْرُجُ فعل ہو مستقر فاعل فِیْهَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات
 ثلاثیہ یَعْلَمُ کا موصول بہ، فعل باوا ضمیر فاعل با فاعل و مفعول بہ جملہ متانفہ ہو۔ واو استینافیہ ہو ضمیر مبتدا ہی اَلْحَمْدُ الْغَفُوْرُ دونوں
 خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اَلَا تَأْتِیْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰی وَ رَبِّیْ لَتَأْتِیَنَّكُمْ ۗ اَعْلِمِ الْغَیْبِ ۗ لَا
 یَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ لَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا اَكْبَرُ
 اِلَّا فِی كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۝

آیت نمبر ۳: واو استینافیہ قَالَ فعل الَّذِیْنَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل
 قول، لا تأتی فعل نا ضمیر مفعول بہ السَّاعَةُ فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر آت مستقر فاعل سے
 مل کر قول، بلی حرف ایجاب مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ واو قسمیہ جارہ رَبِّیْ مرکب اضافی مبدل منه عَالِمُ الْغَیْبِ مرکب

اضافی ذوالحال لایعذب فعل عنہ جار مجرور متعلق ہوئے وثقال ذرۃ مرکب اضافی ذوالحال فی السموات جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ فی الارض جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ ما صغرو اسم تفضیل ہو مستتر قائل من ذلک متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ اسم بڑا اسم تفضیل باہو مستتر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال الا حرف استثنائی حرف جر کتاب مبین مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال ربی کا بدل، بدل منہ بادل مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اقسیم کے، اقسیم فعل انما مستتر قائل و متعلق سے مل کر قسم، لتأتین فعل ہی مستتر قائل کما ضمیر مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴

آیت نمبر ۴: لام جارہ تلیلہ یجزی فعل ہو مستتر قائل الذین اسم موصول آمنوا فعل باو ضمیر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ عملوا فعل واو ضمیر قائل الصالحات مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے لایعذب کے یا لتأتین کے، اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، لَهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ رِزْقٌ کَرِيمٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اُولَٰئِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ۗ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ اَلِيْمٍ ۝۵

آیت نمبر ۵: واو استینافیہ الذین اسم موصول سَعَوْا فعل واو ضمیر قائل فی آياتنا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا، مُعْجِزِينَ حال ہے سَعَوْا کی ضمیر قائل سے۔ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، لَهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ موصوف من رجز کائنات کے متعلق ہو کر صفت اولی، اَلِيْمٌ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر اُولَٰئِكَ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اسم موصول مبتدا کی خبر ہے۔

وَيُرِي الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۗ وَ يَهْدِي اِلَىٰ

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶

آیت نمبر ۶: واو استینافیہ یزی فعل الذین اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْعِلْمَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل الذی اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو مستتر ذوالحال من رَبِّكَ کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل اِلَيْكَ جار مجرور متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یزی کا مفعول اول ہو ضمیر فصل الْحَقُّ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اور اگر کوئی یزی کی واو عاطفہ بتائیں تو پھر اس کا عطف یجزی ہے ہو گا۔ واو حالیہ یهدی فعل ہو مستتر قائل الی حرف جار صراط مضاف الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مرکب توصیفی

مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے الْحَقُّ سے۔ اور اکواؤ عاطفہ ہو تو یقیناً ہی معنی ہادیثا کے ہو کر الْحَقُّ، معطوف ہو گا اور اوکو او استینافیہ بھی بنا سکتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبِتُكُمْ إِذَا مَرَّ قَتْمٌ كُلُّ مُرَّيٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

آیت نمبر ۷: واو عاطفہ قال فعل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصله فاعل، فعل بافاعل قول، هل حرف استفہام نَدُّكُم فعل نَحْنُ مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ علی حرف جار یُنْبِتُکُمْ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اول ان حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم لامر مذ حلقہ فی جادہ خَلْقٍ جَدِيدٍ مرکب تو سببی مجرور، جار مجرور کَانْتُون کے متعلق ہو کر خبر ان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول ثانی کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین رَجُلٍ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جار مجرور نَدُّكُم کے متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ مقول، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِذَا مَرَّ قَتْمٌ فعل مجہول تُم ضمیر نائب فاعل کُلُّ مُرَّيٍ مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل مجہول ہائاب فاعل و مفعول مطلق مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ ہو فعل محذوف تُحْشَرُونَ کا۔

أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

آیت نمبر ۸: ہمزہ استفہامیہ اَفْتَرَىٰ فعل ہو مستتر فاعل عَلَىٰ اللّٰہ جار مجرور متعلق کَذِبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عاطفہ بہ ظرف مستقر کَانْتَنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جِنَّةٌ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف جملہ متانفہ ہو۔ بَلِ حرف اضراب الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْآخِرَةِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، فی جارہ الْعَذَابِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الضَّلَالِ الْبَعِيدِ مرکب تو سببی معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانْتُون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَ نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

آیت نمبر ۹: ہمزہ استفہامیہ فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت اَعْبُوا اللّٰہَ يَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل اِلَىٰ جارہ مَا اسم موصول بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ ہو فعل محذوف وَقَعَ کا، پھر یہ صلہ ہو، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ ہو فعل محذوف ثَبَّتَ کا، پھر یہ صلہ ہو، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف: والحال مِنْ جادہ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ معطوف علیہ بامعطوف مجرور، جار مجرور کَانْتَنَ کے متعلق ہو کر حال، والحال

باحال الی کا مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ مستانفہ ہوا۔ ان شرطیہ نَشَأَ فَعْلُ بِا نَحْنُ مُسْتَرْتَفَاعِلُ شَرْطٌ، نَحْسِفُ فَعْلُ نَحْنُ مُسْتَرْتَفَاعِلُ بِهِمْ مُتَعَلِقٌ، اَلْاَرْضُ مَفْعُولٌ بِهٖ سَلْ كَر جملہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ نُسْقِطُ فَعْلُ نَحْنُ مُسْتَرْتَفَاعِلُ عَلَيْهِمْ جَارٌ بِا مَجْرُورٌ مُتَعَلِقٌ هُوَ كَسْفًا مَوْصُوفٌ مِنَ السَّمَاءِ كَاثِنًا كے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت نُسْقِطُ كَا مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلُ بِا فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ان حرف تحقیق فی ذلِكَ ظَرْفٌ مُسْتَرْتَفَاعِلَةٌ كے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ آیت موصوف لام جارہ كُلُّ مَضَافٌ عَبْدِي مُزَيِّنٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِي مَضَافٌ اِلَيْهٖ، مَضَافٌ بِا مَضْرُوفٌ اِلَيْهٖ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِا مَجْرُورٌ كَاثِنَةٌ كے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت اسم مؤخر، اِنْ بِا سَمٌ وَ خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِثًا فُضَّلًا ۙ لِيُجِبَالَ اَوْبِي مَعَهُ ۗ وَالتَّالِيَةَ الْحَدِيْدَ ۙ

آیت نمبر ۱۰: اَوْ اَوْ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ لَامٌ مَوْطِئَةٌ لِقِسْمٍ اَوْ قِسْمٍ مَحْذُوفٍ هِيَ قَدْ عَلَمَتْ فَعْلٌ، اٰتَيْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ دَاوُدَ مَفْعُولٌ بِهٖ اَوَّلٌ، مِثًا جَارٌ بِا مَجْرُورٌ مُتَعَلِقٌ فُضَّلًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ عَاطِفٌ اَلطَّيْرُ مَعْطُوفٌ (رُوحُ الْعَالِي) مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ مَفْعُولٌ بِهٖ ثَانِيٌ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِقٌ وَ مَفْعُولِيْنَ جَوَابٌ قِسْمٌ، قِسْمٌ بِا جَوَابٌ قِسْمٌ جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ یاء حرف نداء اَدْعُوْ كے قائم مقام، اَدْعُوْ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَفَاعِلٌ جِبَالٌ مُطَّاءٌ مَضْبُوبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ جملہ انشائیہ نداء، اَوْبِي فَعْلٌ اَمْرِيَّاءُ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ مَعَهُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْهٖ سَلْ كَر جَوَابٌ نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہوا۔ كَر فُضَّلًا سے بدل ہے (کشاف) اَوْ عَاطِفٌ اَلتَّالِيَةُ فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ لَهٗ جَارٌ بِا مَجْرُورٌ مُتَعَلِقٌ اَلْحَدِيْدَ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جملہ فعلیہ خبریہ اٰتَيْنَا بِهٖ مَعْطُوفٌ ہوا۔

اَنْ اَعْمَلَ سَبِيْعًا ۙ وَ قَدِرٌ فِي السَّرْدِ ۙ وَ اَعْمَلُوْا صَالِحًا ۙ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۙ

آیت نمبر ۱۱: اَنْ مُصَدَّرٌ اِعْمَلَ فَعْلٌ اَمْرًا تَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ سَبِيْعًا بِوَسْطِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ حُرُوْعًا كے مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ قَدِرٌ فَعْلٌ اَمْرًا تَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ فِي السَّرْدِ جَارٌ بِا مَجْرُورٌ مُتَعَلِقٌ سَلْ كَر جملہ انشائیہ معطوف اول، اَوْ عَاطِفٌ اَعْمَلُوْا فَعْلٌ اَوْ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ صَالِحًا مَفْعُولٌ بِهٖ سَلْ كَر مَعْطُوفٌ ثَانِيٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِيْنَ بِتَاوِيْلِ مُصَدَّرٍ مَضْبُوبٍ بِنَزْعِ اَلْاِفْضَالِ كَا كے متعلق ہوا۔ ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم، بئاء حرف جر ما اسم موصول تَعْمَلُوْنَ فَعْلٌ بِا اَوْ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِا صِلَةٌ جَارٌ بِا مَجْرُورٌ مُتَعَلِقٌ مُقَدِّمٌ بِصِيْرٌ صِفَةٌ هُوَ مُسْتَرْتَفَاعِلٌ وَ مُتَعَلِقٌ مُقَدِّمٌ سَلْ كَر خَبْرٌ اِنْ بِا سَمٌ وَ خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوْهَا شَهْرٌ ۙ وَ رَوَّاحَهَا شَهْرٌ ۙ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقَطْرِ ۙ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يٰۤاٰذِنٌ رَبِّهٖ ۙ وَ مَنْ يَّزِيْغُ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُنٰذِقُهٗ مِنْ

عَذَابِ السَّعِيْرِ ۙ

آیت نمبر ۱۲: **وَإِذِ اسْتَأْذَنَ كَاهِنًا بِرُءُوسِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ إِلَّا الْأَشْجَارَ الَّتِي لَا يَنْفَخُ اللَّهُ يَسْتَلْعُ عَلَيْهَا أُغْلَامًا تَلْفَحُ سَوَآءٌ مِمَّا يَحْتَبِرُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**
 اضافی مبتدا، شہوہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ زواجھا مرکب اضافی مبتدا، شہوہ خبر، دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال مفعول بہ سَخَّرْنَاكَ، فعل اپنے فاعل و متعلق و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَسَلْنَا فاعل ذمیر فاعل لہ متعلق عَيْنِ الْقَطْرِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوا، واو عاطفہ مِنَ الْجِنِّ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَن اسم موصول یَعْمَلُ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَ يَدَيْهِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال بآء جادہ اِذْنِ رَبِّہِ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدا، يَنْفَخُ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنْهُمْ کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل عَنِ امْرِئًا جادہ با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَنْفَخُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ذمیر مفعول بہ مَن عَذَابِ السَّعِيرِ متعلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔

**يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَائِيلٍ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رُءُوسٍ ط
 اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ۝**

آیت نمبر ۱۳: **يَعْمَلُونَ** فعل واو ضمیر فعل لہ جادہ با مجرور متعلق مَآ اسم موصول يَشَاءُ فعل ہو مستتر فاعل ذمیر محذوف ذوالحال مِّنْ حَرْفِ جادہ مَحَارِبٍ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَمَائِيلٍ معطوف اول واو عاطفہ جِفَانٍ موصوف کاف حرف جادہ الْجَوَابِ مجرور، جادہ با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، واو عاطفہ قُدُورٍ رُءُوسٍ مرکب توصیفی معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جادہ با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال يَشَاءُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَعْمَلُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بدل ہے یَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ... الخ سے۔ اِعْمَلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل شُكْرًا مفعول لہ سے مل کر جملہ انشائیہ جواب نداء مقدم، اِلَ دَاوُدَ مرکب اضافی منازی مضاف مفعول بہ، یہ اصل میں یَا اِلَ دَاوُدَ ہے اور یہ نداء مؤخر ہے، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا، واو عاطفہ قَلِيلٌ موصوف مِّنْ عِبَادِيَ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدا، الشُّكُورُ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

آیت نمبر ۱۴: **فَاءَ اسْتِثْنَاءٍ لِّمَا ظَرَفِيهِ مَضْمُونِ** معنی شرط مفعول فیہ مقدم قَضَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ متعلق الْمَوْتَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَآ نافیہ دَلَّ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عَلَى مَوْتِهِ متعلق لآ حرف استثناء دَابَّةُ الْأَرْضِ مرکب اضافی ذوالحال تَأْكُلُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل مِنْسَأَتَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال دَلَّ کا

فاعل، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فاء عاطفہ لئنا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم
خبر نفل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط تَبَيَّنْتَ نفل اَلْحَيُّ مَبْدَل مِنْهُ اَنْ مَحْفَظ مِنْ الشَّكْلِ ضَمِيرِ شَانِ مَقْدَرِ اس کا اسم لَوْ شرطیہ گائوا نفل
ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَعْلَمُونَ نفل واو ضمیر فاعل اَلْغَيْبِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نفل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم
و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، معانیہ كَيْتُوا نفل واو ضمیر اس کا فاعل فی حرف جار، اَلْعَذَابِ الْمُهِينِ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق
ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ بدل اشتغال، مبدل مِنْهُ بَدَلِ تَبَيَّنْتَ كَا فاعل، فعل بافاعل
جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتْنِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ
اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ ﴿٥٠﴾

آیت نمبر ۵۰: لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قد حرف تحقیق کان فعل ناقص لام حرف جار سبأ و الحال فی جارہ
مَسْكِنِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور کائنتہ کے متعلق
ہو کر خبر مقدم آیتہ مبدل مِنْ جَنَّتْنِ موصوف عن جارہ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کائنتان کے متعلق
ہو کر صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل مِنْهُ بَدَلِ اسْمِ مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ
ہوا۔ کُلُوا نفل امر واو ضمیر فاعل مِنْ جارہ رِزْقِ رَبِّكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور نفل کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق
جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَشْكُرُوا نفل امر واو ضمیر فاعل لَهُ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ
با معطوف مقولہ ہوا قول محذوف قِيلَ، کا، تقدیر عبادت ہے قَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ كُلُوا... الخ قول با مقولہ جملہ متانفہ ہوا۔ (روح المعانی)
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ مرکب توصیفی مبتدا محذوف ہی کی خبر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبٌّ غَفُورٌ مرکب توصیفی مبتدا محذوف الْمُنْعِمُ
کی خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتِىْ اَكْلٍ
خَبِطٍ وَ اَثَلٍ وَ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿٥١﴾

آیت نمبر ۵۱: فاء عاطفہ اَعْرَضُوا نفل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَرْسَلْنَا نفل نا ضمیر
فاعل عَلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق، سَيْلَ الْعَرِمِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، اَوَّلِ، واو عاطفہ بَدَّلْنَا نفل نا
ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ بَاء حرف جار جَنَّتَيْهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق جَنَّتَيْنِ موصوف ذَوَاتِىْ مضاف اَكْلٍ
خَبِطٍ مرکب توصیفی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَثَلٍ معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ شَيْءٍ مِّنْ موصوف مِنْ سِدْرٍ کائین کے متعلق ہو کر صفت
اَوَّلِ، قَلِيلٍ صفت ثانی، موصوف با صفتین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ذَوَاتِىْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جَنَّتَيْنِ کی
صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

ذٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَ هَلْ نُجْزِيْ اِلَّا الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۷

آیت نمبر ۱۷: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا، جَزَيْنَا نعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما مصدریہ كَفَرُوا نعل باواؤ ضمیر فاعل بتاویل مصدر مجرد، جار با مجرد متعلق، نعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا و او عاطفہ هَلْ استفہامیہ نُجْزِيْ نعل نُحْنُ مستتر فاعل الّا حرف استثناء لغو الْكٰفِرِيْنَ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، نعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً ۚ وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السِّيْرَةَ ۚ

سَيِّرُوا فِيْهَا لِيَالِي وَاَيَّامًا مِّنِيْنَ ۝۱۸

آیت نمبر ۱۸: او و عاطفہ جَعَلْنَا نعل نا ضمیر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، او و عاطفہ بَيْنَ الْقُرَى مضاف الْقُرَى موصوف الَّتِي اسم موصول باو و کتا نعل نا ضمیر فاعل فِيْهَا جار با مجرد متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ قُرَىٰ ظَاهِرَةً مرکب تو صیغی جَعَلْنَا کا مفعول بہ، نعل با فاعل و مفعولین جملہ خبریہ معطوف علیہ، او و عاطفہ قَدَّرْنَا نعل نا ضمیر فاعل فِيْهَا جار با مجرد متعلق سَيِّرُوا نعل امر او و ضمیر ذوالحال اُمِّيْنِ حَال، ذوالحال باحال فاعل فِيْهَا جار با مجرد قَدَّرْنَا کے متعلق، السِّيْرَةَ مفعول بہ، چاروں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ اسمیہ خبریہ لہ معطوفہ ہوں۔ لِيَالِي وَاَيَّامًا معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، نعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہوا قول محذوف قُلْنَا لَهُمْ کا، قول با مقولہ جملہ مستانفہ ہوں۔ (روح المعانی)۔

فَقَالُوْا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَرَقْنٰهُمْ كُلَّ مَرَقٍ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ ۝۱۹

آیت نمبر ۱۹: او و عاطفہ قَالُوْا نعل باواؤ ضمیر فاعل قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ ندا ہے باعذ نعل امر انت مستتر فاعل بَيْنَ اَسْفَارِنَا مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، او و عاطفہ ظَلَمُوْا نعل باواؤ ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ جَعَلْنَا نعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول اَحَادِيْثَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، او و عاطفہ مَرَقْنَا نعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ کُلِّ مَرَقٍ مرکب اضافی مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوا اِنَّ حرف تحقیق فی ذٰلِكَ جار با مجرد ظرف مستقر کَائِنَةَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لآہ مذ حلقہ آیات موصوف لآہ جارہ کُلِّ مضاف صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ مرکب تو صیغی مجرد، جار با مجرد کَائِنَةَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۲۰

آیت نمبر ۲۰: او و عاطفہ یا استثنائیہ لآہ موطنہ للقسّم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت نعل، صَدَّقَ نعل عَلَيْهِمْ جار با مجرد

متعلق ان لیس فاعل فکنتہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ رابطہ فعل واو ضمیر مستثنیٰ منہ
الاحرف استثناء فریقاً موصوف من المؤمنین ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ
منہ با مستثنیٰ فاعل واو ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم با جواب
قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي
شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ مانائیہ کان فعل ناقص لہ جاہد با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم علیہم طرف
مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم من جاہد زائدہ سُلْطٰن لفظاً مجرور ملامر فروع ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال اسم مؤخر، فعل ناقص با
اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ الاحرف استثناء لغو مستثنیٰ منہ مخدوف ہے لَشَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ، لام حرف جاہد برائے تعلیل،
اور اس کے بعد ان مقدر ہے نَعْلَمَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول يُّؤْمِنُ فعل هُوَ مستتر فاعل بِالْاٰخِرَةِ جاہد با مجرور متعلق، فعل
با فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ من جاہد من اسم موصول هُوَ ضمیر مبتدا، مِنْهَا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم فی حرف
جرشک ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مجرور، جاہد با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہد با مجرور
نَعْلَمَ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاہد با مجرور مستثنیٰ مفرغ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ
کان کے متعلق ہے واو استثنائی رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، حَفِيظٌ صیغہ صفت هُوَ مستتر فاعل عَلٰى جاہد عَلٰى شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور،
جاہد با مجرور متعلق مقدم، صیغہ صفت با فاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿۳۱﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۳۱﴾

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ رَعٰىتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا

فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شَرْكٍ ۚ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: قُلِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اَدْعُوا فعل واو ضمیر فاعل الَّذِيْنَ اسم موصول رَعٰىتُمْ فعل
هُم ضمیر مخدوف مفعول بہ اذل الہة مخدوف موصوف من دُوْنِ اللّٰهِ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی،
فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال لَا يَمْلِكُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول بہ
فِي السَّمٰوٰتِ جاہد با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زائدہ فِي الْاَرْضِ جاہد با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل با فاعل
و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا مشابہ "بہ لیس لہم جاہد با مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر
خبر مقدم فِيْهِمَا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم من جاہد زائدہ شَرْكٍ مرفوع ملامر ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال اسم مؤخر، مَا با اسم و خبر
جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاطفہ مَا مشابہ "بہ لیس لہ کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْهُمْ کائنات کے متعلق ہو کر حال

مقدم، من جادہ زلذہ ظہیر مرفوع ملاء وال حال مؤخر، ذوال حال با حال اسم مؤخر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف
 علیہ با معطوفین حال، ذوال حال با حال اذعو کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ
 ہوں

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا
 قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: واو عاطفہ لَا تَنْفَعُ فعل الشَّفَاعَةُ فاعل عِنْدَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، اَلْا حرف استثناء لغولام جارہ من اسم
 موصول اذِن فعل ہو ضمیر فاعل لہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور مستثنیٰ مفرغ متعلق ہوئے، فعل با فاعل
 و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں حَتَّىٰ حرف غایت جارہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم فُزِعَ فعل مجہول عن قُلُوبِهِمْ
 جار با مجرور نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم شرط، قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول، ما استفہامیہ مبتدأ، ذاب معنی
 الَّذِی اسم موصول قال فعل رَبُّكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ
 جزاء، شرط با جزاء ملاء مجرور، جار با مجرور متعلق ہرئے فعل محذوف یکتون کما کے، اور عندا بعض متعلق ہے زَعْنَتُمْ کے۔ قَالُوا فعل
 باواو ضمیر فاعل قول، الْحَقُّ بواسطہ موصوف محذوف الْقَوْل کے مفعول مطلق ہوا فعل محذوف قَالَ اللّٰهُ کا، فعل با فاعل و مفعول مطلق
 مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استیثانیہ ہو ضمیر مبتدأ، الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اس کی دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قُلْ مَنْ يَّرِزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هٰدٰى اَوْ فٰى

ضَلٰلٍ مّبٰیِّنٍ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، من اسم استفہام مبتدأ، يَّرِزُقُ فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر
 مفعول بہ من جارہ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ
 فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اللّٰهُ
 خبر ہے مبتدأ محذوف ہو کی، یا مبتدأ ہے خبر محذوف يَّرِزُقُنَا کا، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو عاطفہ اِنْ
 حرف تحقیق نا ضمیر معطوف علیہ، او عاطفہ اِيَّاكُمْ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کا اسم، لام نہ حلقہ علیٰ ہدٰى جار با مجرور معطوف
 علیہ، او عاطفہ فی جارہ ضَلٰلٍ مّبٰیِّنٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف کَانْتُنون کے متعلق ہو کر خبر اِنْ با
 اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں

قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا اجْرَمْنَا وَلَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل قول، لَا تُسْئَلُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل عن جارہ ما موصول اجْرَمْنَا
 فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ

لَا تُسْئَلُ فَعْلٌ مَجْهُولٌ نَحْوُ مُسْتَرْتَابٍ فاعل عَنْ جادہ ما اسم موصول تَعْمَلُونَ فَعْلٌ باء ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بہائیب فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: قُلْ فَعْلٌ امر بآتِ مُسْتَرْتَابٍ فاعل قول، يَجْمَعُ فَعْلٌ بَيْنَنَا مَرْكَبٌ اضائى مفعول فَيَرْبُتْنَا مَرْكَبٌ اضائى فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يَفْتَحُ فَعْلٌ مُسْتَرْتَابٌ بِالْحَقِّ كَاثِنًا كے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل بَيْنَنَا مَرْكَبٌ اضائى مفعول فیہ، فَعْلٌ بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ واو استینائیہ ہو ضمیر مبتداء، الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اس کی رو خبر، مبتداء باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: قُلْ فَعْلٌ امر بآتِ مُسْتَرْتَابٍ فاعل قول، أَرُونِي فَعْلٌ واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ الَّذِينَ اس موصول أَحَقُّمُ فَعْلٌ ثُمَّ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مخدوف مفعول بہ یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، شُرَكَاءَ مفعول بہ ثلاث (اعراب القرآن) فَعْلٌ بافاعل و مفاعیل ثلاث مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ کَلَّا حرف ردع اور بَلْ حرف اضراب ہو ضمیر شان اللہ مبتداء، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَرْكَبٌ توصیفی خبر، مبتداء باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: واو استینائیہ ما نافیہ اَرْسَلْنَا فَعْلٌ نَا ضمیر فاعل کاف ضمیر ذوالحال اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ كَافَّةً موصوف لِّلنَّاسِ ظرف مستقر کَاثِنَةٌ كے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت بواضع موصوف مخدوف اِحْسَانًا كے مفعول مطلق، فَعْلٌ بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ بَشِيرًا وَنَذِيرًا معطوف علیہ با معطوف حال ہے اَرْسَلْنَا كے مفعول بہ سے۔ واو عاطفہ لَكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرَ النَّاسِ مَرْكَبٌ اضائى اس کا اسم لَا يَعْلَمُونَ فَعْلٌ باء ضمیر فاعل خبر، لَكِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: واو استینائیہ يَقُولُونَ فَعْلٌ باء ضمیر فاعل قول، مَتَى استفہامیہ کَاثِنٌ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہَذَا الْوَعْدُ موصوف باصفت یا مبدل منہ بادل مبتداء مؤخر، مبتداء باخبر جملہ انشائیہ مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ متانفہ ہوا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَعْلٌ ناقص بالاسم و خبر شرط اس کی جزاء مخدوف مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: قُلْ فَعْلٌ امر بآتِ مُسْتَرْتَابٍ فاعل قول، لَكُمْ ظرف مستقر کَاثِنٌ كے متعلق ہو کر خبر مقدم مِيعَادُ مضاف يَوْمٍ موصوف لَا تَسْتَأْخِرُونَ فَعْلٌ باء ضمیر فاعل عَنْهُ متعلق سَاعَةً مفعول فیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَسْتَقْدِمُونَ فَعْلٌ باء ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتداء مؤخر، مبتداء باخبر جملہ

اسیہ خبریہ مقولہ، قولہ بمقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نَتَذَكَّرُ إِذِ
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ قَالَ فعل آلذین اسم موصول كَفَرُوا فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاسلہ فاعل، فعل ہاقاعل قول،
لَنْ نُؤْمِنُ فعل تَحْنُ مستتر فاعل بآء حرف جادھذا الْقُرْآنِ مرکب توصیفی یاسبدل منہ باہدل مجرور، جادہا مجرور معطوف علیہ، واو
عاطفہ لازلذہ بآء جادہ آلذین اسم موصول بَیْنَ یَدَیْہِ مرکب اضافی مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اَلَّذِی اللہ کا، فعل ہاقاعل و مفعول فیہ
صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہا مجرور معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول
ہامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

واو عاطفہ لَوْ شرطیہ تَذَرِی فعل اَنْتَ مستتر فاعل اِذْ مضاف الْقَاطِلُونَ مبتداء مَوْقُوفُونَ اسم مفعول ہُم ضمیر مستتر ذوالحال یَرْجِعُ
فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی فاعل اِلَیٰ بَعْضِ جادہا مجرور متعلق ہوئے الْقَوْلِ مفعول بہ، فعل ہاقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
مبدل منہ، یَقُولُ فعل آلذین اسم موصول اسْتَضَعِفُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل لام جادہ آلذین اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل
باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہا مجرور متعلق، فعل مجہول ہانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ یَقُولُ
کا فاعل، فعل ہاقاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْلَا امتناعیہ اَنْتُمْ مبتداء اور اس کی خبر محذوف ہے مَوْجُودُونَ مبتداء خبر جملہ اسیہ خبریہ
ہو کر شرط، لام جوابیہ کُنَّا فعل ناقص ناقص ہا ضمیر اس کا اسم مؤمنین خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جزاء، شرط ہا جزاء مقولہ، قول ہامقولہ بدل،
مبدل منہ باہدل حال و ذوالحال ہاحال مَوْقُوفُونَ کا نائب فاعل عِنْدَ رَبِّہِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم مفعول ہانائب فاعل و مفعول فیہ
شبہ جملہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسیہ خبریہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ تَذَرِی کا مفعول فیہ، فعل ہاقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ
شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے لَوْ اَیَّتْ اَمْرًا فَظَمِعَا (روح المعانی) شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَنْتُمْ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُدٰی بَعْدَ اِذْ
جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مَجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: قَالَ فعل آلذین اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاسلہ فاعل لام جادہ آلذین اسم
موصول اسْتَضَعِفُوا فعل مجہول باوا ضمیر نائب فاعل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہا مجرور متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و متعلق جملہ فعلیہ
خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام تَحْنُ ضمیر مبتداء صَدَدُنْكُمْ فعل ناقص فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، تَحْنُ الْهُدٰی جادہا مجرور متعلق ہوئے
بَعْدَ مضاف اِذْ مضاف جَاءَ فعل ہُوَ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ بَعْدَ کا مضاف الیہ، مضاف

بامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول بکل حرف اضراب کُنْتُمْ مُجْرِمِينَ فعل ناقص با اسم و خبر جملہ مستانف ہول

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ابْلِ مَكْرٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونََنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا ۗ وَاسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ ۗ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ اَهْلٌ يُجْرَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو عاطفہ قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول اسْتَضَعِفُوا فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل لامر جادہ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجهول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اور مقولہ محذوف ہے لَمْ نَكُنْ مُجْرِمِينَ، بکل حرف اضراب مَكْرٍ مصدر مضاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، اِذْ مضاف تَأْمُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اَنْ نَّكْفُرَ فعل متستر فاعل بِاللّٰهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَجْعَلَ فعل متستر فاعل لَهُ جار با مجرور مفعول بہ، یعنی، اَنْدَادًا مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر تَأْمُرُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَكْرٍ کا مفعول فیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و مفعول فیہ سے مل کر مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے صَدَدًا، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہول واو عاطفہ اسْرُوا فعل واو ضمیر فاعل النَّدَامَةَ مفعول بہ، لَمَّا ظرفیہ مضاف رَاُوا فعل واو ضمیر فاعل الْعَذَابِ مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْاَغْلَالَ مفعول بہ اول، فی حرف جار اَعْنَاقِ مضاف الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر تَأْمُرُونَ کا مفعول بہ، اسم استثناء ما اسم موصول گانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل مجهول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مطلقہ ہول

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا ۗ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واو استثنائیہ مَا نافیہ اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی جادہ قَرْيَةٍ ذوالحال اِلَّا حرف استثناء قَالَ فعل مُتْرَفُوْهَا مرکب اضافی فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم، بناء حرف جار ما اسم موصول اُرْسِلْتُمْ فعل مجهول تُم ضمیر نائب فاعل یہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، متعلق مقدم کا فِرُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر متستر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول بامقولہ حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، مِنْ جارہ زائدہ نَّذِيرٍ منصوب مَعْلًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ مستانف ہول

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَمَّا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ قالوا فعل باو ضمیر فاعل قول، نحن ضمیر مبتدأ، اکتوہم اسم تفضیل نحن مستتر فاعل اموالا واولادا معطوف علیہ با معطوف تمييز، اسم تفضیل با فاعل و تمييز خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ ما حجازیہ نحن اس کا اسم بآء جارہ زائدہ معذبتین ملاماً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قل فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل سے مل کر قول، ان حرف تحقیق ربی مرکب اضافی اس کا اسم یبسط فعل ہو مستتر فاعل الرزق مفعول بہ، لا مر جارہ من اسم موصول یشاء فعل با هو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ با مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یقدر فعل با هو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔ واو حالیہ لیکن حرف استدراک اکتو الناس مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلمون فعل باو ضمیر فاعل خبر لیکن با اسم و خبر حال ہے یبسط کی ضمیر فاعل سے۔

● رکوع نمبر ۵ ●

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا قَدْ ءُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ؕ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو استینافیہ ما مشابہ "بہ لیس اموالکم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لا اولادکم ما مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ما کا اسم بآء جارہ زلدا بالقی اسم موصول تقریب فعل ہی مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ، عندنا مرکب اضافی مقربین کا مفعول فیہ ہو کر کم ضمیر کا حال ہے زلفی مفعول مطلق من غیر لفظ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ لفظاً مجرور ملاماً منصوب ما کی خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الا بمعنی لیکن، من اسم موصول امن فعل با هو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عمل فعل ہو مستتر فاعل صالحا مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، جزاء جزائیہ اولئک اسم اشرہ مبتدأ، لهم ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم جزاء مصدر مضاف الضعف مضاف الیہ، بآء جارہ ما اسم موصول عملوا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ با مجرور متعلق ہوئے مصدر کے، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اولئک کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هم ضمیر مبتدأ، امنون اسم فاعل هم ضمیر فاعل فی الغرفات متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف من کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینافیہ الذين اسم موصول يسعون فعل باو ضمیر ذوالحال معجزین حال بذوالحال باحال فاعل فی آیاتنا جارہ

باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، مُخَضَّرُونَ اسم مفعول
هُم ضمیر نائب فاعل فی الْعَذَابِ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر باآئت مستتر فاعل قول، اِنَّ حرف تحقیق زنی مرکب اضافی اس کا اسم یَبْسُطُ فعل ہو مستتر فاعل
الرِّزْقَ مفعول بہ لام جارہ مَنْ اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ عِبَادِهِ ظرف مستقر کائنا
کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال باجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ
یَقْدِرُ فعل ہو مستتر فاعل لَہُ جار باجرور متعلق، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول
بامقولہ جملہ انشائیہ ہوں واو عاطفہ مَا اسم شرط ذوالحال مِنْ شَیْءٍ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ
مقدم اَنْفَقْتُمْ فعل تُمُّ ضمیر فاعل و مفعول بہ سے مل کر شرط، فاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدأ، یُخْلِفُ فعل ہو مستتر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ
سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ، خَيْرُ الرَّازِقِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر معطوف،
معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ اِهْوَاۤءِ اَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: واو استثنائیہ یَوْمَ مضاف یَحْشُرُهُمْ فعل ہو ضمیر فاعل ہُمُّ ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل
بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یَقُولُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل لِلْمَلٰئِكَةِ متعلق سے مل کر قول، ہمذہ حرف
استفہام ہُوَاۤءِ اسم اشارہ مبتدأ، اَيَّاكُمْ مفعول بہ مقدم یَعْبُدُونَ کا، کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْبُدُونَ فعل باواو ضمیر فاعل
و مفعول بہ مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مبتدأ کی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول بامقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف
الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل محذوف اذْکُرْ کا، اذْکُرْ فعل امر باآئت مستتر فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول، سُبْحٰنَكَ فعل محذوف سَبَّحْنَا کا مفعول مطلق ہو کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ
فعلیہ خبریہ ہوں اَنْتَ مبتدأ، وَلِيْنَا ذوالحال مِنْ دُوْنِهِمْ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ بَلْ
برائے اضراب کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْجِنَّ مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر
جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، بِهِمْ جار باجرور متعلق مقدم مُؤْمِنُونَ اسم فاعل ہُمُّ ضمیر فاعل و متعلق مقدم
سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: فاء استینافیہ الْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم لَا يَمْلِكُ فعل بَعْضُكُمْ مرکب اضافی فاعل لِبَعْضٍ جہد با مجرد متعلق ہوئے نَفْعًا معطوف علیہ، واو عاطفہ لِأَنَّ لَهُ ضَرًّا معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَقُولُ فعل تَحْنُ مستتر فاعل لام جہد الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول ہا صلہ مجرد، جہد با مجرد متعلق، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ذُوقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل عَذَابِ مضاف النَّارِ موصوف الْيَوْمِ اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَكْذِيبُونَ فعل ہا واو ضمیر فاعل اور یہاں متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول ہا صلہ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ ذُوقُوا کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ امریہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہوں۔

وَإِذَا تَنَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنَّا كَمَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ ؕ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ وَإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استینافیہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تَنَتَلَىٰ فعل مجہول عَلَيْهِمْ جہد با مجرد متعلق أَيْتِنَا مرکب اضافی ذوالحال بَيِّنَاتٍ حال بذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل، فعل و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالُوا فعل ہا واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا نافیہ هَذَا اسم اشدہ مبتدأ بِالْأَحْرِفِ استثناء لَعَنُوا رَجُلٌ موصوف يُرِيدُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل أَنْ ناصب یَصُدُّ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم، يَعْْبُدُ فعل أَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم موصول كَانَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم، يَعْْبُدُ فعل أَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مجرد، جہد با مجرد یَصُدُّ کے متعلق، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر یُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ صفت، موصوف ہا صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالُوا فعل ہا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا نافیہ هَذَا اسم اشدہ مبتدأ بِالْأَحْرِفِ استثناء آفِكٌ مُّفْتَرًى مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل ناقص ہو ضمیر فاعل صلہ، موصول ہا صلہ جہد با مجرد متعلق ہوئے لَمَّا ظرفیہ مضاف جَاءَهُمْ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَإِنْ نافیہ هَذَا اسم اشدہ مبتدأ بِالْأَحْرِفِ استثناء سِحْرٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واوا استیثانیہ مانایہ اَیْئِنَّا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اذل، من جادہ زلذہ کُتِبَ موصوف یدُرُسُونَ فعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف باصفت لفظاً مجرداً محلاً منصوب مفعول بہ ثانی، فاعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مانایہ اَرْسَلْنَا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل اَلْبَیْهَةِ جادہ با مجرد متعلق قَبْلُكَ مرکب اضافی مفعول فیہ، من جادہ زلذہ نَذِیرٌ محلاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا بَلَغُوا مِيعَاثَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ

كَانَ نَكِيْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ كَذَّبَ فعل اَلَّذِيْنَ اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ جادہ با مجرد در ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل محذوف مَضُوْا کے پھر یہ صلہ ہے موصول باصلہ ذوالحال واو حالیہ مَا نَايِه بَلَغُوا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل مِيعَاثَ مضاف مَا اسم موصول اَیْئِنَّا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ فاء عاطفہ كَذَّبُوا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل رُسُلِيْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر كَذَّبَ اَلَّذِيْنَ بہ معطوف ہے۔ فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے لِنَا كَذَّبُوا رُسُلِيْ جَاءَهُمْ انکاری بالتدبیر، کَیْفَ کَايْتَا کا مفعول فیہ ہو کر کَانَ کی خبر مقدم، کَانَ فعل ناقص نَكِيْرٌ اصل میں نَكِيْرِيٌّ ہے یہ مرکب اضافی فعل ناقص کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

www.kitabosunnat.com

رکوع نمبر ۶

قُلْ اِنَّمَا اَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَّ فُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا

بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لِّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۙ

آیت نمبر ۳۶: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق مَا كَاذَ اَعْظَمُ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جادہ وَاِحِدَةٍ مبدل منہ، اَنْ نصبہ تَقُوْمُوا فَعَلْنَا ضَمِیر ذوالحال لِلّٰهِ جادہ با مجرد متعلق ہوئے مَثْنٰی وَّ فُرَادٰی معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ تَتَفَكَّرُوْا فَعَلْنَا ضَمِیر فاعل با معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر بدل، مبدل منہ بابدل مجرد، جادہ با مجرد متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ مَا شَابِهٌ "بہ لَیْسَ بِصَاحِبِكُمْ کَايْتَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم من جادہ زلذہ جَنَّةٍ محلاً مرفوع اسم مؤخر، مَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تَتَفَكَّرُوْا کا مفعول بہ ہوا۔ اِنْ نَايِه هُوَ ضمیر مبتدا، اِلَّا حرف استثناء نَذِيْرٌ صیغہ صفت هُوَ مستتر فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر موصوف بَيْنَ مضاف يَدَيْ مضاف الیہ مضاف عَذَابٍ شَدِيْدٍ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ کَايْتَا کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

قُلْ مَا سَأَلْتُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شہید

آیت نمبر ۳۷: قُلْ فَعَلْتُ لِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمًا مِّنْ لَّدُنِّي وَكَانَ عَلِيمًا
ذو الحال بہ حال مفعول بہ ثانی مقدم، سَأَلْتُ فَعَلْتُ ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین شرط، فَاء جزائیہ ہو
ضمیر مبتدا، لَکُمْ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں ان نافیہ آجری مرکب اضافی مبتدا،
الاحرف استثناء علی اللہ کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں او عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، علی جارہ کل شیء مرکب
اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم شہید صیغہ صفت باہو مستتر فاعل و متعلق مقدم خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ إِنْ رَبِّي يَعْزِبُ بِالْحَقِّ عِلْمَ الْغُيُوبِ

آیت نمبر ۳۸: قُلْ فَعَلْتُ لِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمًا مِّنْ لَّدُنِّي وَكَانَ عَلِيمًا
فاعل بِالْحَقِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اول، عَلْمَ الْغُيُوبِ مرکب اضافی خبر دوم، اِنْ بِاِسْمِ وَخبرین مقولہ، قول ہا مقولہ
جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِينُ

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فَعَلْتُ لِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمًا مِّنْ لَّدُنِّي وَكَانَ عَلِيمًا
الْبَاطِلُ فاعل سے مل کر معطوف اول، وَاو عاطفہ مانافیہ يُعِينُ فعل باہو مستتر فاعل معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین مقولہ، قول
ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ

قَرِيبٌ

آیت نمبر ۵۰: قُلْ فَعَلْتُ لِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمًا مِّنْ لَّدُنِّي وَكَانَ عَلِيمًا
اِنْ حرف تحقیق مانا کا ضلُّ فعل انا مستتر فاعل علی نفسی متعلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اِنْ
شرطیہ اهْتَدَيْتُ فعل ت ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ مَا مصدریہ، يُوحِي فعل ربی مرکب اضافی فاعل اِلَى
متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اهْتَدَيْتُ کے، اهْتَدَيْتُ فعل انا مستتر فاعل و متعلق سے مل
کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق ت ضمیر اس
کا اسم سَمِيعٌ قَرِيبٌ و خبر اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَ أَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَ قَالَوا اَمَّا بِهِ ۖ وَ اَنَّىٰ

لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۗ

آیت نمبر ۵۱، ۵۲: واواستینافیہ کو شرطیہ تزی فعل آتے مستتر فاعل اذ مضاف فزعوا باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ لانی جنس قوت اس کا اسم اور اس کی خبر مخدوف ہے لہم لانی جنس با اسم و خبر معطوف علیہ، واوا عطفہ اُخذوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل من جارہ مکان کَرِیب مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق معطوف اول، واوا عطفہ قالوا فعل باواؤ ضمیر نائب فاعل قول، امنا فعل تا ضمیر فاعل اور یہ متعلق سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، واوا اعتراضیہ ان کا کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، لہم ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَلتَّنَاوِشُ مصدر من جارہ مکان بَعِید مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ معترضہ ہوں

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۳: واوا حالیہ قد علامت فعل كَفَرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال من قَبْلُ کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل یہ جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واوا عطفہ يَقْدِفُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِالْغَيْبِ جارہ مجرور متعلق اول، من جارہ مکان بَعِید مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق دوم، فعل بافاعل و متعلقین معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے قالوا کی ضمیر فاعل سے۔

وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي

شَكٍّ مَّرِيبٍ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۳: واوا عطفہ حِيلَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر راجع بسوئے الحَوْل مصدر نائب فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واوا عطفہ بَيْنَ مضاف ما اسم موصول يَشْتَهُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ مکاف جارہ ما اسم موصول فُعِلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل بِأَشْيَاعِهِمْ متعلق اول، من قَبْلُ متعلق ثانی (حاشیہ الجمل) فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلقین صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور کَانُوا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف حَوْلَا کے مفعول مطلق، فعل مجہول بہ نائب فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم فی جارہ شَكٍّ مَّرِيبٍ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

ترکیب سُورَةُ فَاطِرٍ

● رُكُوعٌ نَبْرًا ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنَحَةً مَّثْنٰی وَثُلٰثٌ وَرُبْعٌ ۝ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

آیت نمبر ۱: الْحَمْدُ مبتداء لام جارہ اللہ موصوف فاطر مضاف السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صفت اولیٰ جَاعِلِ صیغہ صفت مضاف الْمَلٰٓئِكَةِ مضاف الیہ معنی مفعول بہ اذّل، رُسُلًا موصوف اُولٰٓئِیْ مضاف اَجْنَحَةً مبدل منہ مَثْنٰی وَثُلٰثٌ وَرُبْعٌ معطوف علیہ با معطوفین بدل، مبدل منہ بادل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثلثی جَاعِلِ صیغہ صفت دونوں مفعولوں سے مل کر اللہ کی صفت ثانیہ، موصوف با مضمین مجرد، جارہ مجرد رکائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ یَزِیْدُ فعل ہو مستتر فاعل فی الْخَلْقِ جارہ مجرد متعلق ما اسم موصول یَشَآءُ فعل با ہو مستتر فاعل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اس کی ترکیب واضح ہے اور متعدد بد کر چکی ہے۔

مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٍ لَهَا ۝ وَ مَا یُمْسِكُ ۝ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ

بَعْدِهٖ ۝ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

آیت نمبر ۲: مَا اسم شرط ذوالحال مِنْ رَحْمَةٍ کا تعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال مفعول بہ مقدم یَفْتَحِ فعل اللہ فاعل لِلنَّاسِ متعلق و مفعول بہ مقدم سے مل کر شرط مقام جزائیہ لانی جنس مُمْسِكٍ اس کا اسم لہا جارہ مجرد رکائین کے متعلق ہو کر خبر، لانی اسم و خبر سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم شرط مفعول بہ یُمْسِكُ فعل با ہو مستتر فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط مقام جزائیہ لانی جنس مُرْسِلَ لَا کا اسم مِنْ بَعْدِهٖ کا تعلق ہوئے جو کہ خبر ہے، لہ جارہ مجرد رکائین کے متعلق ہو کر خبر، لانی اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہو۔ واو استینافیہ ہو ضمیر مبتداء الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ دو خبر، مبتداء خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَیْكُمْ ۝ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَرْزُقُكُمْ مِّنَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ اِلَّا اِلٰهٌ ۝ اِلَّا هُوَ ۝ فَاَنۢی تُوَفَّكُوۡنَ ۝

آیت نمبر ۳: یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اس کی ترکیب متعدد بد کر چکی ہے اور یہ عدا ہے اذْكُرُوا فعل واو ضمیر فاعل نِعْمَةَ اللّٰهِ مرکب اضافی ذوالحال عَلَیْكُمْ ظرف مستقر کا تعلق کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جواب

نداء، نداء باجواب نداء، نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔ ہل حرف استفہام من جادہ زلذہ خَالِقٍ لَقَطًا مَجْرُورٌ مَعْلَامٌ نَوْعٌ مَوْصُوفٌ غَيْرُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ بِمَعْتَدِ مَحَلِّ كَيْ صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَبْتَدَا، يَزُوقُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ كَمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، مِنْ جَادِهِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَجْرُورٍ، جَادٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ. هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ هُوَ لَا نَفِيٍّ جِنْسٌ اِلَّا هُوَ اس کا اسم خبر مخدوف ہے مَوْجُودٌ، مَوْجُودٌ اس مَفْعُولٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ مِنْهُ، اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ هُوَ ضَمِيرٌ بَدَلٌ، مَبَدَلٌ مِنْهُ بِبَدَلٍ نَائِبِ فَاعِلٍ، اس مَفْعُولٌ بِأَنْبَابِ خَبْرٍ، لَا بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ اِفْعَاءٌ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اِنِّي كَائِنِينَ كَامَفْعُولٍ فِيهِ هُوَ كَرِهَالٍ مَقْدَمٌ تَوْفِكُونَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوُضَمِيرٌ ذُو اِلْحَالِ مَوْخَرٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالٍ نَائِبِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِأَنْبَابِ فَاعِلٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ هُوَ

وَ اِنْ يَكْذِبُوْكَ فَقَدْ كَذَبْتَ رَسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

آیت نمبر ۳: وَاوُضَمِيرٌ اِسْتِثْنَائِيٌّ اِنْ شَرْطِيَّةٌ يَكْذِبُوْكَ فِعْلٌ وَاوُضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَانِ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلِّ كَرَجَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ شَرْطٌ، فَعَاءٌ جَزَائِيَّةٌ قَدْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ كَذَبْتَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ رَسُلًا مَوْصُوفٌ مِنْ قَبْلِكَ جَادٌ بِمَجْرُورٍ مَقْضُوعَا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ نَائِبِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِأَنْبَابِ فَاعِلٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هِيَ وَاوُضَمِيرٌ اِعْظَمُ اِلَى اللّٰهِ جَادٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ تَرْجَعُ فِعْلٌ مَجْهُولٌ الْاُمُوْرُ نَائِبِ فَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَلِّ كَرَجَمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَا لَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللّٰهِ

الْغُرُوْرُ ۝

آیت نمبر ۵: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس كِي تَرْكِيْبٌ بِيْهْتِ مَرْتَبَةٌ كَرَجَمْلَةٌ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ وَعْدَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ اِس كَا اس حَقٌّ خَبْرٌ اِنْ بَا اس مَجْرُوبٌ نداء، نداء باجواب نداء، نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔ فَعَاءٌ فَيْصِمَةٌ اِدْرَاس كِي شَرْطٌ مَخْدُوفٌ هِيَ اِذَا كَانِ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا، لَا تَغُرَّنَّ فِعْلٌ نَهْيٌ كَمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُضَمِيرٌ اِعْظَمُ لَا يَغُرَّنَّ فِعْلٌ نَهْيٌ كَمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ بِاللّٰهِ جَادٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ الْغُرُوْرُ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ

السَّعِيْرِ ۝

آیت نمبر ۶: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ الشَّيْطٰنَ اس كَمْ جَادٌ بِمَجْرُورٍ كَائِنَاتَا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِهَالٍ مَقْدَمٌ عَدُوٌّ ذُو اِلْحَالِ مَوْخَرٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ خَبْرٌ اِنْ بَا اس مَجْرُوبٌ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هِيَ اِفْعَاءٌ فَيْصِمَةٌ اِدْرَاس كِي شَرْطٌ مَخْدُوفٌ هِيَ اِذَا كَانِ الشَّيْطٰنَ عَدُوًّا، اِتَّخِذُوْا فِعْلٌ اِمْرًا وَاوُضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ عَدُوًّا مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ سَلِّ كَرَجَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هِيَ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ مَا كَانِ يَدْعُوْا فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ حِزْبَهُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، لَاهُ جَادٌ اِدْرَاس كَيْ اِبْعَادًا مَقْدَمٌ هِيَ يَكُوْنُوْا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَاوُضَمِيرٌ اِس

کا اسم من أصحاب السعیر کائنین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرد، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں

**الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝**

آیت نمبر ۷: الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باوای ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لَهُمْ جار مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ شَدِيدٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوای عطفہ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باوای ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاوای عطفہ عَمِلُوا فعل باوای ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لَهُمْ جار مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، وَاوای عطفہ أَجْرٌ كَبِيرٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

●●● رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۲ ●●●

**أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝**

آیت نمبر ۸: هَمْزہ استقبالیہ فاء عطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَنْظُرُوا وَأَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، مَنْ اسم موصول زُيِّنَ فعل مجهول لَمْ جار مجرور متعلق ہوئے، سُوءُ عَمَلِهِ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجهول بانائب فاعل و متعلق معطوف علیہ، فاء عطفہ زای فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ اول، حَسَنًا مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ قائم مقام شرط، فاء جزائیہ إِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم یضیلُ فعل ہو مستتر فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، وَاوای عطفہ يَهْدِي فعل ہو مستتر فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا كَانَتِ الْهَدَايَةُ فِي يَدِ اللَّهِ، لَا تَذْهَبْ فعل نمی نَفْسُكَ مرکب اضافی فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے حَسْرَاتٍ مفعول لہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول لہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں إِنَّ حرف تحقیق اِنَّه اس کا اسم عَلِيمٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بَاء حرف جار ما موصول یَصْنَعُونَ فعل باوای ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار مجرور متعلق، صیغہ صفت بافاعل و متعلق خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

**وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّتًى فَآخِئْنَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝**

آیت نمبر ۹: واؤ استینایہ اللہ مبتدا، الذی اسم موصول آرسل فعل ہو مشترک فاعل الزیاح مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ یؤیر فعل ہی مشترک فاعل سخابا مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، فاء عاطفہ سقنا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، الی جار مجرور مبتدئ مکتب مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف ثانی، فاء عاطفہ احمینا فعل نا ضمیر فاعل بہ جار مجرور متعلق الارض مفعول بہ بعد مؤنثا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین معطوف ثالث، معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گڈا الیک جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم النشور و مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَ مَكْرًا اُولٰٓئِكَ هُوَ

يَبُورُ ⑩

آیت نمبر ۱۰: مَنْ شرطیہ مبتدا، کان فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم یؤیر فعل ہو مشترک فاعل العزوة مفعول بہ سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فلیقطعہ شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، فاء تعلیلیہ للہ جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم العزوة فاعل جمیعا حال سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو، الیہ جار مجرور متعلق مقدم یصعد فعل الکلم الطیب مرکب توصیفی فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ العمل الصالح مرکب توصیفی مبتدا، یرفع فعل ہو مشترک فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متناظر ہو۔

واؤ عاطفہ الذین اسم موصول ینکرون فعل واؤ ضمیر فاعل السیئات مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لہم جزاء مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم عذاب شدید مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واؤ عاطفہ مکر اولیک مرکب اضافی مبتدا اول، ہو ضمیر مبتدا ثانی، یبور فعل با هو ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَا لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِہٖ ۗ وَا مَا يُعْتَرُ مِنْ مَّعْتَرٍ وَا لَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِہٖ اِلَّا فِی کِتَابٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰہِ یَسِیرٌ ⑪

آیت نمبر ۱۱: واؤ استینایہ اللہ مبتدا، خلق فعل ہو مشترک فاعل کم ضمیر مفعول بہ من تراب جار مجرور معطوف علیہ، ثم عاطفہ من نطفة جار مجرور معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم

عاطفہ جعل فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اذل اَزْوَاجًا مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہو سو واو عاطفہ مآنایہ تَحْمِيلُ فعل مِنْ جادہ زلذہ اَنْثَى مَعْلَمٌ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ
 معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَضَعُ فعل ہی مستتر ذوالحال الاحرف استثناء یعلیہ مَعْلُومَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل
 با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

واو عاطفہ مآنایہ يُعْتَمِرُ فعل مجہول مِنْ جادہ زلذہ مُعْتَمِرٌ مَعْلَمٌ فاعل نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف
 علیہ، واو عاطفہ لَا يَنْقُصُ فعل مجہول مِنْ جادہ زلذہ عُمُرُهُ مرکب اضافی مَعْلَمٌ فاعل ذوالحال الاحرف استثناء فی کِتَابٍ جادہ با مجرد
 مَعْلُومَاتٍ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔
 اِنْ حرف تحقیق ذلک مَعْلُومٌ اس کا اسم یَسِيْرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلَيَّ اللّٰهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر اِنْ با اسم و خبر
 جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ مِنْ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَالِجٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ
 كُلِّ تَاكُلُوْنَ لِحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِيَّةً تَلْبَسُوْنَهَا ؕ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاجِرَ
 لِيَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ مآنایہ يَسْتَوِيْ فعل الْبَحْرَانِ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ هَذَا عَذَبٌ مبتدا، عَذَبٌ موصوف
 فَرَاتٌ صفت اولی سَالِجٌ صیغہ صفت شَرَابُهُ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صفت ثانی، موصوف با صفتین خبر، مبتدا با خبر جملہ
 اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هَذَا مبتدا، مِلْحٌ اُجَاجٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف الْبَحْرَانِ
 کا بدل ہے۔ واو عاطفہ مِنْ كُلِّ جادہ با مجرد متعلق مقدم تَاكُلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل لِحْمًا طَرِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل
 و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَسْتَخْرِجُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل حَلِيَّةً موصوف تَلْبَسُوْنَ فعل
 ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

واو عاطفہ تَرَى فعل اَلَّتْ مستتر فاعل الْفُلْكَ ذوالحال مَوَاجِرَ حال سے مل کر مفعول بہ فِيْهِ جادہ با مجرد متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ
 و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ لا مر جادہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَبْتَعُوْا فعل با واو ضمیر فاعل مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے مل کر
 بتاویل مصدر مجرد، جادہ با مجرد معطوف علیہ، واو عاطفہ لَعَلَّ حرف تری کُم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فعل با واو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با
 اسم و خبر لِحْمًا تَاكُلُوْنَ کی تاویل میں ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہے مَوَاجِرَ کے یا فعل مَحْذُوف سَخَّرَ هُمَا کے۔

يُوجِئُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُوجِئُ النَّهَارِ فِي الْيَلِّ ؕ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَكْلًا يَجْرِي
 لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ

مِنْ قَطِيْرٍ ﴿۱۴﴾

باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

آیت نمبر ۷: ۱۷: وَاَوْعَاطِفُ مَا تَجَارِبُهُ ذَلِكَ اس کا اسم بآء زائد وَعَزِيْزٌ صیغہ صفت ہو مشترک فاعل اور عَلَى اللّٰهِ متعلق

مقدم سے مل کر لفظ مجرد و عملاً منصوب خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَا كَاتِبًا كَانَ ذَا قُرْبَى ۗ اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَ مَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ۗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

آیت نمبر ۱۸: ۱۸: وَاَوْعَاطِفُ لَا تَزِرُ فاعل وَ اَزْرًا فاعل وَ وِزْرًا أُخْرَى مرکب اضافی مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں وَاَوْعَاطِفُ اِنْ شرطیہ تَدْعُ فعل مُثْقَلَةٌ فاعل اِلَى حِمْلِهَا جملہ با مجرد متعلق سے مل کر شرط، لَا يُحْمَلُ فعل مجہول مِنْهُ کاتِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، شَيْءٌ ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں وَاَوْعَاطِفُ اعتراضیہ لَوْ شرطیہ کان فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم ذَا قُرْبَى مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ جزاء محذوف ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اِنْ حرف تحقیق مَا کافہ تُنذِرُ فعل اَنْتَ مشترک فاعل الَّذِيْنَ اسم موصول يَخْشَوْنَ فعل وَاَوْعَاطِفُ فاعل وَ رَبَّهُمْ مرکب اضافی ذوالحال بِالْغَيْبِ ظرف مستقر کاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ اَقَامُوا فعل با وَاَوْعَاطِفُ فاعل الصَّلَاةَ مفعول ہے سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ تُنذِرُ کا مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہوں وَاَوْعَاطِفُ مَنْ اسم شرط مبتدأ، تَزَكَّى فعل با هو مشترک فاعل شرط، فاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق مَا کافہ يَتَزَكَّى فعل هو مشترک فاعل لِنَفْسِهِ متعلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں وَاَوْعَاطِفُ اِلَى حرف جاد اللہ مجرد، جاد با مجرد کاتِبًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْبَصِيْرُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَ الْبَصِيْرُ ۝ وَ لَا الظُّلُمُتُ وَ لَا النُّوْرُ ۝ وَ لَا الظُّلُّ وَ لَا الْحُرُوْرُ ۝ وَ مَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَ مَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

آیت نمبر ۱۹: ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹: وَاَوْعَاطِفُ مَا نَافِي يَسْتَوِي فعل الْاَعْمَى وَ الْبَصِيْرُ معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ لَا زَلَّةَ الظُّلُمَاتُ وَ لَا النُّوْرُ معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف اِذْ ل، وَاَوْعَاطِفُ لَا زَلَّةَ الظُّلْمِ وَ لَا الْحُرُوْرُ معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ مَا نَافِي يَسْتَوِي فعل الْاَحْيَاءُ

وَلَا آمَوَاتٌ مَعُطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعُطُوفٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لِإِنْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ أَلْفَاكُ اسْمٌ مُسْمِعٌ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ
فَاعِلٌ مَنِ يَشَاءُ مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ خَبْرٌ بِإِنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعُطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ مَتَى
نَافِيَةٌ حِجَازِيَّةٌ أَلَتْ ضَمِيرَ اسْمِ كَلَامٍ بِأَدَاةٍ زَلَّةٌ مُسْمِعٌ اسْمٌ فَاعِلٌ أَلَتْ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ مَنِ اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي الْقَبُورِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ دُفِنَ كَ
مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَفْعُولٌ بِهِ، اسْمٌ فَاعِلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ لَفْظًا مَجْرُورٌ مَعْلًا مَنْصُوبٌ خَبْرٌ، مَتَى بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعُطُوفٌ،
مَعُطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعُطُوفٍ جُمْلَةٌ مُتَافِئَةٌ هُوَ

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: إِنَّ نَافِيَةٌ أَنْتَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ، إِلَّا حُرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ نَذِيرٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: إِنَّ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ نَا ضَمِيرٌ اسْمٌ كَلَامٍ أَرْسَلْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ بِالْحَقِّ جَد مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ،
بَشِيرًا وَنَذِيرًا مَعُطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعُطُوفٍ حَالٌ هُوَ أَرْسَلْنَا كَ مَفْعُولٌ بِهِ سَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ، إِنَّ بِاسْمٍ
اسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ وَوَاوُ عَاطِفَةٌ إِنَّ نَافِيَةٌ مِنْ جَدَّةٌ زَلَّةٌ أُمَّةٌ مَعْلَامٌ نَوْعٌ مُبْتَدَأٌ، إِلَّا حُرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ خَلَا فَعْلٌ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ نَذِيرٌ
فَاعِلٌ سَ لُ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: وَوَاوُ عَاطِفَةٌ إِنَّ شَرْطِيَّةٌ يُكَذِّبُوا فَعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَ لُ خَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، اءِ
اس كِي جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ فَاقْصِدْ، فَاءٌ تَلْوِيَّةٌ قَدْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ كَذَّبَ فَعْلٌ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ مِنْ قَبْلِهِمْ جَد مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَذَّبُوا
كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ ذَوَالْحَالِ جَاءَتْ فَعْلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ رُسُلُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ فَاعِلٌ بِالْبَيِّنَاتِ جَد مَجْرُورٌ مَعُطُوفٌ
عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ بِالزُّبُرِ جَد مَجْرُورٌ مَعُطُوفٌ اَوَّلٌ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ بِأَدَاةٍ جَدَّةٌ اَلْكِتَابِ الْمُنِيرِ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَد مَجْرُورٌ مَعُطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعُطُوفٌ
عَلَيْهِ بِمَعُطُوفِينَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ كَذَّبَ كَ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ جُمْلَةٌ
فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلَةٌ هُوَ

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: ثُمَّ عَاطِفَةٌ أَخَذْتُ فَعْلٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْصُولٌ بِصَلَّةٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ
خَبْرِيَّةٌ مَعُطُوفَةٌ هُوَ فَاءٌ نَصِيرٌ اءِ اس كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ لَمَّا أَخَذْتُ هُمْ، كَيْفَ كَاثِنًا كَا مَفْعُولٌ نِي هُوَ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ، كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ
نَكِيرٌ دَرَا صِلٌ نَكِيرِيٌّ هُوَ يِي مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ كَانَ كَا اسْمٌ هُوَ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ جَزَاءٌ هُوَ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاجْزَاءِ جُمْلَةٍ
شَرْطِيَّةٌ هُوَ

الْمُ تَرَانَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَو فعل اَنْتَ مستتر قائل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ کاسم اَنْزَلَ فعل ہو مشتق قائل مِنَ السَّمَاءِ متعلق مَاءً مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر، معطوف علیہ بفاء عاطفہ اَخْرَجْنَا فعل نا ضمیر قائل بہ جارہا بجز در متعلق ہوئے ثَمَرَاتٍ موصوف مُخْتَلِفًا اسم قائل اَلْوَانُ مرکب اضافی قائل سے مل کر صفت، موصوف بہمت مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اَنْ کی خبر، اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ تَو کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں اور عاطفہ مِنَ الْجِبَالِ کائِنْتَهُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُدَدٌ موصوف بَيضٌ وَ حُمْرٌ معطوف علیہ ہا معطوف صفت اولیٰ مُخْتَلِفًا اسم قائل اَلْوَانُ مرکب اضافی قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ، موصوف ہا مستثنیٰ معطوف علیہ، اور عاطفہ غَرَابِيبُ سُودٌ مبدل منہ بادل (روح العالیٰ) معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: اور عاطفہ مِنَ حرف جار اَلنَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ معطوف علیہ ہا معطوفین بجز در، جارہا بجز در کائِنْتَهُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُخْتَلِفًا اسم قائل اَلْوَانُهُ مرکب اضافی قائل کَذَلِكَ جارہا بجز در کائِنْتَهُ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِخْتِلَافًا کے مفعول مطلق، اسم قائل ہا قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف صِنْفٌ کے مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں اِنْ حرف تحقیق اور مَا کافہ ہے یَخْشَى فعل اَللّٰہِ مفعول بہ مِنْ عِبَادِهِ کائِنْتَهُ کے متعلق ہو کر حال مقدم اَلْعُلَمَاءُ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال قائل، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ کاسم عَزِيزٌ غَفُورٌ دو خبر، اِنْ ہا اسم و خبر من جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿۲۹﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۲۹، ۳۰: اِنْ حرف تحقیق اَلَّذِيْنَ اسم موصول يَتْلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل كِتَابِ اللّٰہِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اور عاطفہ اَقَامُوا فعل واو ضمیر قائل الصَّلَاةُ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، اور عاطفہ اَنفَقُوا فعل واو ضمیر ذوالحال سِرًّا وَعَلَانِيَةً بمعنى مُسْتَزِيْنٍ وَمُعْلِنِيْنَ حال، ذوالحال با حال قائل، مِنْ جَارِہ مَا اسم موصول رَزَقْنَا فعل نا ضمیر

فاعل **هُمْ** ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ ان کا اسم **يَزْجُونَ** فعل واو ضمیر فاعل **تَجَارَةً** موصوف **لَنْ** تَبُورَ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل لام جار **يُوقِي** فعل ہو مستتر فاعل **هُمْ** ضمیر مفعول بہ اول **أَجُوزَ** **هُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ **يَزِيدَ** فعل ہو مستتر فاعل **هُمْ** ضمیر مفعول بہ، **مِنْ** فضلیہ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور **لَنْ** تَبُورَ کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ **تَجَارَةً** کی صفت، موصوف با صفت **يَزْجُونَ** کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حرف تحقیق ہ ضمیر اس کا اسم **غَفُورٌ شَكُورٌ** دو خبر، ان با اسم و خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

آیت نمبر ۳۱: واو استینافیہ **الَّذِي** اسم موصول **أَوْحَيْنَا** فعل نا ضمیر فاعل **إِلَيْكَ** متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال **مِنَ الْكِتَابِ** کا ثنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدا اول، **هُوَ** ضمیر مبتدا ثانی، **الْحَقُّ** ذوالحال **مُصَدِّقًا** اسم فاعل **هُوَ** مستتر فاعل لام جارہ **مَا** اسم موصول **بَيْنَ يَدَيْهِ** مرکب اضافی وقع کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال **هُوَ** کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم لام مذقل **خَبِيرٌ بَصِيرٌ** دو خبر، ان با اسم و خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اور **بِعِبَادِهِ** جار با مجرور **بَصِيرٌ** کے متعلق ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ يُأْذِنُ اللَّهُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

آیت نمبر ۳۲: **ثُمَّ** حرف عطف **أَوْرَثْنَا** فعل نا ضمیر فاعل **الْكِتَابَ** مفعول بہ اول، **الَّذِينَ** اسم موصول **اصْطَفَيْنَا** فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال **مِنَ عِبَادِنَا** کا ثنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ **فَاء** تفریعیہ **مِنْهُمْ** کا ثنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم **ظَالِمٌ** اسم فاعل با **هُوَ** ضمیر فاعل اور **لِنَفْسِهِ** متعلق سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **مِنْهُمْ** ظرف مستقر **كَانُوا** کے متعلق ہو کر خبر مقدم **مُقْتَصِدٌ** بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ **مِنْهُمْ** ظرف مستقر **كَانُوا** کے متعلق ہو کر خبر مقدم **سَابِقٌ** اسم فاعل **هُوَ** مستتر فاعل **بِالْخَيْرَاتِ** متعلق اول، **يَأْذِنُ** اللہ متعلق ثانی سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔ **ذَلِكَ** اسم اشدہ مبتدا، **هُوَ** ضمیر فصل **الْفَضْلُ الْكَبِيرُ** مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

جَتُّ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا

حَرِيرٌ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: جَتُّ عَدْنٍ مرکب اضافی مبتدا (روح العانی) يَدْخُلُونَهَا فعل واو ضمیر ذوالحال يُحَلَّوْنَ فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل فِيهَا جار مجرور متعلق مِنْ جاره زلذہ أَسَاوِرَ موصوف من ذَهَبٍ كَائِنَتُهُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطف لُؤْلُؤًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول ثانی، فعل مجهول بِتَابِ فاعل و متعلق و مفعول ثانی جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال يَدْخُلُونَهَا کا فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واو عاطف لِبَاسُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، فِيهَا كَائِنَتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم حَرِيرٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واو استینافیہ قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، الْحَمْدُ مبتدا لام جارہ اللہ موصوف الَّذِي اسم موصول أَذْهَبَ فعل ہو مستتر فاعل عَنَّا متعلق الْحَزْنَ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور كَائِنَتَا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق رَبَّنَا مرکب اضافی اس کا اسم، لام مذ حلقہ غَفُورٌ شَكُورٌ خبر، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مترضہ ہوا۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا

لُغُوبٌ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: الَّذِي اسم موصول أَحَلَّنَا فعل ہو مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، دَارَ الْمُقَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ رَبَّنَا سے بدل ہے۔ لَا يَمَسُّنَا فعل تا ضمیر مفعول بہ، فِيهَا متعلق نَصَبٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف لَا يَمَسُّنَا فعل تا ضمیر مفعول بہ، فِيهَا متعلق لُغُوبٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف أَحَلَّنَا کے مفعول اول یا پہلی سے حال ہوا۔

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ

عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو استینافیہ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول با صلہ لَهُمْ كَائِنَتُهُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَارُ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر اول، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا کی تقدیر عبارت لَيْسَ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ فَيَمُوتُهُمْ، لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْهِمْ كَائِنَتَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْقَضَاءُ فَيَمُوتُهُمْ معطوف علیہ با معطوف اسم مؤخر، فعل ناقص ناقص!

اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یُخَفَّفُ فعل مجہول بہ متعلق ہوتے ہیں جادہ زلذہ عذاباً مرکب اضافی ملاماً مرفوع نائب فاعل، فعل مجہول بہ متعلق و نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبری، مبتدا با خبر بن جملہ اسمیہ خبریہ ہوں کذا لک جادہ با مجرد کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جزاء کے مفعول مطلق مقدم تجزی فعل لُحْنُ مستتر فاعل کل کفوہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متعرضہ ہوں۔

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرَجْنَا نَعْمَلًا صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوَلَمْ نُنْعِمْكُمْ بِمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

تصییر

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا یَصْطَرِحُونَ فعل واو ضمیر فاعل فیہا متعلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا یَصْطَرِحُونَ فعل واو ضمیر فاعل فیہا متعلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ربنا اور اصل یا ربنا ہے اور یہ ندا ہے اخرج فعل امر آت متستر فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جواب ندا، ندا با جواب ندا قائلیین محذوف کا مفعول ہو کر یَصْطَرِحُونَ کے فاعل سے حال ہے نَعْمَلًا فعل لُحْنُ متستر فاعل صَالِحًا بواسطہ موصوف محذوف عملاً کے مفعول مطلق غَيْرَ مضاف الَّذِي اسم موصول کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم نَعْمَلًا فعل با لُحْنُ متستر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ غَيْرَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جزاء ہے شرط محذوف ان تُخْرِجُنَا کی (کیونکہ نَعْمَلًا جواب امر ہونے کی وجہ سے مجروم ہے) ہمزة استفہامیہ واو عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ نُنْهَلِكُمْ، لَمْ نُنْعِمْكُمْ فعل لُحْنُ متستر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مآکرہ بمعنی وقتاً موصوف یَتَذَكَّرُ فعل فیہ جادہ با مجرد متعلق ہوتے ہیں من اسم موصول تَذَكَّرَ فعل ہو متستر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین لفظاً جملہ انشائیہ اور معنی جملہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَ فعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، النَّذِيرُ فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف علیہ محذوف کا معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا فاء فیصہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا مَا أَجَبْتُمْ النَّذِيرَ، يٰۤاِنْ كَفَرْتُمْ بِالنَّذِيرِ، ذُوقُوا فعل امر با واو ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا فاء تعلیلیہ ما مجازیہ للظالمین جادہ با مجرد کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں جادہ زلذہ نصییر ملاماً مرفوع اسم مؤخر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

●●● رکوع نمبر ۵ ●●●

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

آیت نمبر ۳۸: ان حرف تحقیق اللہ اسم عالم صیغہ صفت مضاف، غیب مضاف الیہ مضاف السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف غیب کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ عالم کا مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ

مفعول بہ، الأ حرف استثناء غُورًا بواسطہ موصوف محذوف و عُدَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِذْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

آیت نمبر ۴۱: إِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُمَسِّكُ فعل ہو مشترک فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَنْ مصدر یہ تَزُولَا فعل با الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتادل مصدر بواسطہ مَخَافَةٌ مضاف محذوف کے مفعول لہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا و او عاطفہ لام موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے اِنْ شرطیہ زَالَتَا فعل با الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اِنْ نافیہ اُمْسَكُ فعل ہما ضمیر مفعول بہ من جارہ زلذہ اَحَدٍ موصوف من بَعْدِهِ جار با مجرور کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مَعْلَم فروع فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم حَلِيمًا غَفُورًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

آیت نمبر ۴۲: وَاو استثنائیہ اَقْسَمُوا فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار با مجرور متعلق ہوئے جَهْدًا اَيْمَانِهِمْ مرکب اضافی جَاهِدِينَ کے معنی میں ہو کر حال ہے ضمیر فاعل سے، فعل بافاعل و متعلق قسم، لام جوابیہ اِنْ شرطیہ جَاءَ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ نَذِيرٌ فاعل سے مل کر شرط، لَيَكُونُنَّ فعل ناقص واو ضمیر محذوف اس کا اسم اَهْدَى اسم تفضیل هُمْ ضمیر متکثر اس کا فاعل من جار اَحْدَى الْأُمَمِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم پہلی قسم کا جواب ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے۔ فقاء عاطفہ لَمَّا ظرفیہ مقنن معنی شرط مفعول یہ مقدم جَاءَ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ نَذِيرٌ فاعل سے مل کر شرط، مَّا نافیہ زَادَ فعل ہو مشترک فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِذْ، اِلَّا حرف استثناء نُفُورًا مفعول بہ ہلنی سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

آیت نمبر ۴۳: اسْتِكْبَارًا مصدر فی الأرض متعلق سے مل کر معطوف علیہ، و او عاطفہ مَكْرَ السَّيِّئِ مرکب اضافی ذو الحال واو حلیہ لا یحییق فعل الْمَكْرُ السَّيِّئِ مرکب توصیفی فاعل، اِلَّا حرف استثناء بِأَهْلِهِ جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ

خبر یہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف مفعول لہ ہے زَادَ کا، فاء عاطفہ ہل حرف استفہامیہ یَنْظُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل
 الآخر استثناء سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ (روح المعانی) لَنْ تَجِدَ
 فعل أَنْتَ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللَّهِ جاد باجور و متعلق تَبْدِيلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَنْ تَجِدَ فعل
 أَنْتَ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللَّهِ جاد باجور و متعلق تَحْوِيلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معللہ
 ہوں

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ
 كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

آیت نمبر ۴۴: ہمزہ حرف استفہامیہ واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَزِمُوا مَسَاكِنَهُمْ لَمْ يَسِيرُوا فعل واؤ ضمیر
 فاعل فِي الْأَرْضِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَنْظُرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل كَيْفَ ظرف زمان كَانُوا مفعول فیہ ہو کر کان
 کی خبر مقدم، كَانَ فعل ناقص عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ موصول باصلہ ذوالحال واؤ حالیہ كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم
 أَشَدَّ اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل مِنْهُمْ متعلق قُوَّةً تمیز سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال،
 ذوالحال باحال عَاقِبَةُ کامضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ كَانَ کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر مفعولاً منسوباً یَنْظُرُوا کا مفعول بہ، فعل
 بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف پھر معطوف علیہ محذوف کا معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ انتہائیہ استفہامیہ
 ہوں

واؤ استثنائیہ مَآنِیَہ كَانَ فعل ناقص اللَّهُ اس کا اسم لامر جمع یہ اس کے بعد ان مقدر ہے يُعْجِزُ فعل واؤ ضمیر مفعول بہ، مِنْ جادہ
 زلذہ شئی ہذا لفظا مجرور محلا مرفوع موصوف فی السَّمَوَاتِ جاد باجور و معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا زلذہ فی الْأَرْضِ جاد باجور و معطوف، معطوف
 علیہ بالمعطوف كَانُوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجور و كَانُوا
 کے متعلق ہو کر کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا کی ترکیب إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 غَفُورًا کی مثل ہے آیت نمبر ۴۱ میں گزر چکی ہے۔


وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ
 إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

آیت نمبر ۴۵: واؤ استثنائیہ لَوْ شرطیہ يُؤَاخِذُ فعل اللَّهُ فاعل النَّاسِ مفعول بہ، بَاء جادہ ہا اسم موصول كَسَبُوا فعل
 باواؤ ضمیر فاعل صلہ موصول باصلہ مجرور، جاد باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَآنِیَہ
 تَرَكَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَى ظَهْرِهَا جاد باجور و متعلق، مِنْ جادہ زلذہ دَابَّةٍ لفظا مجرور مفعولاً منسوباً مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ

و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔
 واو عاطفہ لکن حرف استدراک مہمل یُوخِرُ فعل ہو مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، الی جاہہ اَجَلِ مُسْتَقِیٰ مرکب توصیفی مجرور،
 جاہہ مجرور متعلق، فعل باناغل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فاء عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم جَاءَ فعل اَجَلُهُمْ
 مرکب اضافی قائل سے مل کر شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے فِیْ جَزَائِهِمْ، فاء تعلیلیہ اِنَّ حرف تحقیق اَللّٰہُ اس کا اسم کان فعل
 ناقص ہو مستتر اس کا اسم بِصِيْرٍ اَمِيْنٌ صفت ہو مستتر قائل بِعِبَادِهِ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہَا سَم
 و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ ہَا سَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

بِحَمْدِہٖ تَعَالٰی بروز جمعرات ۲۸، ۱۱، ۱۳، ۲۰ کو بوقت ۷:۱۰ بعد نماز عشاء سورہ ہذا کی

ترکیب مکمل ہوئی۔



ترکیب سورۃ قیس

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّکَ لَیْنِ الْمُرْسَلِیْنَ ۝
عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

آیت نمبر ۱: یس ۳، ۳، ۳، ۳، ۳ خبر ہے مبتدا محذوف ہو گی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو سوا و تسمیہ جادہ الْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ مرکب توصیفی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اَقْسِمُ کے، اَقْسِمُ فعل آکا مشترک فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ تسمیہ ہو کر قسم، اِنَّ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لام مذکورہ من الْمُرْسَلِیْنَ کائن کے متعلق ہو کر خبر اول، عَلٰی جادہ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ مرکب توصیفی مجرور، جادہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر ثانی، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ تسمیہ ہو۔

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

آیت نمبر ۵: تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق فعل محذوف نُزِّلَ کا، نُزِّلَ فعل مجہول ہو مشترک نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۶: لام جادہ تطیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مُّقَدَّرٌ تَنْذِرَ فعل آت مشترک فاعل قَوْمًا موصوف مآثر اَنْذِرَ فعل مجہول اَبَاؤُهُمْ مرکب اضافی نائب فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے مصدر تَنْزِیْلِ کے یا متعلق ہوئے فعل محذوف نُزِّلَ کے فاء تطیلیہ هُمْ ضمیر مبتدا، غٰفِلُوْنَ اسم فاعل هُمْ مشترک فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یؤمنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۷: لام موطنہ للقسیم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامات فعل حَقَّ فعل الْقَوْلُ فاعل عَلٰی اَکْثَرِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ تسمیہ ہو۔ فاء تطیلیہ هُمْ ضمیر مبتدا، لَا یؤمنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهٰی اِلَی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۸: اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فِیْ اَعْنَاقِهِمْ جادہ با مجرور مفعول مفعول بہ یعنی مقدم اَغْلَالًا مفعول بہ اول، فعل با فاعل و مفعولین اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ فاء عاطفہ ہی ضمیر مبتدا، اِنَّا

الاذقان جاد باجور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فاء تفریحیہ ہُم ضمیر مبتدا، مَفْعُولُ اسْمِ مفعول ہُم
مستتر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۹: واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَعْلَا منصوب مفعول بہ ثانی مقدم سَدًّا مفعول بہ اول، فعل
با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا کا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا پر عطف ہے۔ فاء عاطفہ آغْشَيْنَا
فعل نا ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ فاء تعلیلیہ ہُم ضمیر مبتدا، لَا يُبْصِرُونَ فعل باو ضمیر فاعل
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ سَوَاءٌ بمعنی مُسْتَوٍ اور مُسْتَوٍ اس فاعل ہو مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم
ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ "إِنذَارُكَ وَعَدَمُ إِنذَارِكَ" کی تاویل میں ہے پھر یہ معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر ہے، مبتدا با خبر
جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ ہُم ضمیر مبتدا، لَا يُؤْمِنُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو یا
پہلے جملے سے بدل ہو۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ
كَرِيمٍ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: اِنْ حرف تحقیق مَا كَانَتْ تُنذِرُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل مَنِ اسْمِ موصولِ اتَّبَعَ فعل ہو مستتر فاعل الذِّكْرَ مفعول بہ
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خَشِيَ فعل ہو مستتر فاعل الرَّحْمَنَ ذَا الْحَالِ بِالْغَيْبِ ظرفِ مستقر کائنات کے متعلق
ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ تُنذِرُ
کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ تہلہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فاء نصیحة اور اس کی شرط محذوف ہے لَمَّا آجَدَتْ فِيهِ التَّنْذِيرَ، بَشِّرْ
فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بَاءِ جَارِهِ مَغْفِرَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، واو عاطفہ أَجْرٍ كَرِيمٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ
با معطوف مجرور، جاد باجور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
مُّبِينٍ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نَحْنُ ضمیر مبتدا، نُحْيِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمَوْتَىٰ مفعول بہ سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نَكْتُبُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَا قَدَّمُوا موصولِ قَدَّمُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ،
موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آثَارَهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ

فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَحْنُ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور عاطفہ کُلُّ هَیْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل مخدوف اَخْصَيْنَا کا، اَخْصَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، اَخْصَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، فی حرف جارا مامر مُبِينِ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر با مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ ۙ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واو استینافیہ اِضْرِبْ بمعنی اِجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَهُمْ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَثَلًا ذوالحال مؤنذہ و ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی مقدم اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ مرکب اضافی مبدل منہ اِذْ مضاف جَاءَ فعل نا ضمیر مفعول بہ اَلْمُرْسَلُونَ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل الاستعمال، مبدل منہ بادل اِضْرِبْ کا مفعول بہ اول، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ متانہ ہوں۔

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِمَا لِيَتْ فَمَا لَوْ اِنَّا اِلَيْكُمْ مَرْسَلُونَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: اِذْ مضاف اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق اِثْنَيْنِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ كَذَّبُوْا فعل واو ضمیر فاعل هُمَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ عَبَّوْا فعل نا ضمیر فاعل بِمَا لِيَتْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَالُوْا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مَرْسَلُونَ اسم مفعول بہ نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل اِلَيْكُمْ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ اول کا معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل ہے پہلے اِذْ سے۔

قَالُوا مَا آتَانَا مِن بَشَرٍ مِّثْلَنَا ۙ وَمَا نَزَلَ الرَّحْمٰنُ مِن شَيْءٍ اِلاَّ

تَكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا نَافِيَةٌ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء، بَشَرٍ مِّثْلَنَا مرکب توصیفی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَافِيَةٌ اَنْزَلَ فعل الرَّحْمٰنُ فاعل مِن جادہ زائدہ شَيْءٍ منصوب مَثَلًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ نَافِيَةٌ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء، تَكْذِبُونَ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَنَا لِمَ سَلُّوا ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبَّنَا مرکب اضافی مبتدأ، عَلِّمْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِنَّ حرف

تحقیق لام نہ حلقہ مُرْسَلُونَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر نائب فاعل اَلِیْكُمْ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر یَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: واو عاطفہ مَا نافیہ عَلَيْنَا جار مجرور کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَلْا حرف استثناء الْبَلَّغُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

قَالُوا اِنَّا نَطَّيَّرُ نَابِكُمْ ؕ لَنْ لَمْ تَنْتَهُوا النَّزْجَمَتَكُمْ وَاَلَيْسَ تَنْتَهُوا النَّزْجَمَتَكُمْ مَتَا عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: قَالُوا فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِن حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم بظہر فاعل نَا ضمیر فاعل بِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر بیان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لام موطئہ القسم اور اس کی قسم مخدوف ہے، اِن شرطیہ لَمْ تَنْتَهُوا فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اَلَّذِ جَمَعَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَيْسَ تَنْتَهُوا فعل كُمْ ضمیر مفعول بہ متناجا جار مجرور متعلق عَذَابِ الْيَوْمِ مرکب توصیفی فاعل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم مخدوف کا جواب ہے اور شرط کی جزاء مخدوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے۔

قَالُوا طَابَرَكُمْ مَعَكُمْ ط اِنِ ذِكْرُكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: قَالُوا فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، طَابَرَكُمْ مرکب اضافی مبتدا، مَعَكُمْ مرکب اضافی کا لائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لام موطئہ حرف استفہام اِن شرطیہ ذِكْرُكُمْ فعل مجہول كُمْ ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء مخدوف ہے بظہر واو، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ بَلْ حرف انراب اَلْكُمْ ضمیر مبتدا، قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہو۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۰، ۲۱: واو استینافیہ جَاءَ فعل مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے رَجُلٌ موصوف ہوا یَسْعَى فعل باو او مستتر فاعل صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہو۔ قَالَ فعل باو او مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے اَتَّبِعُوا فعل باو او ضمیر فاعل الْمُرْسَلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مؤکد، اَتَّبِعُوا فعل امر باو او ضمیر فاعل مَنْ اسم موصول لَا یَسْأَلُكُمْ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَجْرًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، مُّهْتَدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ تاکید، مؤکد با تاکید جواب

نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ بتقدیر قَدْ رَجُلٌ سے حال ہوں۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: واو عاطفہ ما اسم استفہام مبتدا، لام جارہ یاء ضمیر ذوالحال لَا أَعْبُدُ فعل انکا مستر قائل الَّذِي اسم موصول فطر فعل ہو متستر قائل نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ، پھر یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُرْجَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل إِلَيْهِ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهَا إِلَهًا إِنَّ يُرِيدَنَّ الرِّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: ہمزة حرف استفہام آتَّخِذْ فعل انکا مستر قائل مِنْ دُونِهَا جار با مجرور مفعول بہ، الی، الہة مفعول بہ اول، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہولین ان شرطیہ یُرِيدَنَّ فعل نون و قایہ کا، یاء مخذوفہ مفعول بہ الرِّحْمَانُ فاعل بِضُرٍّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَا تُغْنِي فعل عقی جار با مجرور متعلق شَفَاعَتُهُمْ مرکب اضافی فاعل شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُنْقِذُونَ فعل واو ضمیر قائل نون و قایہ کا، یاء مخذوفہ مفعول بہ، پھر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ مطلقہ ہوں (روح المعانی) اور بعض حضرات نے الہة کی صفت بنایا ہے اور یہ بھی درست ہے۔

إِنِّي إِذًا لَنفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اذا حرف جواب و جزاء مہمل لام مذ حلقہ فی حرف جار ضلالٍ مُّبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَمَنْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل بِرَبِّكُمْ جار با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فقاء نصیحة اور اس کی شرط مخذوف ہے لَمَّا كُنْتُ نَاصِحًا لَكُمْ فَاسْمِعُوا فعل واو ضمیر قائل نون و قایہ کا، یاء مخذوفہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۶، ۲۷: قِيلَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر راجع بسوء مصدر القول نائب فاعل، فعل مجہول بہ نائب فاعل قول، ادْخُلِ فعل امر آتت مستر قائل الْجَنَّةَ مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَالَ فعل ہو متستر قائل سے مل کر قول، یاء حسیہ (اعراب القرآن) لَيْتَ حرف تمنی قَوْمِي مرکب اضافی اس کا اسم يَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر قائل یاء جارہ عَفَرَ فعل

لی جلد باجرور متعلق رہتی مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ لِنَفْسِهِ مُسْتَقِرًّا فاعل نون وقایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ مِنَ الْمُكْرِمِينَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ باجرور، جلد باجرور یَعْلَمُونَ کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لیت با اسم و خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: واو استثنائیہ مانائیہ أَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَى قَوْمِهِ جلد باجرور متعلق، مِنْ بَعْدِهِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جَارِهِ زائدہ جُنْدٍ لفظاً باجرور عملاً منصوب موصوف مِنَ السَّمَاءِ کائنات کے متعلق ہو کر مفعول، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مانائیہ كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مُنْزِلِينَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: اِنْ نافیہ كَانَتْ فعل ناقص ہی مستتر اس کا اسم، الْآحِرُ اسثناء صَيْحَةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اِذَا مفاعلیہ هُمْ ضمیر مبتدا، خَامِدُونَ خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

يُخْسِرُونَ عَلَىٰ الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: يُخْسِرُونَ عَلَى الْعِبَادِ اصل میں يَأْتِيهِمْ لَمْ يَكْسِرُوا وَاحْسِرُونَ عَلَى الْعِبَادِ ہے (روح المعانی) اور اس کی ترکیب محتاج بیان نہیں ہے واضح ہے، مانائیہ يَأْتِيهِمْ فعل ہم ضمیر ذوالحال الْآحِرُ اسثناء كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَسْتَهْزِءُونَ فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مِنْ جَارِهِ زائدہ رَسُولٍ لفظاً باجرور عملاً مفعول فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

الَّذِينَ يَرَوُكُمُ أَهْلُكُمْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْكُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ہمزہ حرف استفہام لَمْ يَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل كُمْ خبریہ ذوالحال مِنَ الْقُرُونِ جلد باجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم، أَهْلُكُمْ فعل نا ضمیر فاعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لَا يُرْجِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْكُمْ متعلق سے مل کر خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ بادل لَمْ يَرَوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

وَأَنْ كُلًّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واو عاطفہ اِنْ نافیہ كُلُّ مبتدا، لَمَّا بمعنی إِلَّا جَمِيعٌ خبر اول مُحْضَرُونَ اسم مفعول هُمْ ضمیر مستتر نائب فاعل

لَدَيْتَا مَرْكَبًا مَضَى مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ سَلَّ كَرِخْرِيًّا، مَبْتَدَأُ بِاِخْبَرِيْنَ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ

﴿ رُكُوعٌ نُمْبَرٌ ۳ ﴾

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤ استینافیہ آیت موصوف لہم کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدا، الأرض المیتة مرکب توصیفی ذوالحال آحییننا فعل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ آخر جتنا فعل نا ضمیر فاعل منها متعلق حبا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا فاء تفریمیہ یاکلون فعل واؤ ضمیر فاعل منه متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واؤ عاطفہ جعلنا فعل نا ضمیر فاعل فیہا جار با مجرور متعلق جنت موصوف من جارہ نخیل و أعناب معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ فججنا فعل نا ضمیر فاعل فیہا جار با مجرور متعلق کائنتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف شہینتا کے مفعول بہ (روح المعانی) فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر آحییننا پر معطوف ہے۔

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِۦٓ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ؕ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: لام جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یاکلوا فعل، واؤ ضمیر فاعل من جارہ ثمرہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما اسم موصول عملت فعل ہ ضمیر مفعول بہ آیدیہم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے جعلنا کے، ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے یذرون ہذیہ النعمہ لا یشکرون فعل باؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ ہوا۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: سُبْحَانَ مضاف الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَوْكِدًا تاکید ذوالحال من جارہ ما اسم موصول تُنْبِتُ فعل الْأَرْضُ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واؤ عاطفہ من أَنْفُسِهِمْ جار با مجرور معطوف اول، واؤ عاطفہ من جارہ ما اسم موصول لَا يَعْلَمُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائنتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال خَلَقَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق ہوا فعل محذوف أُسْتَبْحٰحُ کا... الخ

وَايَةٌ لَهُمُ الْيَلُ نَسَلُخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ آیۃ موصوف لہم طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتداء، الکیل ذوالحال نسلخ فعل نحن مستقر فاعل ومنہ متعلق النهار مفعول بہ سے مل کر حال، ذوالحال باحال مبتداء مؤخر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاعاطفہ اذا مفاعلیہ ہم ضمیر مبتداء، مُظْلِمُونَ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو عاطفہ الشمس مبتداء تَجْرِي فعل ہی مستقر فاعل لام جارہ مُسْتَقَرٍّ موصوف لہا طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل ہا فاعل و متعلق خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ذلک اسم اشرہ مبتداء، تَقْدِيرُ مضاف الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو عاطفہ الْقَمَرَ مفعول بہ ہے فعل مخدوف قَدَرْنَا، قَدَرْنَا فعل با آنا ضمیر فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسر قَدَرْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ اول مَنَازِلَ مفعول بہ ثانی، حَتَّىٰ حرف غایۃ و جر عَادَ فعل ہو مستقر فاعل کان جارہ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل ہا فاعل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جارہ مجرور قَدَرْنَا کے متعلق، فعل ہا فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: لا نافیہ الشمس مبتداء يَنْبَغِي فعل ہو مستقر فاعل لہا جارہ مجرور متعلق ان نہ صبر تُدْرِكُ فعل ہی مستقر فاعل الْقَمَرَ مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ الکیل مبتداء سَابِقُ النَّهَارِ مرکب اضافی خبر، مبتداء خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانہ ہوں واو عاطفہ كُلٌّ "كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ" کی تاویل میں ہو کر مبتداء، يَسْبَحُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور فِي فَلَكٍ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَايَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۴۱﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا

يَرْكَبُونَ ﴿۴۲﴾

آیت نمبر ۴۱، ۴۲: واو عاطفہ آیۃ موصوف لہم کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتداء، ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم حَمَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ذُرِّيَّتَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ فِي حرف جارہ الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور

متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خَلَقْنَا فَعَلْنَا صَمِيرَ فاعل لَهُمْ جادہ باجہرہ متعلق مِنْ مِثْلِهِ جادہ باجہرہ کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم مآ اسم موصول يَزْكَبُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خَلَقْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْ كى خبر، اَنْ بالاسم و خبر تاویل مفرد خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو عاطفہ اِنْ شَأْ فعل شرطیہ نَشَأْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، نُغْرِقْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں، فاء عاطفہ لَانِی جنس صَرِيحِ اس کا اسم کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، لا بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَانِی هُمْ ضمیر مبتدا، يُنْقَدُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: اِلَّا حرف استثناء رَحْمَةً موصوف متناظر مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ مَتَاعًا موصوف اِلَى حِينٍ کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف منصوب بزج الخافض يُنْقَدُونَ کے متعلق ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واو استینافیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قِيلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل لَهُمُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اتَّقُوا فعل واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحمی کُمْ ضمیر اس کا اسم تُرْحَمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ بالاسم و خبر حال بذوالحال باحال فاعل مآ اسم موصول بَيْنَ اَيْدِيكُمْ مرکب اضافی تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآ اسم موصول خَلْفَكُمْ مرکب اضافی تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ شرط اور جزاء محذوف ہے اَعْرِضُوا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ مَا نَانِیہ تَأْتِي فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ جادہ زائد آيَةٍ ملامر نوع موصوف مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ کَائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال اِلَّا حرف استثناء كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم مُعْرِضِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل عَنْهَا متعلق مقدم سے مل کر حال بذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انْطَعِمُوا

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَهُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فی مقدم قیل فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل لہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، انفقوا فعل واو ضمیر فاعل من جادہ ما اسم موصول رزق فعل کم ضمیر مفعول بہ، اللہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ شرط، قال فعل اللذین کفروا موصول باصلہ فاعل لام جادہ اللذین امتوا موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمہ حرف استفہام نطعم فعل نجن مستتر فاعل من اسم موصول لو شرطیہ یشاء فعل اللہ فاعل سے مل کر شرط، اطعمہ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول باصلہ نطعمہ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا ان نافیہ انکم ضمیر مبتدئہ الاحرف استثنائیہ جادہ ضللیٰ مبین مرکب توصیفی مجرور، جادہ با مجرور کا کنون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسیہ خبریہ ہوا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استثنائیہ یقولون فعل باوا ضمیر فاعل قول، متی اسم استفہام کائون کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہذا الوعد مرکب توصیفی یا مبدل منہ بادل مبتدئہ مؤخر، مبتدئہ با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا ان شرطیہ کنتم فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم صادقین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے فمتی ہذا الوعد، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صٰيِحَةً وَّ اِحِدًا تَاْخُذُ هُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: مانافیہ یظنرون فعل واو ضمیر فاعل الاحرف استثناء صیحة موصوف واحدا صفت اولی، تاخذ فعل ہی مستتر فاعل ہم ضمیر ذوالحال واو حالہ ہم ضمیر مبتدئہ یخصمون فعل باوا ضمیر فاعل خبر، مبتدئہ با خبر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّ لَا اِلٰى اٰهْلِہُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: فاء عاطفہ لا یستطیعون فعل واو ضمیر فاعل توصیة مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لانیہ یرجعون فعل واو ضمیر فاعل الی اہلہم متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

و نَفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّہُمْ يَنْسِلُونَ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: واو استثنائیہ نفخ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل فی الصور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اذا مناجاتیہ ہم ضمیر مبتدئہ ینسلون فعل واو ضمیر فاعل من الاجداث جادہ با مجرور متعلق اول مقدم الی ربہم جادہ با مجرور متعلق ہی مقدم، فعل با فاعل و متعلقین خبر، مبتدئہ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوا۔

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۗ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول ہو، یٰوَيْلَنَا یہ اصل میں یٰاَقْوَمَنَا اَنْظُرُوْا وَاوَيْلَنَا ہے اور ترکیب واضح ہے، مَنْ اسم استفہام مبتدا، بَعَثَ فعل ہو مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ مِنْ مَرْقَدِنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدا باخبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو، هٰذَا اسم اشارہ مبتدا، مَا اسم موصول وَعَدَ فعل الرَّحْمٰنُ فاعل سے مل کر معطوف علیہ، وَاوَيْلَنَا صَدَقَ فعل الْمُرْسَلُوْنَ فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لِّدَيْنِنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: اِنْ نَاقِیہ كَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم الَا حُرُف استثناء صَيْحَةً وَّاحِدَةً مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاِذَا عَاطِفٌ اِذَا مَاجَیَیہ هُمْ ضمیر مبتدا، جَمِيْعٌ موصوف مُحْضَرُوْنَ اسم مفعول هُمْ مستتر نائب فاعل اور لِّدَيْنِنَا مفعول فیہ مقدم سے مل کر صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

فَاَلْیَوْمَ لَا تُنظَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: فَاِذَا استثنائی اَلْیَوْمَ مفعول فیہ مقدم لَا تُنظَمُ فعل مجهول نَفْسٌ نائب فاعل اور شَیْئًا بِاِسْمِ موصوف موزون ظُلْمًا کے مفعول مطلق، فعل بہائب فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَيْلَنَا لَاجُزْوْنَ فعل مجهول وَاوَيْلَنَا ضمیر نائب فاعل الَا حُرُف استثناء مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُوْنَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل مجهول بہائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہو۔

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِیْ شُغْلٍ فَكِهِوْنَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: اِنَّ حُرُف تَحْقِیْقِ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ مرکب اضافی اسم الْیَوْمَ کا مفعول فیہ مقدم فِیْ شُغْلٍ كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر اول فِیْ شُغْلٍ خبر ثانی، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِیْ ظِلِّیْ عَلٰی الْاَرَآئِكِ مُتَكِیُوْنَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ معطوف علیہ با معطوف مبتدا، فِیْ ظِلِّیْ كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر اول مُتَكِیُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل عَلٰی الْاَرَآئِكِ متعلق مقدم سے مل کر خبر ثانی، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

لَهُمْ فِیْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا یَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: لَهُمْ ظرف مستقر كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر ثانی، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو، لَهُمْ ظرف مستقر كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِیْهَا كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم فَاكِهَةٌ ذُو الْحَالِ مَوْخِرٌ ذُو الْحَالِ بِحَالِ مبتدا مَوْخِرٌ، مبتدا باخبر معطوف علیہ، وَاوَيْلَنَا لَهُمْ كَانُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَّا یَدَّعُوْنَ موصول باصلہ مبتدا مَوْخِرٌ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف

علیہ بمعطوف جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: سَلَّمَ مبتدا، مِّن جارہ رَّبِّ رَحِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جلد با مجرور کائِن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں قَوْلًا مفعول مطلق ہے فعل محذوف يَقُولُ اللّٰهُ کا، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں

وَأَمْتَّازُوا الْيَوْمَ أَيَّهَا الْمَجْرِمُونَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: وَاو استینافیہ امْتَّازُوا فعل با وَا ضمیر فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ سے مل کر جواب نداء مقدم أَيَّهَا الْمَجْرِمُونَ اصل میں يَا أَيُّهَا الْمَجْرِمُونَ ہے، یاء حرف نداء قائم مقام اَدْعُوْا کے، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر فاعل اَنْیُ موصوف ہا برائے حمیہ الْمَجْرِمُونَ صفت، موصوف با صفت مَعْلًا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ نداء مؤخر، نداء با جواب نداء مقلوبہ ہے قول محذوف يَقُولُ اللّٰهُ لَهُمْ کا، یا جملہ متانفہ ہے، قول با مقلوبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

الْمَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يُبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۰﴾

أَنْ اَعْبُدُوْنِي ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾

آیت نمبر ۶۰، ۶۱: هَمْزہ استفہامیہ لَمْ اَعْهَدَ فعل اَنَا مستتر فاعل اِلَيْكُمْ متعلق سے مل کر جواب نداء مقدم، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر فاعل یُبْنَىٰ اَدَمَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر نداء مؤخر، نداء با جواب نداء مفسر، اَنْ حرف تفسیر، لَا تَعْبُدُوا فعل وَاو ضمیر فاعل الشَّيْطَانَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اَنْ حرف تفسیر اَعْبُدُوا فعل امر وَاو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر، مفسر با مفسر امْتَّازُوا کی تعلیل ہے (منظہری) اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لَكُمْ کائِن کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا، هٰذَا اسم اشارہ مبتدا، صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں (منظہری)

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۲: وَاو استینافیہ لَمْ اَضَلَّ لام موطئہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقیق اَضَلَّ فعل هُو مستتر فاعل مِنْكُمْ متعلق جِبِلًّا کثیرا امرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں هَمْزہ حرف استفہام قَاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لَا تَتَفَكَّرُونَ، لَمْ تَكُونُوا فعل ناقص وَاو ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُونَ فعل با وَاو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: هٰذِهِ اسم اشارہ مبتدا، جَهَنَّمُ موصوف الَّتِي اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تُوعَدُونَ

فعل مجہول باوایضیر نائب قائل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازعہ ہوں

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: اصْلَوْهَا فعل امر واو ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ الْيَوْمَ مفعول فیہ بآء حرف جہد ما مصدریہ کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: الْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم نَخْتِمُ فعل نَحْنُ مستتر قائل علیٰ أَفْوَاهِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُكَلِّمُ فعل نا ضمیر قائل اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَشْهَدُ فعل اَرْجُلُهُمْ مرکب اضافی قائل بآء حرف جہد ما مصدریہ کَانُوا يَكْسِبُونَ فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جہد با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متنازعہ ہوں

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: واو عاطفہ لَوْ شرطیہ نَشَاءُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ لَطَمَسْنَا فعل نا ضمیر قائل علیٰ أَعْيُنِهِمْ جہد با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اسْتَبَقُوا فعل واو ضمیر قائل الصِّرَاطَ مفعول فیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فاء عاطفہ أَنَّىٰ بمعنی کَیْفَ کَاثِبِينَ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم یُبْصِرُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۶: واو عاطفہ لَوْ شرطیہ نَشَاءُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ مَسَخْنَاهُمْ فعل نا ضمیر قائل ہم ضمیر مفعول بہ علیٰ مَكَانَتِهِمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ مَا نافیہ اسْتَطَاعُوا فعل واو ضمیر قائل مُضِيًّا مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لَا يَرْجِعُونَ فعل باوایضیر قائل معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں

●●● رُكُوعٌ نُمْبَرٌ ۵ ●●●

وَمَنْ يُعَظِرْكَ نُتَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: واو استثنائیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، نُعَظِرْكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نُتَكِّسْكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل ضمیر مفعول بہ فی الْخَلْقِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر،

ابتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ہمزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے (لَا يَعْلَمُونَ، لَا يَعْقِلُونَ) فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

آیت نمبر ۶۹: واو استینافیہ ما نافیہ عَلَّمْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اِذْلَ الشِّعْرِ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما نافیہ یَنْبَغِي فعل ہو مستتر فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔ اِنْ نافیہ ہو ضمیر مبتدا، اَلْا حَرْف استثناء ذِکْرٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ قُرْآنٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

آیت نمبر ۷۰: لام جارہ تعلیلیہ يُنذِرُ فعل ہو مستتر فاعل مَنْ اسم موصول كَانَ فعل ناقص ہو مستتر اسم حَيًّا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَحِقُّ فعل الْقَوْلُ فاعل عَلَى الْكَافِرِينَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل مخدوف اَرْسَلْنَا الرَّسُولَ کے... الخ۔

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

آیت نمبر ۷۱: ہمزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے يُنْكِرُونَ خَلَقَ اللّٰهُ لَمْ يَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ جار با مجرور متعلق مِنْ جَارِہ مَا اسم موصول عَمِلَتْ فعل اَيْدِينَا مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور كَانَتْ کے متعلق ہو کر حال مقدم اَنْعَامًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خَلَقْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف هُمْ ضمیر مبتدا، مَالِكُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل لَهَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ يَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۗ أَفَلَا

يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

آیت نمبر ۷۲، ۷۳: واو عاطفہ ذَلَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقْنَا بہ معطوف ہے۔ فاء تفریعیہ مِنْهَا جار با مجرور كَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم رَكُوبُهُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَأْكُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْهَا متعلق مقدم سے مل کر معطوف اِذْلَ، واو عاطفہ لَهُمْ جار با مجرور كَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِيهَا جار با مجرور كَانَتْ کے متعلق ہو کر حال مقدم مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال

باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔ ہمزہ حرف استفہام قاء حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے یُنْكَرُونَ، لَا يَشْكُرُونَ فعل باو، ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ انشائیہ ہوں۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَتَّخَذُوا (مظہری) اتَّخَذُوا فعل باو، ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ جملہ با مجرور مفعول بہ ثانی کی جگہ میں ہے الْإِلَهَةَ مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔ لَعَلَّ حرف ترحی ہُم ضمیر اس کا اسم یُنصَرُونَ فعل مجہول باو، ضمیر نائب فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترحیہ حال ہے اتَّخَذُوا کی ضمیر فاعل سے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل باو، ضمیر ذوالحال واو، حال ہے هُمْ ضمیر مبتدا، لَهُمْ جملہ با مجرور کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل نَصْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَلَا يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ رَأَيْنَا نَعَلْمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۶: قاء نصیرہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا سَمِعْتَ الْوَعِيدَ لِلْكَافِرِينَ (مظہری) لَا يَخْرُجُكَ فعل ثانی کاف ضمیر مفعول بہ قَوْلُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نَعَلْمُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَا اسم موصول يُسْرُونَ فعل باو، ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول يُعْلِنُونَ فعل باو، ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۴۷﴾

آیت نمبر ۴۷: ہمزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے يُنْكَرُ الْإِنْسَانُ، قَدَّرْنَا عَلَى الْإِعَادَةِ لَمْ يَرَ فعل الْإِنْسَانُ فاعل اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ مِنْ نُطْفَةٍ جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر لَمْ يَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف اول، قاء عاطفہ اِذَا مانجا تہ مفعول فیہ مقدم هُوَ ضمیر مبتدا، خَصِيمٌ مُّبِينٌ مبین مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانفہ انشائیہ ہوں۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿۴۸﴾

آیت نمبر ۷۸: واؤ عاطفہ ضمرب فعل ہو مستتر فاعل لنا متعلق مفعلاً مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ نسیء فعل ہو مستتر فاعل خَلَقَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں قَالَ فعل باہو مستتر فاعل قول، مَن اسم استفہام مبتدا، یُحییٰ فعل ہو مستتر فاعل الْعِظَامَ ذوالحال واؤ حالیہ ہی رَمِیمٌ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یُحییٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: قُلْ فعل امر اِنَّتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، یُحییٰ فعل ہا ضمیر مفعول بہ الَّذِي اسم موصول اَنْشَأَ فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ مَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، بآء جاہدہ کُلِّ خَلْقٍ مرکب اضافی مجرور، جاہدہ مجرور متعلق مقدم عَلِيمٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ یُحییٰ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ جاہدہ مجرور عملاً منصوب مفعول بہ ثانی مقدم مِنَ جادہ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مرکب توصیفی مجرور، جاہدہ مجرور کا کِنَّتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم نَارًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول اَوَّل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اِذَا مفاعلیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تُوقِدُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل مِنْهُ متعلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ بدل ہے الَّذِي سے جو اوپر مذکور ہے۔

أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: ہمزہ حرف استفہام واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَيْسَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، لَيْسَ فعل ناقص الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ لَيْسَ کا اسم، بآء حرف جاہدہ قَادِرٌ اسم فاعل ہو مستتر فاعل عَلَىٰ جاہدہ اَنْ ناصبہ یَخْلُقَ فعل ہو مستتر فاعل مِثْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاہدہ مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ لفظاً مجرور عملاً منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ انشائیہ ہوں بلی حرف ایجاب واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے ہو قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (مظہری) ہو ضمیر مبتدا، الْخَلْقُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: ان حرف تحقیق ما کا نام مصدر مضاف ہے ضمیر مضاف الیہ معنی قائل إذا مضاف أراد فعل ہو مستتر قائل شئیًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہو مصدر کا، مصدر مضاف با مضاف الیہ معنی قائل و مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، ان ناصب یقول فعل ہو مستتر قائل کہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کن فعل امر ہم آتے مستتر قائل سے مل کر مقولہ، قول یا مقولہ بتاویل مصدر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ یكون فعل مضارع ہو مستتر قائل سے مل کر خبر ہے مبتدا مخدوف ہو کی، مبتدا یا خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بَیْدَہٗ مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: فاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے إذا عَلِمْتُمْ قُدْرَةَ اللّٰهِ الْمَذْکُورَةَ الْاَلِیْفَةَ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اسم موصول بیدہ جدا بحر و رکابتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ تُرْجَعُوْنَ فعل مجہول با واد ضمیر نائب قائل اِلَیْہِ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق ہے فعل مخدوف سَبِّحُوْا کا، سَبِّحُوْا فعل امر با واد ضمیر قائل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

ترکیب سُورَةِ الصَّفَاتِ

● رُكُوعٌ نَمْبِرًا ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالصَّفَاتِ صَفًا ۝ فَالزُّجَرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِيَّتِ
ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵: واؤ تسمیہ جارہ الصَّفَاتِ اسم فاعل ہی مستتر فاعل صَفًا مفعول مطلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ الزُّجَرَاتِ اسم فاعل ہی ضمیر مستتر فاعل زَجْرًا مفعول مطلق سے مل کر معطوف اول، فاء عاطفہ التَّلِيَّتِ اسم فاعل ہی مستتر فاعل ذِكْرًا مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اُقْسِمُ کے، اُقْسِمُ فعل اتا مستتر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسم، اِن حرف تحقیق اِلَهُكُمْ مرکب اضافی اس کا اسم لامر مذ حلقہ واحد خبر اول، رَبُّ مضاف السَّمَوَاتِ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَلْأَرْضِ معطوف اول، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ رَبُّ الْمَشَارِقِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ثانی، اِن با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ تسمیہ ہوں

إِنَّا زَيْنَةً لِّلذُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۝ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

آیت نمبر ۶، ۷: اِن حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم زَيْنَةً فعل نَا ضمیر فاعل السَّمَاءِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مفعول بہ، بَاء جارہ زَيْنَةً مبدا منہ الْكَوَاكِبِ بدل، مبدا منہ ہا بدل مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ حِفْظًا مفعول مطلق ہے فعل محذوف حِفْظًا کا، مین جارہ كُلِّ مضاف شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

لَا يَسْتَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا ۝ لَهُمْ عَذَابٌ
وَاصِبٌ ۝

آیت نمبر ۸، ۹: لَا يَسْتَعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يُقَذَّفُونَ فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل مِنْ جَانِبٍ مرکب اضافی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے دُحُورًا مفعول لہ ہے یا يُقَذَّفُونَ کی ضمیر سے حال ہے بمعنی مَذْحُورِينَ ہو کر یا مفعول مطلق ہے مین غیر لفظ، فعل مجهول نائب فاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَهُمْ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ وَاصِبٌ مرکب توصیفی مبتدا موخر، مبتدا با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩

آیت نمبر ۱۰: الْأَرْفِ اسْتَمَاءٌ مِّنْ أَسْمَاءِ مَوْصُولٍ خَطِفَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ مَّفْعُولٌ مَّطْلُوقٌ سَلَّمَ كَرَجَلِهِ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِفَاءٍ عَاطِفَةٍ أَتْبَعَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَّفْعُولٌ بِهِ شِهَابٌ ثَاقِبٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ صِلَةٍ مَوْصُولٍ بِصِلَةٍ مُسْتَشْبِهٌ لَيْسَ يَسْمَعُونَ كِي وَهُوَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلَّمَ

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ⑪

آیت نمبر ۱۱: فَاءٌ نَصِيرَةٌ أَوْ رَأْسٌ كِي شَرْطٌ مَّخْذُوفٌ بِإِنْ شِئْتَ أَنْ تُبَكِّتَهُمْ، اسْتَفْتَيْتَ فَعْلٌ أَمْرٌ أَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ فَاعِلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَّفْعُولٌ بِهِ سَلَّمَ كَرَجَلِهِ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ هُمُ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ، أَشَدُّ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُمُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ خَلْقًا تَمِيْزٌ سَلَّمَ كَرَجَلِهِ جُمْلَةٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ انْتِزَاعِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، أَمْ عَاطِفَةٌ مِّنْ أَسْمَاءِ مَوْصُولٍ خَلَقْنَا فَعْلٌ تَأْضِيفِيٌّ فَاعِلٌ سَلَّمَ كَرَجَلِهِ، مَوْصُولٌ بِصِلَةٍ مُبْتَدَأٌ، أَوْ رَأْسٌ كِي خَبْرٌ مَّخْذُوفٌ بِهٖ أَشَدُّ خَلْقًا، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٌ هُوَ، إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ تَأْضِيفِيٌّ أَسْمَاءِ مَوْصُولٍ فَاعِلٌ تَأْضِيفِيٌّ فَاعِلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَّفْعُولٌ بِهِ مَن جَدُّ طِينٍ لَّازِبٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ خَبْرٌ بِأَنْ بِأَسْمَاءِ مَوْصُولٍ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫

آیت نمبر ۱۲: بَلْ حَرْفٌ اِضْرَابٌ وَعَطْفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ هُمُ لَآيِقُونَ مَعْجَبَةٌ فَعْلٌ تَاءٌ مُفْتَوحةٌ ذَوَالْحَالِ وَآوَاءٌ حَالِيَّةٌ يَسْخَرُونَ فَعْلٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ، مَّخْذُوفٌ هُمُ كِي، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسْمَاءِ خَبْرِيَّةٍ حَالٍ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ فَاعِلٍ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٌ هُوَ

وَإِذَا ذُكِرُوا لِآيَاتِنَا يَكْفُرُونَ ⑬

آیت نمبر ۱۳: وَآوَاءٌ عَاطِفَةٌ إِذَا شَرْطِيَّةٌ مَّفْعُولٌ فِيهِ مُقَدَّمٌ ذُكِرُوا فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ تَأْضِيفِيٌّ فَاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ، لَآيَاتِنَا كُفْرًا فَعْلٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ جُزْءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ⑭

آیت نمبر ۱۴: وَآوَاءٌ عَاطِفَةٌ إِذَا شَرْطِيَّةٌ مَّفْعُولٌ فِيهِ مُقَدَّمٌ رَأَوْا فَعْلٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ فَاعِلٌ آيَةً مَّفْعُولٌ بِهِ سَلَّمَ كَرَجَلِهِ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ، يَسْتَسْخِرُونَ فَعْلٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ جُزْءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮

آیت نمبر ۱۵: وَآوَاءٌ عَاطِفَةٌ قَالُوا فَعْلٌ بِأَوَاءِ ضَمِيرٍ فَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ بِأَنْ نَافِيَةٌ هَذَا اسْمٌ أَشَدُّ مُبْتَدَأٌ، إِلَّا حَرْفٌ اسْتِمَاءٌ سِحْرٌ مُّبِينٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسْمَاءِ خَبْرِيَّةٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

عَازًا مِثْنًا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑯ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑰ قُلْ نَعْمَ وَ

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: واو عاطفہ ما تانیہ کان فعل ناقص لَنَا جاد باجرور کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَلَیْكُمْ جاد باجرور کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ جادہ زائدہ سُلْطٰن ملامر فروع ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص ہَا اسْم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ بَل حرف اضراب ابطالی کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم قَوْمًا کائنا غین مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص ہَا اسْم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۙ اِنَّآ لَذٰلِكَ اَبْقٰوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: فاء حرف عطف حَقَّ فعل عَلَيْنَا جاد باجرور متعلق ہوئے قَوْلُ رَبِّنَا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم، لَامِ ذَلْکَ اَبْقٰوْنَ اسم فاعل نَحْنُ مشترک فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ ہَا اسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

فَاَعْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۲: فاء حرف عطف اَعْوَيْنَا فعل نَا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اسم غَوِيْنَ خبر سے مل کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ ہَا اسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

فَاَنهَمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۳: فاء نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے اِنَّ شَيْئًا اَنْ تَعْرِفَ مَا لَ الرَّؤُوسَاۗءِ وَاَلْاَنْبَاۗءِ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم يَوْمَئِذٍ کائینین کا مفعول فیہ ہو کر حال ہے هُمْ ضمیر سے مُشْتَرِكُوْنَ اسم فاعل هُمْ مشترک فاعل فی الْعَذَابِ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ ہَا اسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۴: اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم كَذٰلِكَ جاد باجرور کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فَعَلَا کے مفعول مطلق مقدم نَفْعَلُ فعل نَحْنُ مشترک فاعل بِالْمُجْرِمِيْنَ متعلق سے مل کر خبر، اِنَّ ہَا اسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

اِنَّهٗمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتٰرِكُوْۤا

الِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

آیت نمبر ۳۵، ۳۶: اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم كَانُوْۤا فعل ناقص وَاو ضمیر اس کا اسم يَسْتَكْبِرُوْنَ فعل باوَاو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقُوْلُوْنَ فعل باوَاو ضمیر فاعل قول، هَمْ ذَا حرف استفہام اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم لَامِ ذَلْکَ تَارِكُوْۤا اِلِهَتِنَا مرکب اضافی اِنَّ کی خبر ہے لَامِ جادہ شَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور تَارِكُوْۤا کے متعلق ہے،

إِنَّ بِاسْمٍ وَخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قولہ بمقولہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف کائناتوا کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبران کی خبر، إِنَّ بِاسْمٍ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا، اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قَبِيلَ فَعْلٍ مجہول ہو مستتر نائب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مقولہ ہے قَوْلُوا محذوف کا، قولہ بمقولہ قول ہے اِذَا قَبِيلَ کا، قولہ بمقولہ شرط ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے یَسْتَكْبِرُونَ جس پر مذکورہ بالا یَسْتَكْبِرُونَ دلالت کر رہا ہے۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: بَلْ حرف اضرب ابطال جَاءَ فعل با هو مستتر فاعل بِالْحَقِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَدَقَ فعل هو مستتر فاعل الْمُرْسَلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستانفہ ہوں

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: إِنَّ حرف تحقیق كُمْ ضمیر اس کا اسم لامر مذ طلقت ذَائِقُوا اسم فاعل مضاف الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ معنی مفعول بہ، اسم فاعل مضاف بمضاف الیہ خبر، إِنَّ بِاسْمٍ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو عاطفہ مَا تَانِيَةً تُجْزَوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل إِلَّا حرف استثناء مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ مثنوی، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ مثنوی جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: إِلَّا حرف استثناء عِبَادَ اللَّهِ مرکب اضافی موصوف الْمُخْلِصِينَ صفت، موصوف بہ صفت مستثنیٰ ہے تُجْزَوْنَ کی واو ضمیر سے۔

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴۱﴾ فَوَاكِهُ ؕ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۴۲﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۴۳﴾
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۵﴾ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶: أُولَئِكَ اسم اشارة مبتدا، لَهُمْ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم رِزْقٌ مَّعْلُومٌ مرکب توصیفی مبدل منہ فَوَاكِهُ بدل الكل، مبدل منہ بادل مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، مُكْرَمُونَ اسم مفعول هُمْ مستتر نائب فاعل فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے مُتَقَابِلِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل عَلَى سُرُرٍ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہے مُكْرَمُونَ کے نائب فاعل سے، مُكْرَمُونَ اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق شبہ جملہ موصوف يُطَافُ فعل مجہول عَلَيْهِمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، بَاء حرف جاد کائیں موصوف مِّنْ مَّعِينٍ جاد با مجرور کائیں کے متعلق ہو کر صفت اول، بِيضَاءَ صفت ثانیہ لَذَّةٍ

موصوف للشاریین جلد باجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر لَدَّیَا کی صفت، موصوف باصفت کائس کی صفت ثالث، موصوف باصفت ثلاث مجرور، جلد باجرور یطاف کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ مکتومون کی صفت، موصوف باصفت هم کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوں۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۳۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطُّرْفِ عَيْنٌ ﴿۳۸﴾ كَانْتِهَنَّ بَيِّضٌ مَكْنُونٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۷، ۳۸، ۳۹: لَا نَافِيهَ فِيهَا اطرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم غَوْلٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَافِيهَ هُمْ ضمیر مبتدأ، يُنْزَفُونَ فعل مجہول با واو ضمیر نائب فاعل عَنْهَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف اول، واو عاطفہ عِنْدَهُمْ مرکب اضافی کائنتات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، قَصِرَاتُ الطُّرْفِ مرکب اضافی موصوف عَيْنٌ صفت اولی کائنتات حرف تشبیہ هُنَّ ضمیر اس کا اسم بَيِّضٌ مَكْنُونٌ مرکب توصیفی خبر، کَانَ با اسم و خبر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائس کی صفت رابعہ ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ مَرْكَبٌ اضافی ذوالحال اَقْبَلَ فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال يَتَسَاءَلُونَ فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال فاعل عَلَى بَعْضٍ جلد باجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے يَطَافُ... الخ ہے۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۴۱﴾ يَقُولُ أَبُنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۴۲﴾

آیت نمبر ۴۱، ۴۲: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کائون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت فاعل، فعل با فاعل قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم کَانَ فعل ناقص لی جلد باجرور کائنتات کے متعلق ہو کر خبر مقدم قَرِينٌ موصوف يَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، همزہ حرف استفہام اِنَّ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لامر مذ حلقہ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ جلد باجرور کائون کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ قَرِينٌ کی صفت، موصوف باصفت کَانَ کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

عَرَاذًا مِّثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَّا عَرَانَا لَمَدِيْنُونَ ﴿۴۳﴾

آیت نمبر ۴۳: همزہ حرف استفہام اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مِثْنًا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اسم تَرَابًا وَعِظًا مَّا معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، همزہ حرف استفہام اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لامر مذ حلقہ مَدِيْنُونَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر نائب فاعل سے مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مَّظْلَعُونَ ﴿۴۴﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۶۲: ہمزہ حرف استفہام ذلک اسم اشدہ مبتدأ، خَیْرُ اس تفضیل ہو مستتر فاعل نُزُلًا تیز سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، امر عاطفہ شَجَرَةُ الرَّقْمِ مرکب اضافی مبتدأ، اور اس کی خبر محذوف ہے خَیْرُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۳: اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ اول فِتْنَةً موصوف للظَّالِمِينَ جار مجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین، خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿۶۳﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۳، ۶۴: اِن حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم شَجَرَةٌ موصوف تَخْرُجُ فعل ہی مستتر فاعل فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت اولیٰ، طَلْعُهَا مرکب اضافی مبتدأ، کَانَ حرف تشبیہ ضمیر اس کا اسم رِئُوسُ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی خبر کَانَ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت دوم، موصوف با صفتین اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَكُم مِّنْهَا الْبُطُونِ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۶: فاء تعلیلیہ اِن حرف تحقیق ہُم ضمیر اس کا اسم لَامِذ حلقہ اِکُونُ اسم فاعل ہُم مستتر فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ مَا لَكُم مِّنْهَا اسم فاعل ہُم مستتر فاعل مِنْهَا متعلق الْبُطُونِ مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطہ ہوں۔

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ﴿۶۵﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِآلِ الْجَحِيمِ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۵، ۶۶: ثُمَّ حرف عطف اِن حرف تحقیق لَهُمْ ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَلَيْهَا جار مجرور کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم لَامِذ حلقہ شَوْبًا مصدر مِّنْ حَيْمٍ جار مجرور مصدر کے متعلق ہوئے (مظہری) مصدر با متعلق ذوالحال مؤخرہ ذوالحال باحال اسم مؤخر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اِن حرف تحقیق مَرْجِعَهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم، لَامِذ حلقہ اِلَى الْجَحِيمِ جار مجرور کَائِنِ کے متعلق ہو کر خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

إِنَّهُمْ أَلْفَاؤُا أَبَاءَهُمْ صَّالِينَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۹: اِن حرف تحقیق ہُم ضمیر اس کا اسم اَلْفَاؤُا فعل واو ضمیر فاعل اَبَاءَهُمْ مرکب اضافی منقول بہ اول، صَّالِينَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطہ ہوں (کفارہ مختلف عذاب آنے کی تعلیل ہے)

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: فَاء عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدا، يُهْرَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل علی آثارہم متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾

آیت نمبر ۴۱، ۴۲: واو استینافیہ لام موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقیق ضَلَّ فعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی اکْثَرُ الْأَوَّلِينَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، واو عاطفہ لام موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقیق أَرْسَلْنَا فعل نَا ضمیر فاعل فِيهِمْ متعلق مُنْذِرِينَ مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہو۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۳﴾

آیت نمبر ۴۳: فاء فیسمہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْحَالُ مَا مَرَّ، انظُرْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل كَيْفَ كَانَتْ كَانَتْ مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم کَانَ فعل ناقص عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ مرکب اضافی اسم مؤخر کَانَ با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ملامت منسوب انظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: إِلَّا حرف استثناء بمعنی لکن کیونکہ یہ استثناء منقطع ہے عِبَادَ اللَّهِ مرکب اضافی موصوف الْمُخْلَصِينَ صفت، موصوف ہفت مستثنیٰ منقطع ہے۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: واو استینافیہ لام موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل نَادَى فعل نَا ضمیر مفعول بہ نُوْحٌ فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، فاء عاطفہ لام موطنہ للقسَم اور قسم محذوف ہے نِعْمَ فعل مدح الْمُجِيبُونَ فاعل سے مل کر خبر مقدم، اور مخصوص بالمدح مبتدا محذوف ہے نُوْحٌ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہو۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۶﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۴۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۴۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾

آیت نمبر ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹: واو عاطفہ نَجَّيْنَاهُ فعل نَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، واو بمعنی مَعَ الْاَهْلَهُ مرکب اضافی مفعول مدح، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مرکب توصیفی مجرور، جاد مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،

واو عاطفہ جَعَلْنَا فَعْلًا تَصْمِيرًا فاعِلٌ ذُوْ قِيَمَةٍ مُرَكَّبٌ اِضْطِنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَوَّلُهُ تَصْمِيرٌ فَصَلِّ الْبَاقِيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ ثَانِيًا، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ مَعْطُوْفٌ اَوَّلٌ، واو عاطفہ تَوَكَّرْنَا فَعْلًا تَصْمِيرًا فاعِلٌ عَلَيْهِ جَدُّ بَاجِرٌ وَرَكَاتِنَاكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَبْوَسَطٍ مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ ثِنْتَاكَ مَعْفُوْلٌ بِهٖ، فِي الْاٰخِرِيْنَ جَدُّ بَاجِرٌ مَتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَفْسَّرٌ سَلَّمَ مَبْتَدَاً (اس میں دعا کا معنی ہے اس لئے نکرہ کا مبتدا ہونا جائز ہے) عَلٰی نُوْحٍ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَاثِنٌ كَا مَتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ فِي الْعَالَمِيْنَ مَتَعَلِّقٌ ثَانِيًا، اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاٰوٍ مَسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقِيْنَ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَفْسَّرٌ، مَفْسَّرٌ بِاِسْمٍ مَعْطُوْفٌ ثَانِيًا، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْمٍ مَعْطُوْفِيْنَ پھر ناکاوی پر معطوف ہے۔

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۰

آیت نمبر ۸۰: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ تَصْمِيرًا اِسْمٌ كَا اِسْمٌ كَذٰلِكَ جَدُّ بَاجِرٌ وَرَكَاتِنَاكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَبْوَسَطٍ مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ جَزَاآءٌ كَا مَفْعُوْلٌ مَطْلُوقٌ مَقْدَمٌ نَجْزِيْ فَعْلٌ نَحْنُ مَسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ الْمُحْسِنِيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَمَفْعُوْلٌ مَطْلُوقٌ مَقْدَمٌ سَعْلٌ كَرَبْرٍ اِنَّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلُوقَةٌ هُوَل

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱

آیت نمبر ۸۱: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ تَصْمِيرًا اِسْمٌ كَا اِسْمٌ مِنْ جَدِّ عِبَادِنَا مُرَكَّبٌ اِضْطِنَ مَوْصُوْفٌ الْمُؤْمِنِيْنَ صِفَتٌ، مَوْصُوْفٌ بِصِفَتٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ وَرَكَاتِنَاكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَبْرٍ اِنَّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلُوقَةٌ هُوَل

ثُمَّ اَعْرَفْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۲

آیت نمبر ۸۲: ثُمَّ حَرْفٌ عَطْفٌ اَعْرَفْنَا فَعْلٌ تَصْمِيرًا فَاعِلٌ الْاٰخِرِيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعْلٌ كَرَبْرٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ هُوَل

وَ اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهٖ لَابْرٰهِيْمَ ۝۱۳

آیت نمبر ۸۳: واو استثنائیہ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ مِنْ شَيْعَتِهٖ كَاثِنٌ كَا مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَبْرٍ مَقْدَمٌ، لَا مَرْمُزٌ حَلْقَةٌ اِبْرٰهِيْمًا اِسْمٌ مَوْخَرٌ اِنَّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَقَرٌّ هُوَل

اِذْ جَاءَ رَبُّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝۸۴ اِذْ قَالَ لِاٰبِيْهٖ وَ قَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝۸۵

آیت نمبر ۸۴، ۸۵: اِذْ ظَرْفٌ زَمَانٌ مَضِيٌّ جَاءَ فَعْلٌ رَبُّهٗ مُرَكَّبٌ اِضْطِنَ فَاعِلٌ بَاءٌ جَدُّ قَلْبٍ سَلِيْمٍ مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَل، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَضِيٌّ اِلَيْهِ، مَضِيٌّ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَبْدَلٌ مِنْهُ، اِذْ مَضِيٌّ قَالَ فَعْلٌ هُوَل مَسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ لَا مَرْمُزٌ اِبْنُ مَرَكَّبٌ اِضْطِنَ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، واو عاطفہ قَوْمِهٖ مُرَكَّبٌ اِضْطِنَ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِسْمٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ مَتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، مَاذَا اِسْمٌ اسْتِفْهَامٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مَقْدَمٌ تَعْبُدُوْنَ فَعْلٌ بَادَاؤٌ تَصْمِيرًا فَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ مَقْدَمٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ اِذْ كَا مَضِيٌّ اِلَيْهِ، مَضِيٌّ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ پَهْلے اِذْ سَعْلٌ مَبْدَلٌ مِنْهُ بِاِبْدَالٍ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ، فَعْلٌ مَحْذُوْفٌ اِذْ كَرَبْرٍ كَا، اِذْ كَرَبْرٍ فَعْلٌ اِنَّتَ مَسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ فِيْهِ سَعْلٌ كَرَبْرٍ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هُوَل

أَيْفَا إِلَهَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: ہمزة حرف استفہام اِفْکًا مفعول له مقدم الیہ موصوف دُونَ اللہ مرکب اضافی کائتہ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ مقدم تُرِيدُونَ فعل باوآء ضمیر فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہوں۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: فاء عاطفہ مآسم استفہام متدا، ظن مصدر مضاف کم ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جار باجورد متعلق، پھر یہ خبر ہے، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف ہوں۔

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: فاء عاطفہ نَظَرَ فعل ہو مستتر فاعل نَظْرَةً مفعول مطلق فی النُّجُومِ متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوں۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: فاء عاطفہ قَالَ فعل باہو مستتر فاعل قول، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم سَقِيمٌ خبر اِن با م و خبر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: فاء عاطفہ تَوَلَّوْا فعل واؤ ضمیر ذوالحال مُدْبِرِينَ حال، ذوالحال باحال فاعل عَنْهُ جار باجورد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَرَاغَ إِلَى إِلَهُهِمْ فَقَالَ آلا تَأْكُلُونَ ﴿۹۱﴾

آیت نمبر ۹۱: فاء عاطفہ رَاغَ فعل ہو مستتر فاعل إِلَى إِلَهُهِمْ جار باجورد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَالَ فعل با ہو مستتر فاعل قول، ہمزة حرف استفہام آلا تَأْكُلُونَ فعل باوآء ضمیر فاعل مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲: ما اسم استفہام مبتدا لام جارہ کم ضمیر ذوالحال لَا تَنْطِقُونَ فعل باوآء ضمیر فاعل حال، ذوالحال باحال مجرور، جار باجورد کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہے قَالَ اِبْرَاهِيمُ قول مخدوف کا۔

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: فاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يُجِيبُوا، رَاغَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں ضَرْبًا مفعول مطلق ہے فعل مخدوف يَضْرِبُ کا، اور بِالْيَمِينِ يَضْرِبُ کے

متعلق ہے پھر یہ جملہ سماع کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: فَاء عاطفہ اَقْبَلُوا فعل واو ضمیر ذوالحال يَزْفُونَ فعل باواو ضمیر فاعل حال، ذوالحال باحال فاعل إِلَيْهِ جملہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿۹۴﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۴، ۹۵: قَالَ فعل هو مستتر فاعل همزة حرف استفہام تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ اللہ مبتدأ، خَلَقَ فعل هو مستتر فاعل کم ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر حال، ذوالحال باحال تَعْبُدُونَ کا فاعل مَا اسم موصول تَنْحِتُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۹۶﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۹۷﴾

آیت نمبر ۹۶، ۹۷: قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ابْنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لہ متعلق بُنْيَانًا مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ مقام عاطفہ اَلْقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ فی الْجَحِيمِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَرَادُوا فعل واو ضمیر فاعل یہ متعلق، كَيْدًا مفعول بہ سے مل کر پھر معطوف علیہ، مقام عاطفہ جَعَلْنَاهُمْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، الْأَسْفَلِينَ مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالُوا پھر معطوف ہے۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۸: واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَخَرَجَ مِنَ النَّارِ سَالِمًا، قَالَ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قول، إِنِّي حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم ذَاهِبٌ اسم فاعل اَنَا مستتر فاعل اِلَىٰ رَبِّي متعلق سے مل کر خبر، إِنِّي با اسم و خبر مقولہ، قول با مفعول معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔ سیدین علامت فعل یَهْدِينِ فعل هو مستتر فاعل نون برائے وقایہ، یاء ضمیر مخدوف مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ یا مستانہ ہوں۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: رَبِّ دراصل یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے هَبْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لی جملہ باجرور متعلق مِنَ الصَّالِحِينَ ظرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف سو لگا کے مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جواب ندا، ندا با جواب ندا مقولہ ہے قول مخدوف قَالَ اِبْرَاهِيمُ کا۔

فَبَشِّرْهُ بِعَلْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: فاء عاطفہ بَشِّرْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ بَاء جارہ عَلْمٍ حَلِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ لِبَنِيِّ إِنيَ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِي اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ
قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: فاء استثنائیہ لَمَّا ظرف زمان، متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم بَلَغَ فعل ہو مستتر فاعل مَعَهُ مرکب اضافی کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، اَلسَّعْيِ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین شرط، قَالَ فعل باهو مستتر فاعل قول، یَاء حرف ندما اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل اَنَا مستتر فاعل یُنَوِّیْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر ندما، اِنَّ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم، اَرَى فعل اَنَا مستتر فاعل فی الْمَنَامِ جارہ مجرور متعلق ہوئے، اَنَّ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم اَذْبَحُكَ فعل اَنَا مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتادیل مفرد اَرَى کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ خبر، اَنَّ با اسم و خبر جواب ندما، ندما با جواب ندما مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فاء نصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مَا اِذَا اسم استفہام مفعول بہ مقدم تَرَى فعل اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر محلاً منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں قَالَ فعل با هو مستتر فاعل قول، یَا بَتِ فعل اصل میں یَا اَبی ہے اور یہ ندما ہے اَفْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مَا اسم موصول یُوْمَرُ فعل مجہول اَنْتَ مستتر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب ندما، ندما با جواب ندما مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولسیدین علامت فعل تَجِدُنِيْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لَوْنِ برائے وقایہ، یَاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ جارہ مجرور مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، فعل بافاعل و مفعولین دال بر جزاء اِنْ شَاءَ فعل اَللّٰهُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط اپنے دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَ تَلَّهٖ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۳﴾ وَ نَادَيْنَهُ اَنْ يَّا بُرْهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا يَا اِنَّا

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۳: فاء عاطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَسْلَمَا فعل با الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَلَّكَ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر ذوالحال لِلْجَبِيْنِ کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، اور اس کی جزاء مخدوف ہے مَنَعْنَا عَنْهُ الذَّبْحَ، واو عاطفہ نَادَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مفسر، اَنَّ حرف تفسیر، یَاء حرف ندما قائم مقام اَدْعُوْكَ کے، اَدْعُوْكَ فعل اَنَا ضمیر فاعل اِبْرٰهِيْمُ محلاً

منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و منقول بہ نداء، قَدْ حرف تحقیق صَدَقَتْ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل اَلرُّؤْيَا منصوب تقدیر مفعول بہ سے مل کر جواب نداء، نداء باجواب نداء مفسر، مفسر با مفسر معطوف ہے جزاء مخدوف پر۔ (منظری) اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم، کَذَلِكَ جار باجر ر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف جزاء کے مفعول مطلق مقدم، نَجْزِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ سے مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطیہ ہوں۔ (ابراہیم علیہ السلام پر احسان کرنے کی تعلیل ہے)

اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: اِنَّ حرف تحقیق هَذَا اسم اشارہ اس کا اسم، لَامِ مَذْحِقَةٍ ضمیر مبتداء الْبَلَاءُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَقَدَيْنَهُ بِذِيحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹: وَاوْعَاطَفَهُ قَدَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ بَاءُ جَارِهِ ذِيحٍ عَظِيمٍ مرکب توصیفی خبر، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوْعَاطَفَهُ تَرَكَ تَرَكَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی ترکیب اِہْوَی رُكُوعِ میں گزری ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف پھر تَرَكَ تَرَكَ عَلَيْهِ ہے، سَلَّمَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ هَذَا الْقَوْلِ کی تاویل میں ہو کر تَرَكَ تَرَكَ عَلَيْهِ کا مفعول بہ ہے۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کی ترکیب چند سطریں پہلے گزری ہے۔

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱۱: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کی ترکیب اسی رُكُوعِ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَبُرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا

مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾

آیت نمبر ۱۱۲، ۱۱۳: وَاوْعَاطَفَهُ بَشَّرْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بَاءُ جَارِهِ إِسْحَاقَ ذُو الْحَالِ نَبِيًّا مَوْصُوفٍ مِّنَ الصَّالِحِينَ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت حال، ذُو الْحَالِ بِأَحَالٍ مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوْعَاطَفَهُ بَارَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ جار باجر و متعلق علیہ، وَاوْعَاطَفَهُ عَلَىٰ إِسْحَاقَ جار باجر و متعلق، معطوف علیہ با معطوف متعلق، فعل بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں وَاوْعَاطَفَهُ مِنْ جَارِهِ ذُرِّيَّتِهِمَا مرکب اضافی مجرور، جار باجر و ر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُحْسِنٌ معطوف علیہ، وَاوْعَاطَفَهُ ظَالِمٌ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل لِنَفْسِهِ متعلق سے مل کر موصوف مُبِينٌ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

آیت نمبر ۱۲۳: اِذْ مَضَىٰ قَالَ فَعَلْ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ لِقَوْمِهِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَقُولِ، هَمْزُهُ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ لَا تَسْتَقُونُ فَعَلٌ بِاَوَاؤِ ضَمِيرِ فَاعِلٍ جُمْلَةٌ انشائية مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاَقْوَالِ اِذْ كَامْضَاءٍ اِلَيْهِ، مَضَىٰ بِاَضْفَاءِ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ اَفْعَلٌ مَحذُوفٌ اِذْ كَرَقُولِ۔

اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝۱۲۳ ۙ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ۝۱۲۴

آیت نمبر ۱۲۳، ۱۲۴: هَمْزُهُ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ تَدْعُونَ فَعَلٌ وَاوَاؤُ ضَمِيرِ فَاعِلٍ بَعْلًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَر مَعطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَاؤُ عَاطِفَةٌ تَذَرُونَ فَعَلٌ وَاوَاؤُ ضَمِيرِ فَاعِلٍ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَبْدَلٌ مِنْهُ اللهُ مَبْدَلٌ مِنْ رَبِّكُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَاؤُ عَاطِفَةٌ رَبُّ مَضَىٰ اَبَائِكُمُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَوْصُوفٌ الْاَوَّلِينَ مَفْعُوتٌ، مَوْصُوفٌ بِمَضَىٰ اِلَيْهِ مَعطُوفٌ، مَعطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطُوفٍ مَبْدَلٌ مِنْهُ اَبَدِلُ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِاَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَعطُوفٌ، مَعطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطُوفٍ جُمْلَةٌ مُتَافِرَةٌ انشائية هُوَ۔

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَهُمُ كَذِبُوهُمْ لَمُبْحَضُونَ ۝۱۲۵

آیت نمبر ۱۲۵: فَاهُ ضَمِيرٌ كَذَّبُوا فَعَلٌ وَاوَاؤُ ضَمِيرِ فَاعِلٍ هُ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَر جَزَاءٌ، اَوَاؤُ شَرْطٌ مَحذُوفٌ اِذَا قَالَ لَهُمُ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ فَاهُ ضَمِيرٌ اَوَاؤُ اسْ كِي شَرْطٌ مَحذُوفٌ هُوَ اِذَا وُجِدَ مِنْهُمْ التَّكْذِيبُ، اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمُ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ، لَامٌ مَذْهَبَةٌ مُخَضَّرُونَ اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُمُ ضَمِيرٌ مُسْتَرَفَاعٌ فَاعِلٌ سَلْ كَر شَبَّهَ جُمْلَةً هُوَ كَر خَيْرٌ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَيْرٌ جُمْلَةً اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔

اِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلِصِينَ ۝۱۲۶

آیت نمبر ۱۲۶: اِلَّا حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ عِبَادَ اللهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَوْصُوفٌ الْمُخْلِصِينَ مَفْعُوتٌ، مَوْصُوفٌ بِمَفْعُوتٍ مُسْتَشْفَىٰ هُوَ كَذَّبُوا اِوَاؤُ ضَمِيرِ۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ۝۱۲۷ ۙسَلَّمَ عَلٰى اِلٰى يٰسِينَ ۝۱۲۸ ۙاِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۲۹

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳۰

آیت نمبر ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰى يٰسِينَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ اَيَاتِ كِي تَرْكِبُ اَوَاؤُ لَمْ يَكُنْ فِي كَر رَجُلِي هُوَ۔

وَ اِنْ لَوْ كَا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۳۱

آیت نمبر ۱۳۱: وَاوَاؤُ اسْتِفْهَامِيٌّ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ لَوْ كَا اِسْمٌ كَا اِسْمٌ، لَامٌ مَذْهَبَةٌ مِّنَ الْمُرْسَلِيْنَ طَرَفٌ مُسْتَقَرٌّ كَا لَمِنَ كِي مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر خَيْرٌ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَيْرٌ جُمْلَةً اِسْمِيَّةٌ مُتَافِرَةٌ هُوَ۔

اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۳۲ ۙاِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغُبْرِ يٰسِينَ ۝۱۳۳ ۙثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰجِرِيْنَ ۝۱۳۴

مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مبتدا اور اس کی خبر مَوْجُودٌ محذوف ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ لَيْسَتْ فعل ہو مستتر فاعل فی بَطْنِهِ جار با مجرور متعلق اَوَّلِ اِلٰی حرف جار یُؤْمِرُ مضاف یُبْعَثُونَ فعل مجہول باو ضمیر نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر یہ مجرور ہے، جار با مجرور متعلق یعنی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں۔

فَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝۱۳۷ وَابْتَدْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝۱۳۸ وَارْسَلْنَاهُ اِلٰی

مِائَةِ اَلْفِ اَوْ يَزِيدُونَ ۝۱۳۹

آیت نمبر ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸: فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَمْرًا نَا اَلْحُوْتَ بَتَّبَدْنَا، تَبَدَّلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب ذوالحال واو حالیہ ہُو سَقِيمٌ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مفعول بہ بِالْعَرَاءِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ اَبْتَدْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل عَلَيَّهِ جار با مجرور متعلق شَجَرَةً مَوْصُوفَةٌ مِّنْ يَقْطِينٍ جار با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بصفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی، واو عاطفہ اَرْسَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ اِلٰی حرف جار مِائَةِ اَلْفِ مِمز با تمیز معطوف علیہ، او عاطفہ يَزِيدُونَ فعل باو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

فَاَمَّنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰی حِينٍ ۝۱۳۸

آیت نمبر ۱۳۸: فَاء عاطفہ اَمَّنُوا فعل باو ضمیر فاعل معطوف علیہ، فَاء عاطفہ مَتَّعْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِلٰی حِينٍ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

فَاَسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝۱۳۹

آیت نمبر ۱۳۹: فَاَسْتَفْتِهِمُ اس کا عطف اس فَاَسْتَفْتِهِمُ ہے جو ابتدائی سورت میں ہے۔ ہمزہ برائے استفہام لِرَبِّكَ کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْبَنَاتُ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمُ کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْبَنُونَ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخرہ انشائیہ ہوں۔

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ۝۱۴۰

آیت نمبر ۱۴۰: اَمْ عاطفہ خَلَقْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل الْمَلٰٓئِكَةُ ذُو اَلْحَالِ اِنَاثًا حال، ذوالحال با حال پھر ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا شٰهِدُونَ اسم فاعل با هُمْ ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال خَلَقْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہوں۔

اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اٰفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝۱۴۱

آیت نمبر ۱۵۱: الْاَحْرَفِ تَخْبِرَانِ حَرْفٍ تَحْقِيقِ هُمْ ضَمِيرِ اس کا اسم مِنْ جَدِ وَاَفَكِهِمْ مَرْكَبِ اِضَافِي مَجْرُورٍ، جَدِ بَا مَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٍ مُقَدِّمٍ، لَا مَرْمِزَ حَلْقَةٍ يَقُولُونَ فِعْلٌ بِاِوَاءِ ضَمِيرِ فَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٍ مُقَدِّمٍ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ اِنْ كِي خَبْرِيَّةٍ اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ هُوَ۔

وَلَدَا اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۱۵۱﴾

آیت نمبر ۱۵۲: وَلَدَا فِعْلٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ، دُونُوں مَلْ كَرُوقُلْ كَا مَقُولِهِ هُوَ، وَاِوَاءِ حَالِيَّةٍ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ هُمْ ضَمِيرِ اس کا اسم لَا مَرْمِزَ حَلْقَةٍ كَاذِبُونَ خَبْرِيَّةٍ اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرِ يَقُولُونَ كِي ضَمِيرِ فَاعِلٍ سَ حَالِ هُوَ۔

اصْطَفٰى الْبَنَاتِ عَلٰى الْبَنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

آیت نمبر ۱۵۳: هَمْزَةٌ بَرَاءَةٌ اِسْتِفْهَامِ اصْطَفٰى فِعْلٌ هُوَ مُشْتَرَفَاعِلِ الْبَنَاتِ مَفْعُولٌ بِهٖ عَلٰى الْبَنِيْنَ مُتَعَلِّقٌ سَ مَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ

اِنْشَائِيَّةٍ هُوَ۔

مَا لَكُمْ تَدْكِيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۴﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۵﴾

آیت نمبر ۱۵۴، ۱۵۵: مَا اسْمِ اِسْتِفْهَامِ مُبْتَدَا لَكُمْ كَاثِبٌ كَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِ خَبْرٍ، مُبْتَدَا بِاِخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ اِنْشَائِيَّةٍ هُوَ كِيْفَ كَاثِبِيْنَ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرِ حَالِ مُقَدِّمِ تَحْكُمُونَ فِعْلٌ وَاِوَاءِ ضَمِيرِ ذُو اِلْحَالِ مُؤَخَّرِ ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ مَا لَكُمْ سَ مَلْ هُوَ۔ هَمْزَةٌ حَرْفِ اِسْتِفْهَامِ فَكَا عَاطِفَةٌ اُوْرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هُوَ عَمِيْنُكُمْ عَنِ الْحَقَّائِقِ، اَلَا نَا فِيْ تَذَكَّرُونَ فِعْلٌ بِاِوَاءِ ضَمِيرِ فَاعِلِ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْطُوفِ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ هُوَ۔

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵۶﴾

آیت نمبر ۱۵۶: اَمْ عَاطِفَةٌ لَكُمْ كَاثِبٌ كَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِ خَبْرِ مُقَدِّمِ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ مُبْتَدَا مَوْخَرٍ، مُبْتَدَا بِاِخْبَرِ جُمْلَةٍ

اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفَةٍ هُوَ۔

فَاَتُوْا بِكُتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۵۷﴾

آیت نمبر ۱۵۷: فَكَا فِصِيْحَةٌ اُوْرِ اس كِي شَرْطِ مَحْذُوفِ هُوَ اِذَا كَانَ كَذَا لِكَ، اَتُوْا فِعْلٌ وَاِوَاءِ ضَمِيرِ فَاعِلِ بَا مَجْرُورٍ جَدِ كِتٰبِكُمْ مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ مَجْرُورٍ، جَدِ بَا مَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٍ مُقَدِّمٍ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ دَالِ بِرِجْزِ اِوَاءِ اِنْ شَرْطِيَّةٍ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِعْلٌ نَا قِصْبِ اِسْمِ وَخَبْرِ جُمْلَةٍ خَبْرِيَّةٍ شَرْطِيَّةٍ، شَرْطِ دَالِ بِرِجْزِ اِسْمِ سَ مَلْ كَرِ شَرْطِ مَحْذُوفِ كِي جِزْءِ شَرْطِ بِاِجْزِ اِوَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَاَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

آیت نمبر ۱۵۸: وَاِوَاءِ اِسْتِنَافِيَّةٍ جَعَلُوْا فِعْلٌ وَاِوَاءِ ضَمِيرِ فَاعِلِ بَيْنَهُ مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاِوَاءِ عَاطِفَةِ بَيْنِ الْجِنَّةِ مَرْكَبِ اِضَافِيٍّ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْطُوفِ كَاثِبًا كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَرِ مَفْعُولِ مَنِيٍّ مُقَدِّمِ، نَسْبًا مَفْعُولٌ بِهٖ اَوَّلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ وَ مَفْعُولِيْنَ جُمْلَةٍ خَبْرِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ هُوَ وَاِوَاءِ عَاطِفَةِ لَا مَرْمِزَ لِقِسْمِ اُوْرِ قِسْمِ مَحْذُوفِ هُوَ قَدْ عَلِمْتِ فِعْلٌ اَلْجِنَّةُ فَاعِلٌ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ هُمْ ضَمِيرِ اس کا اسم لَا مَرْمِزَ حَلْقَةٍ مُحْضَرُونَ اس مَفْعُولِ بِاِمْطُوفِ ضَمِيرِ نَائِبِ فَاعِلِ خَبْرِيَّةٍ اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ عَلِمْتِ كَ دُو مَفْعُولِ كَ قَائِمِ

مقام، فعل با قائل و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم جَعَلُواہ معطوف ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۹﴾

آیت نمبر ۱۵۹: سُبْحَانَ مصدر مضاف لفظاً لِلَّهِ مضاف الیہ عَنْ حرف جار ما اسم موصول یَصِفُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور مصدر کے متعلق، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سَبَّحْتُ کا، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مقررہ ہوں۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۰﴾

آیت نمبر ۱۶۰: إِلَّا حرف استثناء عِبَادَ اللَّهِ مرکب اضافی، موصوف الْمُخْلِصِينَ صفت، موصوف بہ صفت مُحَضَّرُونَ کا مشش منقطع ہوں۔

فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿۱۶۲﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۳﴾

آیت نمبر ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳: فَاء استثنائی ان حرف تحقیق کُمْ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا موصول تَعْبُدُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کا اسم ما حجازیہ أَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم عَلَیْہِ جار مجرور متعلق مقدم بآء زائدہ جارہ فَا تَنْبِیْنِ اسم فاعل أَنْتُمْ ضمیر فاعل إِلَّا حرف استثناء مِنْ اسم موصول هُوَ ضمیر مبتدا، صَالٍ الْجَحِيمِ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، اسم فاعل با قائل و مفعول بہ ملام منصوب خبر، مَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾

آیت نمبر ۱۶۴: واو استثنائی مَا نَانِہِ مِنَّا کائِن کے متعلق ہو کر اَحَدٌ کی صفت، موصوف بہ صفت مبتدا، إِلَّا حرف استثناء لَهُ کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿۱۶۵﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾

آیت نمبر ۱۶۵، ۱۶۶: واو عاطفہ ان حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم لام مذ حلقہ نَحْنُ مبتدا، الصَّافُّونَ خبر، مبتدا با خبر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم، لام مذ حلقہ نَحْنُ ضمیر مبتدا، الْمُسَبِّحُونَ خبر، مبتدا با خبر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿۱۶۷﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ

الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۹﴾

باجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، فقاء جزائیہ ساء فعل صَبَّاحُ الْمُتَذَرِّیْنَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل خبر مقدم، صَبَّاحُهُمْ مرکب اضافی مخصوص بالذم مبتدا مخذوف ہے مبتدا باخبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۷۸﴾ وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۹﴾

آیت نمبر ۱۷۸، ۱۷۹: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ان کی ترکیب ابھی اور گزری ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾

آیت نمبر ۱۸۰: سُبْحَانَ مضاف رَبِّكَ مرکب اضافی مبدل مندرج العِزَّةِ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بابدل مضاف الیہ، عَنْ جادہ مآ موصولہ یَصِفُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ باجرور، جادہ باجرور متعلق، مصدر مضاف بامضاف الیہ و متعلق و مفعول مطلق فعل مخذوف سَبَّحْتُ کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ متانفہ ہوں۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

آیت نمبر ۱۸۱، ۱۸۲: واو عاطفہ سَلَّمَ مبتدا، عَلَى الْمُرْسَلِينَ کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، واو عاطفہ الْحَمْدُ مبتدا، لاہ جادہ اَللّٰهُ موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت باجرور، جادہ باجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔



اطلا السیرت

(متن . حدیث معرب)

تقریر محمد شہینہ الناقد مولانا ظفر احمد العثماني القحطاني شرفہ اللہ علیہ

ترجمہ و تشریح مولانا:

احیاء السیرت

مولانا نعیم احمد
مدرسہ جامعہ غیر النزاریہ، ٹٹانہ شہر

مکتبہ املائیہ
ٹٹانہ، پاکستان۔ فون: 0771151